

بلاشبہ اللہ کا اصل دین اسلام ہی ہے۔ القرآن

میرا قبولِ اسلام

انگریز نو مسلمین کے قبولِ اسلام کی داستان
اُن کے اپنے قلم سے

ترجمہ
مشیر سوز


مُسْلِمِ مِکِّی سَوَسَانِیْ عَطِیْ
عزیز منزل، برانڈر تھروڈ، لاہور
ووکنگ مسلمیشن اینڈ ٹریڈنگ ٹرسٹ،

۲۹۷۹۹۲
ب ۵۸۲
۱۵۲۲۷

DATA ENTERED

قیمت: دو روپے پچاس پیسے
طبع اول: دسمبر ۱۹۶۲ء
تعداد: ایک ہزار

پاکستان ٹائمز پریس لائبریری میں چھپ کر دفتر وکنگ مسلم مشن اینڈ لٹریچر سوسائٹی عزیز منزل برائو لہور
لاہور سوشل سائنس سوسائٹی



شاہجہان مسجد - ووکنگ - سرے - انگلستان

اِنْتِسَابَا

انسان کی فطرت کے نام،

مترجم —————

صفحہ	فہرست	نمبر شمار
۱	حوت اول	۱
۱۷	تعارف شاہ جہان مسجد اور امام گرام	۲
۳۷	"میرا قبول اسلام"	۳
۱	انگریزوں مسلمین کے پتہ حیات	۴

حرفِ اول

گذشتہ سال ڈوکنگ مسلم مین اینڈ لٹریچر ٹرسٹ انگلستان نے عید الفطر کے موقع پر "اسلام اور چوٹس" کے نام سے ایک کتاب انگریزی میں شائع کی تھی۔ یہ کتاب پانچ حصوں پر مشتمل ہو پہلا حصہ اسلامی تعلیمات اسلامی تہذیب و تمدن اور ثقافت و معاشرت کے متعلق مسلمان مفکروں کی تحریرات کا انتخاب ہے۔ دوسرے حصے میں انگریزوں نے مسلمانوں کے قبول اسلام کی خود نوشت داستانیں درج ہیں جن میں ان کی روحانی کشمکش مذہب کے بارہ میں مثبت و منفی تفکرات اور اسلامی تعلیمات کے تاثرات حسین پیرایہ میں مرقوم ہیں۔ تیسرا حصہ مشاہیر عالم، غیر مسلم مفکرین اور مہتممین کی اسلام اور بائبل کے بارے میں آراء پر مشتمل ہے اور چوتھے حصے میں قرآن کریم کی آیات کو اور احادیث نبویہ کا انتخاب، حضرت خواجہ کمال الدین کے مضمون "اسلام — میرا دین انتخاب" اور دیگر متفرق اقتباسات درج ہیں۔

کتاب مذکورہ کا دوسرا حصہ خاص طور پر اس کتاب کی شہرت اور مقبولیت کا باعث ہوا ہے۔ ماہنامہ "اسلامک ریویو" انگلستان میں اسلام قبول کرنے والوں کے تاثرات "میں کیوں مسلمان ہوا" کے عنوان کے تحت شائع ہوتے رہتے ہیں۔ مغرب میں تبلیغ اسلام کے کام سے دلچسپی رکھنے والے اصحاب کی یہ خواہش تھی کہ ان تمام مضامین کو کتابی صورت میں شائع کیا جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر ان مضامین کو مذکورہ بالا تین اور حصوں کے اضافہ کے ساتھ کتابی صورت میں "اسلام اور چوٹس" میں اشاعت کے لیے آراستہ کیا گیا ہے۔

یہ کتاب معززین میں پہنچے اسلام کے موثر، کامیاب اور نتیجہ نیر اسلامانیت کو، جسے
اس صدی کے اوائل میں ایک خوش آئند خواب اور محزون کی بڑ سمجھا جاتا تھا، ایک زندہ اور عملی
حقیقت کے طور پر پیش کرتی ہے:-

”اسلام اور یوشیہ کے دوسرے حصے میں جس کا اردو ترجمہ ”قبول اسلام کے نام سے
آپ کے زیر نظر ہے، ان یورپین مسلمانوں کے قبول اسلام کے تاثرات جمع کیے گئے ہیں جن میں
کئی ایک معذرت و نفرت زدہ برسرِ فکر، مختلف و ڈاکٹر، بڑے بڑے تاجروں اور وکالت داروں سے
مستعلم، محقق و مؤرخ، شہزادے اور شہزادیاں، الابرڈ اور بیرتھ، غرض ہر شئیہ زندگی سے تعلق رکھنے
والے لوگ شامل ہیں۔ یہ کتاب خاص طور پر اس لئے بھی لکھی گئی ہے کہ مستحق ترقی یافتہ
عالم کے مختلف طبقوں کے لوگوں کے ذہنوں پر اسلام اور اس کی تعلیمات نے جو اثرات
ترتیب کیے ہیں وہ بڑے حسین اور دلکش انداز میں اس میں درج ہیں۔ اس کے پڑھنے سے معلوم
ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر کس قدر نظری اور روحانی قوتیں موجود ہیں اور اس نے بنی نوع انسان
کی ادوی اور روحانی استعدادوں کی نشوونما اور تقویت کے لئے جو لائحہ عمل پیش کی ہے وہ
فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ بیساریت کے اس معرودہ ان کام کو کہ اسلام تمدن کے ذریعہ
پھیلا ہے، اس کتاب نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ اور اس سے اسلامی تعلیمات کی روحانی
قوت و کشش اور روشن کی طرح منظرِ عالم پر آگئی ہے۔

۱۹۱۸ء میں حضرت خواجہ کمال الدین علیہ الرحمہ بیت تبلیغ اسلام کی ترقی سے اہمیت
تشریح کی گئی تو عام مسلمانوں نے ان کا یہ لکھنا مذاق آڑا یا کہ کھلا مستحرفی ذہن بھی سمجھی، اسلام
قبول کر سکتا ہے؟ اور دوسرے لفظوں میں انہیں یہ یقین ہی نہ تھا کہ اسلام مغرب کے ترقی یافتہ
ذہن پر نظری ذریعہ کی شمایلی ڈان سکتا ہے اور روحانی غلابیم پہنچا سکتا ہے۔ لیکن لارڈ میڈلے
ڈاکٹر مارکوس، سر آریلیا لہ بملٹن، مارٹن ڈیک بکچال و غیر ہم ایسی ذی علم و مرتبت شخصیتوں کے

اسلام قبول کرنے پر مسلمانان ہندوپاک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور انہیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ اسلام میں واقعی فطری جذب و کشش موجود ہے اور اس کے اندر ایک ایسی مقناطیسی قوت پائی جاتی ہے جو ادب و علم و دانش اور سعید و دارح کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ۱۹۱۲ء سے دو کنگ مسلم مشن (انگلستان) مغرب میں تبلیغ اسلام کے کام میں ہمہ تن مشغول ہے یہ اسلام کی برکات و ثمرات سے مغربی دنیا کو متمتع کر رہا ہے۔ اور نور اسلام کی منیا یاریوں سے مغرب کی روحانی دنیا متور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے یہ ادارہ آج بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے۔

ابھی تک ہمارے ذہنوں میں یہ بات غیر شعوری طور پر منقش ہے کہ مغرب میں اسلام قبول کرنے والوں کے پیش نظر کوئی دنیوی اغراض ہوتی ہیں، اسن اتفاق سے امریکہ کی ایک نوجوان اور پڑھی لکھی اویبہ مارگریٹا مارکس (مریم مجیدہ) جو ایک دو سال قبل امریکہ میں مسلمان ہوئی تھیں اب پاکستان میں تشریف رکھتی ہیں ان کے مضامین ماہنامہ اسلامک ریویو مجریہ لندن میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان مضامین سے ان کا اسلامی تعلیمات کے گہرے اور وسیع مطالعہ کا پتہ چلتا ہے۔ اور ان کی طرز تحریر اور طرز استدلال اسلام کے لئے جوش و جذبہ غیرت و حمیت اور اس پر کمال ایمان کو واضح کرتا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ مدیر طلوع اسلام بھی کچھ ایسے ہی ذہنی انقباض میں مبتلا ہیں جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ وہ اسلام اور چوش پر تنقید و تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-
 "اس قسم کی کتاب کا شائع ہونا بڑا ضروری تھا۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ جن توقعات کو لے کر ہم نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا وہ پوری نہ ہوئیں۔ ہم نے سمجھا تھا کہ یورپ کے متلاشیان حقیقت نے اسلام کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہوگا اور پھر بتایا ہوگا کہ ان کے نزدیک وہ نوع انسان کی ان مشکلات کا کیا حل بتاتا ہے جن سے

اقوام عالم اس وقت دو چار ہیں اور یہ دین کس طرح وہ راستہ دکھاتا ہے
جس کی تلاش میں انسانیت مارے مارے پھرتی رہی ہے۔ لیکن ہمیں اس قسم کی
کوئی بات بھی ان لوگوں کے بیانات میں نہ مل سکی۔

مدیر طلوع اسلام کا خیال ہے کہ حلقہ بگوش اسلام ہونے والوں کو اسلامی تعلیمات تبھی متاثر کر سکتی ہیں
جب وہ ان مشکلات کا حل پیش کریں، جن سے اقوام عالم اس وقت دوچار ہیں۔ لیکن مذکورہ تاثرات
میں تو اسلامی تعلیمات کی سادگی، حقیقت پسندی، تہذیب و فضاہتوں سے برا معاشرہ کی تشکیل
کے لئے ہدایات۔ زندگی کی سادگی و تازہ میں ان تعلیمات کی عملی شکل و صورت، رنگ و نسل اور قومیت
کے امتیاز سے پاک اسلامی برادری۔ خدا سے تعین پیدا کرنے کے لئے غیر فطری اور مبہم قسم
کے عقائد پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانے کی بجائے خود و فکر کی تلقین۔ سادہ اسلامی طریق عبادت
جس کے ذریعہ ہر ایک بشر اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق خدا کا مقرب بن سکتا ہے اور ایسی ہی عقل
معمولی باتوں کا ذکر ہے۔ یہ حقائق اور تاثرات مدیر طلوع اسلام کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتے
کاش اگر وہ تھوڑے سے غور کے ساتھ "اسلام اور چیوس" کے صفحات کا مطالعہ فرماتے تو ان کی بیان
کردہ توقعات بھی یقیناً یقیناً پوری ہو جاتیں جن میں انگریزوں و مسلمین کے خود نوشتہ مضامین میں ایسے حقائق
اور تاثرات موجود ہیں۔ اور ان مشکلات کا خاص طور پر ذکر ہے جن سے اقوام عالم دوچار ہیں۔ چہند
اقتباسات درج ذیل ہیں:۔

(۱) ڈاکٹر حمید مارٹن لکھتے ہیں:۔

اسلام کے اصول و تعلیمات کی تحقیق کے دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ انسانیت
کے متعلق میرے جو اپنے نظریات تھے اسلامی نظریات ان سے مختلف نہ
تھے اور اس سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اسلام دینِ فطرت ہے۔ خاص کر خدا کے
وجود اور خدا کی ذات و صفات کے متعلق اسلام کا نظریہ بہت ہی پاک ہے

ان مسائل میں اسلام کا نظریہ بے حد واضح اور عقلی ہے اور اسلام نے خواہ مخواہ عقیدہ کے طور پر کوئی بات ذہن انسانی پر زبردستی نہیں ٹھونس ہے۔ دیگر مذاہب کی طرح اسلام کے عقائد موجودہ سائنس سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے بلکہ موجودہ سائنس سے اسلام کے عقائد کو تقویت پہنچتی ہے۔ اور یہ بھی ایک واضح ثبوت اس بات کا ہے کہ اسلام مذہب فطرت اور ہر دور اور ہر زمانے کے لئے ہے۔ چونکہ سائنس اور فطرت کے اصول اسلامی اصولوں کی مخالفت نہیں بلکہ تائید و حمایت کرتے ہیں اس لئے ایک ایسے شخص کے لئے جو اپنی بہترین قابلیت کے ساتھ سائنس کی ترقیات میں سرگرم ہو اس سے زیادہ بہتر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا جس کی سائنس خود حمایت کرے اور یہ مذہب صرف اسلام ہے۔ اسلام افراد اور مومنین کے درمیان ایک سنہری کڑی ہے۔“

(۲)۔ پولینڈ کے ایک تو مسلم رفقہ طراز ہیں:-

”مجھے اعتراضات کرنا پڑا کہ اسلام کے اصول میرے ذہنی رجحان کے عین مطابق اور انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرتے کے لئے مکمل ہیں۔ میں نے اسلام میں انسانی نظام حیات کے لئے ایک مبسوط و مکمل ضابطہ پایا۔ ایسا ضابطہ حیات جو پوری دنیا میں خدا کی حکومت قائم کرنے کے لئے ہے اور جس میں فطرت انسانی کے مطابق ایسی چمک ہو جو دوسرے جو ہر دور کے لئے مناسب و موثر ہے۔۔۔۔۔ تہذیب و تمدن میں بلا اصول ہونے کی حیثیت سے اسلام کے اصولوں کو میں نے قبول کیا۔ میں اسلام کے بنیادی اصول و نکات سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں ان میں زکوٰۃ کا اصول بھی ہے جو سوسائٹی کے اقتصادی نظام کو منظم و مستحکم رکھنے کے لئے

بے مثل ہے۔ اسلام کے اصول و راہنما، ناجائز و ناپسندیدہ منافع خوری جن میں سود خوری بھی شامل ہے۔ اس کی ممانعت اور ایک سے زیادہ شادی کی اجازت کے متعلق اسلامی اصول و احکام نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اسلام کے یہ تمام تمدنی و اقتصادی اصول کیونکہ سرمایہ پرستی کے درمیان بہترین راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اسلام میں افراد جماعتوں اور مملکتوں کے درمیان اختلافات و مناقشات کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ بتایا گیا ہے۔ تعلیم و تمدن کی بہترین واضح حدیں دکھی گئی ہیں انصاف و مساوات کا تحفظ کیا گیا ہے اور انسانیت کی حقیقی رہنمائی و رہبری کی گئی ہے۔“

داسماخیل ویسلاویزوسکی (پولینڈ)

(۳)۔ سر آرچیبالڈ ہملٹن کا بیان ہے کہ :-

”دینا کے تمام مذاہب میں اسلام ہی وہ مذہب ہے۔ جو جاہل اور متعصب لوگوں کا سب سے زیادہ تخریبی متاثر ہے۔ حالانکہ یہ وہ مذہب ہے کہ لوگ اگر دریا سمجھنے کی کوشش کرتے تو ان پر اصرار ہوتا کہ اسلام ہی سوشلزم کے مسئلہ کا صحیح حل ہے۔ کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امیر اور غریب، زبردست اور کمزور میں مساوات پیدا کرتا ہے۔ اور ایک انسان کو دوسرے انسان کے لئے رحمت کا باعث بنانا ہے۔ انسانی نسل تین طبقوں میں منقسم ہے۔ اول وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو معاش پیدا کرنے کے لئے تنگ و دوکرتی پڑتی ہے۔ تیسرا آخری طبقہ بیکاروں اور کاہلوں کا کثیر طبقہ ہے۔ یا پھر وہ لوگ ہیں جو اپنے کٹے کی وجہ سے یا ناموافق حالات کی بناء پر غایبزی اور دراندگی کے گردھے میں پڑے ہیں۔ علاوہ ازیں اسلام شخصی قابلیت...

اور ذاتی ذمہ داری کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ مذہب تخریبی نہیں تعمیری ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک شخص زمیندار ہے۔ اور اتفاق سے امیر ہے۔ اسے زمین کی کاشت کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ کچھ ملائت تک زمین کی کاشت نہ کرے اور وہ یونہی برکار پڑی رہنے دے تو یہ زمین اس کے قبضہ سے نکل جائے گی، اور عوام کی ملکیت ہو جائے گی۔ اور اسلامی شریعت کی رو سے یہ زمین اس شخص کی ملکیت قرار پائے گی جو اس زمین سے فائدہ اٹھانے کا اہل ہو اور جو اسے کاشت کر سکے۔

(۴)۔ ایک جو من تو مسلم مسرت خدا مان ہو جو م نکھتے ہیں :-
 ” اشتراکیت میں چند اچھی باتیں ہیں اور اسی طرح جمہوریت اور نازی ازم بھی اپنے اندر خوبیاں رکھتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی ایک میں بھی نیک زندگی کے لئے مکمل لائحہ عمل نہیں ہے۔ یہ حسن اسلام میں ہے اور اسی لئے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ اسے قبول کرتے ہیں۔“

(۵)۔ ہالینڈ کے فیصل ڈبلیو ویگن نے اپنے ان تاثرات کا ذکر کرتے ہوئے جن کے نتیجے میں انہوں نے اسلام قبول کیا لکھا ہے کہ :-

” میں نے اچھا جستجو اس حد تک جاری رکھی کہ میں نے اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب کا مطالعہ بھی کیا۔ اور اسی سلسلہ میں مجھے مذہب اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کا بھی موقع ملا۔ اسلام کے متعلق میرے مطالعہ کی بنیاد قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرتے پڑھی اور قرآن شریف میں یوں پڑھا کہ دنیا میں کوئی ایسا قوم نہیں ہے جس میں متنبہ کرنے والے نہ آئے ہوں اور اس کا میرے

قلب و ذہن پر بڑا اثر پڑا۔ ساتھ ہی اسلام میں مساوات و اخوت کے متعلق
 میں نے جو کچھ پڑھا اس سے میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوا کہ اسلام نے انسانیت
 کا تمام مذاہب سے زیادہ تحفظ کیا ہے۔

میں نے مذاہب کے متعلق تحقیقات کے دوران اکثر مذاہب میں
 تنگ نظری کا مشاہدہ کیا لیکن اسلام کے متعلق میں نے دیکھا کہ یہ مذہب
 وسعت نظر کی تعلیم دیتا ہے اور دنیا بھر کی اچھائیاں حاصل کرنے کی ترغیب
 اسلام میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے یہ ارشاد گرامی پڑھا
 کہ عظیم حاصل کرو خواہ اس کے لئے چین جانا پڑے۔ اس حدیث شریف کو پڑھ
 کر مجھے محسوس ہوا کہ واقعی اسلام تاریکی سے روشنی میں لانے کا ذریعہ ہے
 اور جب میں نے پوری طرح یہ تحقیق کر لی کہ انسان کے لئے مذہبی، تمدنی، اقتصاد
 سیاسی اور عدل و انصاف کی حیثیت میں بہترین راستہ صرف اسلام دکھاتا ہے
 تو میں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر کے دلی اطمینان و سکون حاصل کیا۔

یہ ہیں وہ تاثرات جو اسلام قبول کرنے والے یورپین اصحاب نے اس مذہب کے متعلق لکھے
 ہیں اور جن میں انہوں نے نہایت صفائی کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے کہ اسلام ہی
 وہ مذہب ہے، جو نوع انسانی کو تنگ نظری اور نسلی و لونی تفاوت و امتیازات سے نکال کر
 وحدت انسانی کے مشترکہ پلیٹ فارم پر کھڑا کرتا ہے یہ ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو زندگی
 کے ہر شعبہ کے متعلق مکمل عملی ہدایات اپنے اندر رکھتا ہے، جن پر عمل پیرا ہو کر وہ تمام مشکلات
 اور مصائب دور ہو سکتی ہیں جن میں اقوام عالم اس وقت گھری ہوئی ہیں تعجب ہے کہ مدیہ طلوع
 اسلام کو مغربی تو مسلمین کے مندرجہ بالا بیانات میں کیوں یہ باتیں نظر نہ آئیں، کیا اس کی ذمہ داری
 اپنی کوتاہ نظری اور غلط طرز فکر تو نہیں ہے؟

معاشرے میں فرد ایک وحدیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی اصلاح اور اس کے فکر و عمل میں صحیح توازن پیدا کرنا مذہب کا اصل کام ہے۔ آج کے بین الاقوامی مسائل جو مغربی سیاست کی پیداوار ہیں افراد ہی کے فکر و عمل کا نتیجہ ہیں۔ افراد کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جن کے گرد و موموں کی زندگی اور معاشرے کا مستقبل گھومتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ اس کی بیسیوں مثالیں خود بین الاقوامی سیاست میں دیکھنے میں آتی ہیں جن میں بین الاقوامی مسائل پر افراد کی طرز فکر و عمل کا واضح اور دور رس اثر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ کے بعد ترو شیف کی آزاد پالیسی نے اگر ایک طرف غیر جانبدار طبقے کو جہنم دیا اور مغرب کے آہنی دیوار کے پراپیگنڈے کو بے کار کر کے رکھ دیا۔ اور یوں کے مسئلے کو ایک بار پھر امن عالم کے لئے ایک خطرہ بنا دیا ہے تو دوسری طرف چین جو اب تک روس کا گہرا دوست تھا، ایک نئے ٹیپ میں دنیا کے سیاست پر رونما ہو چکا ہے۔

امریکہ میں جان فاسٹر ڈلس غیر جانبداری کو ایک بڑم قرار دیتے تھے اور اسی نظریہ کے تحت انہوں نے کئی ایک فوجی معاہدے اور سیاسی سمجھوتے کئے لیکن جان ایف کینیڈی کے صدر بننے ہی غیر جانبداری کو تسلیم کر لیا گیا اور گذشتہ فوجی معاہدے اور سیاسی سمجھوتے کمزور پڑ گئے اس سے معاہدوں میں منسلک ممالک امریکہ سے بدظن ہونے شروع ہو گئے اور سطح امریکہ کو نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرد کو معاشرے کی بنیاد قرار دیا ہے۔ روزمرہ کی زندگی

لے اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لئے یہ مقرر کر دیا کہ جو کوئی کسی جان کو بغیر جان کے (بدلہ کے) یا زمین میں فساد کے بار ڈالے تو گویا اس نے سب لوگوں کو مار ڈالا اور جو کوئی اس کو زندہ رکھے تو گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ رکھا۔ (المائدہ - ۳۲)

نمازوں میں جو آخری دعا پڑھی جاتی ہے اس کے معانی اور ترتیب پر غور کریں تو اس میں معاشرے کی تشکیل و ترتیب یوں ہے۔ فرد، اس کی اولاد، والدین اور پھر آخر میں مومنین۔ قرآن مجید کی یہ معاشرتی تشکیل نہایت حقیقت پسندانہ ہے۔ اس حقیقت سے پہلو تہی اور انحرافات نے قومی کردار کی اصلاح کے طریق کار کو غیر موثر بنا دیا ہے جس سے دنیا آج نت نئے مسائل و مسائل سے دوچار ہے۔ دنیوی ترقیات اور مادی تعیشات کے ہوتے ہوئے بھی انسانی قلب بے چین و بیقرار ہے اور اس کی روح کو آرام و سکون میسر نہیں۔ معاشرہ میں عدم توازن، تضام، آویزش، بیزاری اور انتشار ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لئے کہ موجودہ ترقی یافتہ معاشرے کی عمارت کسی روحانی اخلاقی اور فطری بنیادوں پر استوار نہیں ہے۔

فرد ہمارے محدود زندگی کے مختلف مراحل میں باہمی مودت، ہمدردی، بے غرض موانست اور نعاون کا محتاج ہے۔ اور اس کی جسمانی اور ذہنی ضرورتیں ہم آہنگ اور متوازن معاشرے کی متقاضی ہیں۔ قرآن مجید نے معاشرتی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند بنیادی لیکن نہایت ضروری اصول بیان کئے ہیں۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو انسانی فکر و عمل میں توازن ہی معاشرے کو صحیح طور پر ترقی، امن اور انفرادی فلاح و بہبود کا حامل بنا سکتا ہے۔ اسی لئے قرآن مجید نے انسانی "قلب" کی جو فکر و عمل کا محرک ہوتا ہے نشوونما پر بہت زور دیا ہے۔

۱۔ بے پروا دُعا رکھنے تو بقیہ سے کہ نماز پڑھتا ہوں اور میری اولاد کو بھی، اسے ہمارے پروردگار میری دعا قبول کرے۔ بے ہمارے پروردگار جس دن حساب ہونے لگے مجھے اور میری ماں باپ اور مومنین کو بخشد۔ (ابراہیم - ۴۰)

۲۔ جو ایمان لاتے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں سن رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لئے انجام کار

خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ (الرعد - ۲۸)

یونیسکو چارٹر کی تمہیدی سطور بھی اسی حقیقت کی غمازی کرتی ہیں اور ان میں اس حقیقت کو دستکات کیا گیا ہے کہ جنگ و جدلی انسان کے ذہن میں ہی جنم لیتا ہے اور اس لئے امن کا تحفظ بھی انسانی ذہن میں ہی تلاش کرنا چاہیئے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسانی ذہن میں امن پسندی کے قیمتی جوہر کو نشوونما دی جائے اور اسے زیادہ اجاگر کیا جائے تاکہ وہ جنگی جذبات پر غالب رہے قرآن مجید نے اس زیادتی کو معاشرے کی حیثاتی تباہی کا پیش خیمہ گردانا ہے۔ اور معاشرے میں افراد کی انفرادیت کی بقا کے لئے عدل۔ آپس میں مودت و برادری پیدا کرتے کے لئے احسان، معاشی توازن پیدا کرنے اور معاشرے کو طبعاتی جنگ سے محفوظ رکھنے کے لئے قریبیوں کو دینے، اخلاقی اقدار کے استحکام کے لئے بے حیائی اور برائی سے بچنے اور خانہ جنگیوں اور تنازعات کی روک تھام کے لئے زیادتی سے رکنے کے احکام دیئے ہیں۔ چونکہ یہ باتیں معاشرے کی نشوونما اور ترقی کے لئے ناگزیر ہیں اس لئے خدا تعالیٰ نے انہیں نصیحت کہا ہے۔

معیشت و معاشرت کی اصلاح کے لئے کوئی بھی نظام برپا کیا جائے مگر جب تک اس نظام میں فرد کی حیثیت تسلیم نہ کی جائے۔ اس کے فکر و نظر پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ اس کے فعل و عمل پر اعتماد نہ کیا جائے اور اس کی انفرادی صلاحیتوں پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اور معاشرہ کی تعمیر و ترقی میں فرد کی اہمیت کو نہ دانا جائے اس وقت تک وہ معاشرہ دیرپا ثابت نہیں ہو سکتا خواہ اس میں بظاہر کتنی ہی خوبیوں ہوں اس لئے قرآن مجید میں بنیادی احکامات کے ساتھ ساتھ انسانی قلب کی اصلاح پر بہت زیادہ

لے کیونکہ جنگیں انسان کے ذہنوں میں جنم لیتی ہیں اس لئے پہلے انسان ہی کے ذہن میں امن کا تحفظ کرنا چاہیئے۔ (تمہیدی یونیسکو چارٹر)

۲۔ اللہ تمہیں عدل اور احسان اور قریبیوں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ترقی حاصل کرو۔ (العنکبوت: ۱۰-۹)

زور دیا گیا ہے قرآن مجید کا دعوے ہے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو انسان کی فطری صلاحیتوں کو نشوونما دیتا اور ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے۔

ہمارے موجودہ معاشرے میں ان اصولوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا جس کی وجہ سے ان میں انضباط اور ہم آہنگی کا فقدان ہے گو بائبل میں معاشرتی احکامات تو موجود نہیں لیکن عیسائی اقوام نے معاشرتی ضروریات کے پیش نظر متبادل انتظامات، مختلف امدادی اور اصلاحی سوسائٹیوں کی صورت میں کر لئے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم مغربی تہذیب کی ناپائیدار چیزوں کو جو سطحی طور پر تو بصورت نظر آتی ہیں، فوراً اپنا لیتے ہیں، لیکن وہ بلند اخلاقی معیار اور اعلیٰ طرز فکر جس نے اب تک مغربی تہذیب کو سہارا دے رکھا ہے اس کی طرف کبھی توجیہ دینے کی تہمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ انسانی فکر و عمل کی رہنمائی اس کا قلب کرتا ہے اور اسی قلب کی مناسب تربیت و تہذیب انسان کو فلاح و کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے اس لئے یہ خیال کہ آج بین الاقوامی دور ہے اس لئے مغربی ذہن کو صرف ایسا مذہب یا نظام ہی متاثر کر سکتا ہے جو ان مشکلات کا حل پیش کرے جن سے اقوام عالم دوچار ہیں ایک غلط فہمی ہے اس لئے عیسائیت کہ پہلے بیان کر چکے ہیں، ان مشکلات کی ابتدا افراد کے فکر و عمل میں صحیح توازن کے فقدان کا نتیجہ ہوتی ہے اور عدم توازن معاشرہ کے بیشتر مسائل کا ذمہ دار ہے۔ اس عدم توازن اور تصادم نے معاشرہ کو سرانمرستہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ پھر ان

اے سو بیکو ہو کہ دین کی طرف رخ کر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم رہ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدائش کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ قائم رہے و الا دین سے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (الروم - ۳)

آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارا دین

اسلام ہوتے پر میں راضی ہوا۔ (المائدہ - ۳)

سہ قرآن مجید الرعد - ۲۸، المؤمنون - ۲۳ اتا ۱۱)

مسائل کی نوعیت عام فرد کی زندگی میں اس کے ماحول، حالات، ذہنی و فکری سطح کے اختلافات کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے اور خود ہر ایک فرد کے کچھ اپنے مسائل اور ذہنی الجھنیں ہوتی ہیں جن سے نجات حاصل کرنے اور ان مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لئے اس کا ذہن سرگرداں رہتا ہے۔ چنانچہ جب آپ اسلام قبول کرنے والے مرد و زن کی روحانی کشمکش کی داستانوں کو پڑھیں گے تو ہر ایک کے انداز فکر اور ذہنی پرواز کو بالکل مختلف اور جداگانہ پائیں گے۔ خود اسلام کے اوائل میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں حضرت خدیجہؓ، حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ کے قبول اسلام کی وجوہات ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مغرب کے متلاشیان حق میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے اقوام عالم کی ان مشکلات مسائل کے متعلق اصلاحی نقطہ نگاہ کو نہ سراہا ہو۔ اس کی چند مثالیں ہم شروع میں دے چکے ہیں جو طلوع اسلام کی یا یوسی کو ایک توشہ گوار امید میں بدلنے کا موجب ہو سکتی ہیں۔

اب ہم اسلام کے متعلق قرآن کریم کے دعاوی اس کی پیشگوئیوں اور اس کی نشر و اشاعت کی ترغیب تلقین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

قرآن مجید نے اسلام کو دینِ فطرت کہا ہے اور حتمی طور پر کہا ہے کہ یہ ہمیشہ قائم ہے گا اور اس کے لئے دلائل بھی پیش کئے ہیں چونکہ خدا ہی اس کائنات کا حاکم و خالق اور قادر مطلق ذات ہے اس کے اشارے پر کائنات کا نظام جاری و ساری ہے، اور آسمانوں اور زمین کے تمام عناصر چارہ ناچار اسی کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن کو خدا تعالیٰ نے بطور نصیحت اور شد و ہدایت نازل کیا اور وہ قلب کی بیماریوں کو شفا بخشتا ہے اور خدا پر ایمان لانے والے کے لئے ہدایت اولہ

۱۔ قرآن مجید الروم - ۳۰

۲۔ "وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ" کے دین کے سوا کچھ اور چاہتے ہیں اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں توشہ و نانوہش

اس کے فرمانبردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ (آل عمران - ۸۷)

رحمت کا باعث ہے اس لئے جو اس دینِ فطرت سے استراحت کرے گا وہ دینِ دنیا میں سب سے خیر
 رہے گا۔ دینِ اسلام کا پیغام کسی خاص قوم سے متعلق نہیں بلکہ یہ تمام قوموں کے لئے رشد و ہدایت
 کی خوشخبری اور رحمت کا عالمگیر پیغام ہے اور یہ سہرا پادایت اور سچائی ہے۔
 اس دینِ منین کی حامل امتِ مسلمہ کو قرآن مجید میں سب سے اچھی امت کہا ہے لیکن اس
 ساتھ چند شرائط بھی عائد کئے ہیں اول یہ کہ یہ امت لوگوں کی بھلائی کے لئے پیدا کی گئی ہے دوسرے
 یہ کہ یہ اچھے کاموں کا حکم دے گی اور برے کاموں سے روکے گی پھر انہی شرائط کی اہمیت پر ایک
 دوسری جگہ زور دیتے ہوئے اس کام کے لئے ایک نظام قائم کرنے کی ہدایت فرمائی ہے
 اور یہ یقین دلایا ہے کہ نہ صرف ایسی تنظیم ضرور کامیاب و کامران ہوگی بلکہ اسلام اپنی بے نظیر تعلیمات
 سے اسے لوگوں کے پاس رتبہ کی طرف سے نصیحت آگئی ہے اور اس کے لئے شرف ہے جو ہر قوم

میں ہے اور قوموں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔ (یونس - ۵۷)

۱۱۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہتا ہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ
 آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ (آل عمران - ۸۴)
 ۱۲۔ اور ہم نے تجھے تمام قوموں کے لئے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے
 لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (الانبیاء - ۲۸)

۱۳۔ اور ہم نے تجھے تمام قوموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ (الانبیاء - ۱۰۷)
 ۱۴۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو کل دینوں پر غالب کرے
 گو مشرک برہمہ ہیں۔ (التوبہ - ۳۳)

۱۵۔ تم سب سے اچھی امت ہو جو لوگوں (کی بھلائی) کے لئے برپا کی گئی ہے تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو
 اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ (آل عمران - ۱۱۰) ۱۶۔ اور پابندی کے تم میں ایک گروہ ہو جو بھلائی
 کی طرف بلائے اور اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے اور وہی کامیاب ہوئے ہیں۔ (آل عمران - ۱۰۳)

کی وجہ سے دوسرے ادیان پر غالب ہے گا اور انکاف و اطراف عالم میں پھیلے گا۔ آج کے جدید دور میں جبکہ مختلف نظریات کی ترویج و اشاعت کے لئے دنیا کی بڑی بڑی اقسام منظم طریق پر کوشاں ہیں ضرور تھا کہ یہ کامل دین حیات جدید وسائل اختیار کرتا اور خدا سے علم و خیر نے پہلے ہی سے بھلائی کو پھیلانے کے لئے ایک تنظیم قائم کرنے کی ہدایت فرمائی۔

اسلام کی حقانیت اور اس کی اشاعت کے لئے منظم کوشش کے بار آور ہوئی تھوڑی سی جھلک و دنگ مسلم مشن اینڈ لٹریچر سوسائٹی (انگلستان) کی گذشتہ پچاس سالہ تبلیغی تہنگ و تازہ میں نظر آتی ہے۔ اس مشن کے ذریعہ سینکڑوں یورپین لوگوں نے اسلام قبول کیا جن میں برٹش اور جو من سوسائٹی کے اوسط طبقے کے ذی علم و مرتبہ اور صاحب حیثیت افراد شامل ہیں۔ یہ خیال کرنا کہ محض اسلام کے نام ہی سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں کچھ اتنا صحیح نہیں۔ دراصل وہ پاک دل جو سچائی کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں جب ان تک یہ تعلیم پہنچتی ہے یا ان تعلیمات کے ماننے والوں میں ان کو اپنے کا اتفاق ہوتا ہے تو ان کا قلب سلیم اس دین کو قبول کرنے میں ذرہ بھر تامل نہیں کرتا۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ امام شاہ جہان مسجد و دنگ (انگلستان) یا امام مسجد برلن (جرمنی) نے کہیں اسلام پر لیکچر دیا اور اس کے اختتام پر کسی نے اٹھ کر کہہ دیا کہ میں نے دین کا جو نقشہ پلٹے ذہن میں سوچ رکھا تھا وہ وہی ہے جو آج کے مقرر نے بیان کیا ہے اور اس نے اسلام قبول کرنا اعلان کر دیا۔

۱۰ قرآن مجید التوبہ - ۳۳

۱۱ ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف (عالم) میں ان کی اپنی جاؤں میں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے لئے کھل جائے کہ وہ حق ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ تیرا رب ہر ایک چیز کا شاہد حال ہے؟ (السجدة - ۸۳)

۱۲ (قرآن مجید) متقیوں کے لئے ہدایت ہے۔ (البقرہ - ۲)

چاہیے کہ لوگ قرآن مجید کی مندرجہ بالا آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نیک کام میں
 مشق کے تبلیغی کاموں میں روڑے اٹکانے کی بجائے اس کا تعاون کریں تاکہ ہم ان خوش
 نصیبوں میں گنے جائیں جنہوں نے خدا کی بات کو پورا کرنے کے لئے سعی کی۔
 آخر میں مجھے عزیز مکرم بشیر احمد سوز صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے، جنہوں نے اپنی گونا
 گون مصروفیتوں کے باوجود نو مسلمین حضرات کے بیانات کا ترجمہ کر کے ہمارے لئے از یاد ایمان
 کا سامان فراہم کیا ہے۔ فجزاہ اللہ احسن الجزاء۔

خاکسار۔ ناصر احمد

سیکرٹری و ونگ مسلم مشن اینڈ لٹریچر ڈسٹ لاہور
 یکم نومبر ۱۹۹۲ء

تعارف

شاہ بہیمان مسجد - ووکنگ - انگلستان

اور

حضرات ائمہ کرام



شاہجہان مسجد، وکنگ، انگلستان

شاہجہان مسجد وکنگ انگلستان ۱۸۸۹ء میں ایک ممتاز مستشرق ڈاکٹر جی ڈبلیو لائٹنر نے ایم اے پی۔ ایچ۔ ڈی۔ ایل۔ ایل۔ ڈی۔ ایل نے تعمیر کروائی۔ ڈاکٹر موصوفت نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ برصغیر ہندو پاک کے ان علاقوں میں تعلیمی خدمات کے سلسلہ میں گزارا ہے جو پاکستان میں شامل ہیں۔ آپ پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار تھے اور ان چند ممتاز ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جنکی ان تھک کاوشوں اور قابلیت نے اس یونیورسٹی کو چار چاند لگا گئے ہیں۔ آپ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد آپ انگلستان چلے گئے۔ چونکہ آپ کو مشرقی تہذیب و تمدن اور علوم و فنون سے گہری دلچسپی تھی اور اسلئے مشرقی تہذیب کے ماہر تھے اس لئے آپ کے دل میں دارالعلوم اہل سنت مشرقیہ کے قیام کا خیال پیدا ہوا اس مقصد کے لئے آپ نے وکنگ کی وہ جگہ انتخاب کی جہاں اب شاہجہان مسجد اور سرسار میموریل ہاؤس تعمیر ہیں۔ مسجد کی تعمیر کے لئے مسلمانانِ برصغیر ہندو پاک نے عطیات کیے بیگم شاہجہان مرحومہ ملکہ ریاست بھوپال نے اس کے لئے ایک خطیر رقم غطا کی۔ اسی رعایت سے اس مسجد کا نام ملکہ عالیہ کے نام پر شاہجہان مسجد رکھا گیا۔ مسجد کی تعمیر ہندی اور عربی فن تعمیر کا شاندار امتزاج ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر لائٹنر مرحوم کا اسلام اور اسلامی تہذیب و تمدن، علوم و فنون اس کی تمدنی معیشت و معاشرت اور رواج و روایات کا کتنا گہرا مطالعہ تھا۔ اپنی مجوزہ یونیورسٹی کے سلسلہ میں انہوں نے شاہجہان مسجد کے ساتھ ایک رہائشی مکان اور ایک موزیم

بھی تعمیر کروایا۔ آپ نے اورینٹل یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ دوکنگ انگلستان کی طرف سے کئی عالمانہ کتب شائع کیں اور ایک ماہنامہ بھی جاری کیا جس میں عربی اور انگریزی ہر دو زبانوں میں تحقیقی مضامین شائع ہوتے تھے۔ ڈاکٹر لٹل مورجوزہ یونیورسٹی کے قیام و ترقی کے لئے کئی تجاویز رکھتے تھے کہ ۱۸۹۹ء میں ان کی موت نے موقع نہ دیا۔

ڈاکٹر صاحب مرحوم بروک وڈ میں اپنے خاندانی قبرستان میں مدفون ہیں۔ آپ کی قبر پر سنگ مرمر کا مجسمہ نصب ہے اور کتبہ پر عربی میں یہ عبارت لکھی ہے ”العلم خیر من المال“ کہ علم دولت سے بہتر ہے۔

آپ کی وفات کے بعد کئی سالوں تک شاہجہان مسجد غیر آباد رہی اور اکثر مقفل رہتی رہی۔ لوگ گاہے گاہے اور وہ بھی عید کے موقعہ پر نماز عید کے لئے آجایا کرتے تھے۔ آثار و استاد سے پتہ چلتا ہے کہ ۱۹۰۳ء میں دوکنگ میں عید کے موقعہ پر ایک اجتماع ہوا جس میں ہندوستان سے آئے ہوئے ممتاز مسلمانوں نے شرکت کی۔ مزید یہ کہ ۱۹۰۳ء سے پہلے شاہجہان قیام انگلستان کے دوران نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں تشریف لائے تھے۔

۱۹۱۲ء میں الحاج خواجہ کمال الدین مرحوم و معتمد نے مغرب کی سر زمین میں پہلا اسلامی مشن قائم کیا اور بے نفس نفیس انگلستان تشریف لائے۔ بڑی جدوجہد کے بعد اس مسجد کو ڈاکٹر لٹل مورجوزہ کے ورثاء سے واگذار کر دیا اور آباد کیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے دوکنگ مسلم مشن اینڈ لٹریچر ٹرسٹ انگلستان کی بنیاد رکھی۔ شب و روز کی محنت و مشاقہ سے انگریزی زبان میں گرانقدر لٹریچر پیدا کیا۔ خواجہ صاحب مرحوم کی مساعی جمیلہ اور خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت سے شاہجہان مسجد چند ہی سالوں میں مغرب دنیا میں ایک اہم اسلامی مرکز کی حیثیت اختیار کر گئی اور یہاں سے اسلامی تعلیمات کی تشریح و تبلیغ ہونے لگی۔ اس وقت سے اب تک یہ ادارہ تبلیغ اسلام کے کام میں سرگرم عمل ہے اور آج خدا کے فضل و کرم سے بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے۔

حضرت الحاج خواجہ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ

حضرت الحاج خواجہ کمال الدین سن ۱۸۷۷ء میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا حضرت خلیفہ عبدالرشید لاہور کے مشہور شاعر اور قاضی تھے۔ آپ نے فورین کرپشن کالج سے ۱۸۹۳ء میں بی اے پاس کیا، اور اکتانکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں ٹیچر اور پھر پرنسپل کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ۱۸۹۸ء میں آپ نے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی۔ اور پشاور میں وکالت شروع کی۔ اسی دوران برصغیر ہند و پاک کا دورہ فرمایا اور اسلام پریچر ہوئے۔ آپ نے علیگڑھ یونیورسٹی کے مالی استحکام کے لئے بھی متعدد دورے کئے، ان خدمات کے صلہ میں آپ کو علیگڑھ یونیورسٹی کا فیلو بنا دیا گیا۔ آپ اس یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرستیز کے ممبر بھی رہے۔ اسلام کے لئے درد و تڑپ نے برصغیر میں آپ کو متعارف کرادیا۔

۱۹۱۲ء میں تبلیغ اسلام کے لئے آپ انگلستان تشریف لے گئے اور مختلف ثقافتی جماعتوں میں اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ مغربی لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے اور مذہب اسلام اور اس کے رہنبروں کے خلاف غلط فہمیوں اور اعتراضات کو دور کرنے کی غرض سے ۱۹۱۳ء میں ایک انگریزی ماہنامہ اسلامک ریویو اینڈ مسلم انڈیا کے نام سے جاری کیا۔ اس رسالہ میں اسلام کے متعلق رہنمائی کے علاوہ مسلمانوں کے سیاسی اور تمدنی حالات و کوائف بھی شائع کئے جاتے تھے۔ انگلستان میں بیچٹھ ہوئے بھی خواجہ صاحب ہندوستان کے مسلمانوں کی مشکلات سے بے پرواہ نہ ہوئے اور گاہے گاہے ان کی رہنمائی کرتے رہے پچھتاچھ ۱۸ فروری ۱۹۱۳ء میں خواجہ صاحب نے آل انڈیا مسلم لیگ کے لکھنؤ کے اجلاس

کے لئے انگریزی میں ایک خط لکھا جس میں انگریز ذہن میں ہندوستانی مسلمانوں کیلئے خصوصاً اول
دوسرے مسلمانوں کے خلاف خود ماحد درجہ کی نفرت اور تعصب کا بالتفصیل ذکر کیا۔ اس
وقت خواجہ صاحب کا دفتر ۵ اقلیت سٹریٹ لندن میں تھا۔ اہی ایام میں سب سے پہلے قبول
السلام کرنے والی سعید روح ایک خاتون تھیں جن کا نام مسز واپولٹ ابراہیم تھا۔ جولائی ۱۹۱۳ء
میں آپ نے کانگریس آف راجس پور ڈگریس کے چھٹے بین الاقوامی اجلاس منعقدہ پیرس میں شرکت فرمائی
دکنگ سرے میں ڈاکٹر جی ڈبلیو لائٹمن نے بیگم بھوپال اور دوسرے مسلمان امراء کے عطیات
سے ایک مسجد تعمیر کی اور اس کے ساتھ ایک رہائشی مکان بنوایا۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم وہاں سے
اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ دکنگ کے نام سے کئی بلند پایہ کتابیں بھی شائع کرتے رہے۔ یہ مسجد ڈاکٹر
صاحب کی موت کے بعد سے بند پڑی تھی۔ خواجہ صاحب مرحوم نے سر عباس علی بیگ اور سید
امیر علی مرحوم کی مدد سے یہ مسجد اور اس سے قطعاً جہاد کا ایک ٹرسٹ قائم کیا اور ۱۲ اگست ۱۹۱۳ء
میں پہلی مرتبہ نماز کا سلسلہ جاری ہوا۔

۱۔ نومبر ۱۹۱۳ء کو لارڈ ہیڈلے نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اس اعلان نے
عیسائی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ دسمبر ۱۹۱۳ء تک کپتان سینٹے سگر ہا، وائیکونٹ کاٹیلڈیئر
نوبل مین پور کیوچ، لیڈی کیوبلڈ ہسز کلفورڈ خواتین جیسی نامور ستیاں اسلام قبول کر چکی تھیں۔ دو
سال کے قبل عرصہ میں اسلام قبول کر نیوالوں کی تعداد ایک سو بیس تک پہنچ چکی تھی۔ جون ۱۹۱۴ء
میں آپ ہندوستان واپس آگئے اور دو سال تک ممبئی میں رہے، پھر مرکزی دفتر کے قیام اور
مالی وسائل کے لئے کوشاں رہے۔ ۱۹۱۶ء میں آپ پھر انگلستان تشریف لے گئے
مارچ ۱۹۱۹ء میں آپ سخت بیمار ہو گئے اور ڈاکٹروں کے مشورہ کے مطابق آپ ہندوستان
واپس تشریف لے آئے۔ جنوری ۱۹۲۰ء میں ہندوستان کے مختلف مقامات کا دورہ
کیا۔ فروری ۱۹۲۰ء میں آپ ملاس گئے اور متعدد جلسوں سے خطاب کیا۔ ستمبر ۱۹۲۰ء

میں آپ نے رنگون، برہما اور جاوا کا دورہ شروع کیا۔ ۲۲ نومبر ۱۹۲۱ء کو انگلستان پہنچے
 مئی ۱۹۲۲ء میں لیگ آف نیشنز یونین انگلستان کے ممبر منتخب ہوئے۔ ۲۳ جون ۱۹۲۳ء
 لارڈ ہیڈلے الفاروق کے ساتھ حج بیت اللہ کے لئے انگلستان سے روانہ ہوئے۔ ۵
 جولائی ۱۹۲۳ء کو اسکندریہ پہنچے۔ ان کے اور لارڈ ہیڈلے کے اعزاز میں متعدد اجلاس
 منعقد ہوئے جن میں آپ نے بھی تقاریر فرمائیں۔

۸ اکتوبر ۱۹۲۳ء کو لارڈ ہیڈلے کی معیت میں ہندوستان پہنچے اور سارے ہندوستان
 کا دورہ کیا۔ اگست ۱۹۲۴ء کو بمبئی میں ہندو مسلم اتحاد کے سلسلہ میں متعدد جلسوں سے خطاب
 کیا۔ نومبر ۱۹۲۴ء میں علیگڑھ یونیورسٹی میں مسلمان نوجوانوں کو السلام پر متحدہ لیکچر دیئے اگست
 ۱۹۲۵ء میں پھر انگلستان تشریف لے گئے۔ فروری ۱۹۲۶ء میں لارڈ ہیڈلے کے
 ساتھ افریقہ کے دورے پر گئے اور ستمبر تک مشرقی اور جنوبی افریقہ میں اسلام پر تقاریر کیں اور
 پادری ڈویر جیسے دشمن اسلام کے پھیلے ہوئے نہر کا تریاق کیا۔ ۶ ستمبر ۱۹۲۶ء کو آپ
 ہندوستان تشریف لے آئے۔ مارچ ۱۹۲۶ء میں ہندوستان کے مسلمانوں کی ذہنی اور سیاسی
 آنکھوں کا آپ کو شدید احساس ہوا اور اردو ماہنامہ اشاعت اسلام جس میں اسلامک ریویو کے
 مضامین کا اردو ترجمہ شائع ہوا کرتا تھا اب خود ان مسائل پر ان صفحات میں مضامین لکھنے شروع
 گئے۔ افریقہ سے واپس آکر آپ کی صحت زیادہ گر گئی۔ دو مرتبہ آپ کو ڈاکٹروں کے مشورہ
 پر کشمیر جانا پڑا۔ لیکن صحت کی ترقی کے باوجود آپ نے متعدد تصانیف پر قلم فرمائیں اور
 تفسیر قرآن کے کام کو جاری رکھا۔ یہ مضمون جنوری ۱۹۳۲ء سے اشاعت اسلام میں
 شائع ہونے شروع ہوئے۔ دسمبر ۱۹۳۲ء میں آپ نے سورۃ فاتحہ کی نہایت فصیح و
 بلیغ تفسیر لکھنی شروع کی اور خدا کی شان کہ اس مضمون کا آپ نے خود نظر ثانی کی اور ۲۸ دسمبر ۱۹۳۲ء
 کو اپنی وفات سے چند لمحات پہلے اس کو مکمل کر دیا۔

حضرت مولانا صدر الدین صاحب

آپ جنوری ۱۸۸۱ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۰۹ء میں سرکاری ملازمت چھوڑ کر اعلیٰ کلمۃ اللہ اور تبلیغ و اشاعت اسلام کے لئے زندگی وقف کر دی۔ قوم کے بچوں کو بچپن سے اسلامی تعلیم سے روشناس کرائے اور ان کی تربیت کی سفر میں قادیان میں تعلیم الاسلام ہائی سکول کی ابتدا کی۔ حضرت مولانا کی قابلیت اور محنت شاقہ نے اس سکول کو ملک بھر میں ایک امتیازی حیثیت عطا کی۔ مئی ۱۹۱۱ء میں حضرت خواجہ کمال الدین رح باقی و دوکنگ مسلم مشن انگلستان کی واپسی پر ولایت تشریف لے گئے اور فروری ۱۹۱۷ء تک قیام فرمایا۔ اس عرصہ میں آپ مسجد شاہجہان کی امامت کے علاوہ ماہنامہ اسلامک ریویو کی ادارت کا کام بھی کرتے رہے۔ ۱۹۱۸ء میں حضرت مولانا محمد علی غلیہ رحمۃ کے انگریزی ترجمہ کا پہلا ایڈیشن انہی کی نگرانی میں طبع ہوا۔ اس ترجمہ کی طباعت میں مولانا نے نہایت محنت اور نفاست سے کام کیا۔۔۔۔۔

دوسری مرتبہ آپ اگست ۱۹۱۹ء میں انگلستان تشریف لے گئے اور قریباً ۹ ماہ کے قیام کے بعد واپس لاہور تشریف لے آئے۔ ۱۹۲۳ء میں برلن (جرمنی) گئے اور ۱۳ ستمبر ۱۹۲۴ء میں سب سے پہلی خوبصورت اور وسیع مسجد کی بنیاد رکھی اور اپنی نگرانی میں تعمیر کروائی۔ مسجد کی تعمیر ۱۶ فٹ مربع زمین پر ہوئی۔ ۹ فٹ اونچے اور گنبد ۷۵ فٹ اونچا ہے۔ مسجد مشرقی تعمیر کی بہترین نمونہ بنی گئی ہے۔ مسجد کے چاروں طرف کشتادہ سڑکیں ہیں۔ ۱۹۲۵ء میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اسی سال جرمنی سے ایک سہ ماہی رسالہ پبلشر ریویو جاری۔۔۔۔۔ ہوا۔ اس سہ ماہی نے حضرت مولانا موصوف کی نگرانی میں جرمن زبانوں میں اسلامی تعلیمات کا اچھا اثر پیدا کیا۔ مئی ۱۹۲۵ء میں واپس لاہور تشریف لائے۔ یکم جولائی ۱۹۲۶ء کو اشاعت اسلام کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ اپریل ۱۹۲۷ء میں جرمن ترجمہ القرآن مجید کی طباعت کے سلسلہ

میں جو مئی تشریف لگئے اور دسمبر ۱۹۳۷ء میں واپس تشریف لے آئے۔ مولانا موصوف نے اس ترجمہ میں جو مئی زبان میں ایک لمبا دیباچہ لکھا ہے جس میں نہایت عالمانہ انداز میں قرآن مجید کے مختلف موضوعات پر بحث کی ہے۔ یہ ترجمہ سن ۱۹۴۷ء میں طبع ہو کر منظر عام پر آیا۔ مولانا کی مشہور تصانیف یہ ہیں۔ آر وی گو سپلز انیسارڈ، غلبہ قرآن، ضرورت حدیث رحمۃ للعالمین خصائص القرآن، عیسائی معتقدات تعلیم انجیل کی روشنی میں۔ ان میں سے تقریباً تمام کتب کے انگریزی ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ حضرت مولانا سن ۱۹۵۱ء میں حضرت مولانا محمد علی صاحب مرحوم و معذور کی وفات پر احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے امیر منتخب ہوئے۔

حضرت مولانا مصطفیٰ خان صاحب مرحوم

حضرت مولانا مصطفیٰ خان صاحب بی۔ اے۔ ایم۔ آر۔ اے۔ ایس۔ تعلیم سے فارغ ہو کر گورنمنٹ کالج پیٹالہ میں پروفیسر تعینات ہوئے۔ عربی، اردو اور انگریزی زبانوں پر آپ کو عبور حاصل تھا۔

۱۹۱۱-۱۲ء میں ایک علمی و ادبی رسالہ ادب پیٹالہ مشرقی پنجاب ہندوستان سے جاری کیا جو تھوڑی مدت بعد بند ہو گیا۔ ۱۹۱۶ء میں آپ لاہور تشریف لے آئے آپ کی ادارت میں روزنامہ "الحصر" لاہور سے جاری ہوا۔ جسے بعد میں ہفتہ وار کر دیا گیا۔ مارچ ۱۹۲۲ء میں چند ماہ کے لئے آپ نے انگریزی ہفت روزہ "لائٹ" کی ادارت بھی کی۔ ۱۹۲۲ء کے اواخر میں خان صاحب موصوف نے دی اسلاک ورلڈ کے نام سے انگریزی میں ایک ماہنامہ جاری کیا جس کا مقصد پادری زومیر کے رسالہ مسلم ورلڈ کا جواب دینا اور اسلام کی صحیح تعلیمات پیش کرنا تھا۔ یہ رسالہ سات آٹھ سال تک نہایت کامیابی سے چلتا رہا بعد ازاں نامساعد حالات کی بنا پر بند کرنا پڑا۔ مارچ سن ۱۹۲۲ء میں انگلستان تشریف لے گئے اور ۱۹۲۲ء کے

ادائل تک شاہجہان مسجد وکنگ کے امام رہے۔ اور ماہنامہ اسلامک ریویو کی ادارت کرتے رہے۔ اسی دوران میں یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ یا شاخ ہونا شروع ہوئی۔ اس میں اسلام اور قرآن مجید کے موضوع پر آپ کا مضمون جو آپ نے ان کی بہت سی غلطیوں سے پر مضمون کے جواب میں لکھ کر بھیجا درج کیا گیا۔

آپ نے ۱۲ سے زائد کتب تصنیف و تالیف فرمائی ہیں۔ اور بچوں کی کتب کا اسلامی سلسلہ شروع کیا کنگڈم آف ہیون۔ "غزوات نبوی" اور پنجسورہ وغیرہ ان کے شاہکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انگلستان سے واپس آکر مولانا مرحوم نے اسلامک ورلڈ کے نام سے انگریزی میں رسالہ جاری کیا۔ اس میں بلند پایہ مضامین کے علاوہ اسلام پر اعتراضات کے نہایت عالمانہ جوابات لکھے جاتے تھے۔ مولانا نے ۵ اکتوبر ۱۹۴۷ء میں لاہور میں وفات پائی۔

جناب محمد مارادو لوک پتھال

۱۸۷۵ء میں پیدا ہوئے۔ مشہور مہیرو کے ادارہ میں تعلیم پائی۔ مشرق قریب کی مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی حالات کے مطالعہ کی غرض سے فلسطین تشریف لائے ۱۹۰۳ء میں ایک شاہی رومان کے متعلق ایک ناول SAID THE FISHER MEN لکھا۔ ۱۹۲۱ء تک ان کی چیدہ چیدہ کتب کی تعداد ۶۶ سے زائد ہوگی۔ موصوف کا سب سے بڑا شاہکار انگریزی ترجمہ قرآن، جو گولریس قرآن کے نام سے کئی ایڈیشنوں میں چھپ چکا ہے جن مشہور برائڈ میں ان کے مضامین پھلتے رہے انہیں ایجنٹ "سیٹرڈ سے ریویو" نیو ایج" اور کراہیٹ کے نام قابل ذکر ہیں۔ آپ کچھ عرصہ تک بمبئی کرائیکل کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں۔ آپ نے ۱۹۱۸ء میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ اور پھر انگلستان میں مسلمانوں کی مذہبی اور تمدنی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر

حصہ لیا۔ ۱۹۱۹ء میں حضرت خواجہ کمال الدین مرحوم و معذور کی غیر حاضری میں ووکنگ مسجد میں نماز جمعہ پڑھاتے۔ لندن پر پریوے ہاؤس میں لیکچر دیتے رہے اور اس سال انہوں نے نماز عید پڑھائی اور خطبہ عید دیا اور لندن پر پریوے ہاؤس میں تراویح کی نماز پڑھائی۔ نیز اس عرصہ میں اسلامک ریویو کی ادارت کے فرائض بھی سرانجام دیتے رہے ہیں۔

مولانا محمد یعقوب خاں صاحب

آپ کی پیدائش ۱۸ ستمبر ۱۸۹۱ء پر پانی پل پشاور میں ہوئی۔ بی اے کرنے کے بعد بی اے کی ٹریننگ حاصل کی۔ ۱۹۱۱ء میں سرکاری ملازمت سے مستعفی ہو کر اپنی زندگی اسلام کی خدمت کے لئے وقت کر دی۔ ۱۹۲۱ء میں پہلی بار انگلستان تشریف لے گئے وہاں ماہنامہ اسلامک ریویو کے جملہ انتظامات اور مشن کے شعبہ طباعت و اشاعت کا کام سنبھالا۔ ایک سال کے لئے لندن پر پریوے ہاؤس کے انچارج رہے۔ اس عرصہ میں انہوں نے حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "سیرت خیر البشر" اور حضرت خواجہ کمال الدین مرحوم و معذور کی کتاب "راز حیات" کا انگریزی ترجمہ کیا۔ خواجہ صاحب مرحوم جب اس سال جون میں مشرقی ممالک کے دورے پر تشریف لے گئے تو خانصاحب موصوف نے ان کی جگہ سنبھالی۔ ستمبر ۱۹۲۳ء میں دو سال کے بعد واپس لاہور تشریف لائے۔ اور مارچ ۱۹۲۳ء سے ۱۹۳۸ء تک انگریزی ہفت روزہ "لائٹ" کے ایڈیٹر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بلندیہ انگریزی سہ ماہی اسلامک ریویو کی ادارت بھی کی۔ جولائی ۱۹۳۰ء میں ہیڈ ماسٹر مسلم ہائی سکول لاہور اور مینیجر سکولز مقرر ہوئے۔ جنوری ۱۹۵۰ء سے لاہور کے مشہور انگریزی روزنامہ "سول اینڈ ملٹری گزٹ" کے اسسٹنٹ ایڈیٹر مقرر ہوئے اور جنوری ۱۹۵۲ء میں اس کے چیف ایڈیٹر بنا دیئے گئے۔ ۱۹۵۱ء میں حضرت مولانا

محمد علی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن کی وفات پر احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے صدر منتخب ہوئے۔ ستمبر ۱۹۵۶ء میں دوسری دفعہ امام شاہجہان مسجد وکنگ انگلستان کی حیثیت سے تشریف لے گئے۔ ایک سال کے بعد واپس پاکستان تشریف لے آئے۔ ۱۹۵۸ء میں خان بہادر غلام ربانی خان صاحب کی واپسی پر دسمبر ۱۹۵۹ء میں بحیثیت امام تشریف لے گئے۔ آج کل آپ پھر شاہجہان مسجد کے امام ہیں۔ اس مرتبہ آپ جون ۱۹۶۱ء میں انگلستان تشریف لیگے تھے مولانا موصوف اس وقت انگریزی ترجمہ قرآن از مولانا محمد علی مرحوم و معذور کے پانچویں ایڈیشن کی طباعت کے کام میں مصروف ہیں۔ آپ کی مشہور کتب گولڈن ویڈ آف اسلام اور ڈائراکٹ سکرنا ہیں۔

خواجہ نذیر احمد صاحب پارا ایٹ لاء

۲۲ دسمبر ۱۸۹۷ء کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ سنٹرل ماڈل سکول لاہور اور فارین پبلسٹری کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی اور ۱۹۱۱ء میں انگلستان تشریف لے لئے۔ کچھ عرصہ تک لندن یونیورسٹی اور گلڈزہ انسٹی ٹیوٹ لندن میں سول اور میکنیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۱۸ء میں خواجہ صاحب کو مائیسٹر وائرسپلائی کے سلسلہ میں حکومت نے اسٹنٹ انجینئر مقرر کیا۔ ۱۹۲۲ء میں ڈل ہیمپل کی سوسائٹی کے ممبر بنے اور پھر اسی سال لاہور کی پریکٹس شروع کی۔ ۱۹۲۳ء میں وکنگ مسلم مشن انگلستان کے سیکرٹری مقرر ہوئے اور ستمبر ۱۹۲۳ء میں شاہجہان مسجد وکنگ کی امامت کے فرائض انجام دیئے اور ۱۹۲۴ء کے آخر تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس عرصہ میں سر آء چیپلڈ، ہیلٹن جیسی ذی علم شخصیت نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا سب سے بڑا شاہکار تیسس ان ہیون آن اہ کھہ۔ یعنی حضرت عیسیٰ جنت ارضی پر ہے۔ کتاب کے چار ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اور کئی ایک زبانوں میں اس کے ترجمے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ

انہوں نے دو چھوٹی کتابیں اسلام اینڈ سیلوری اور اسلام اینڈ سوشلزم بھی لکھی ہیں :

کتاب مولانا عبدالمجید صاحب

آپ ۱۸۹۶ء میں لدھیانہ مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۱۸ء میں عربی میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے پاس کیا۔ ۱۹۲۲ء میں انگلستان تشریف لے گئے وہاں سے آپ کو جرمنی میں برلن مسلم مشن کے قیام کے لئے برلن جانا پڑا اور ۱۹۲۵ء کے اوائل تک اس مشن کے استحکام اور برلن مسجد کی تعمیر کے کام میں مصروف رہے۔ اس دوران میں آپ نے جرمن زبان بھی سیکھی اور مشہور و معروف جرمن مصنف ڈاکٹر ڈرکس کی جرمنی کتاب — EUROPE'S DEBT TO ISLAM کا انگریزی ترجمہ کیا۔ ۱۹۲۵ء کے اواخر میں آپ انگلستان تشریف لے آئے اور شاہجہان مسجد و ونگ کے قائم مقام امام کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ ۱۹۳۱ء میں ماہنامہ اسلامک ریویو کی ادارت آپ کے سپرد ہوئی۔ ۱۹۲۲ء سے ۱۹۳۵ء کے ابتدائی مہینوں تک آپ پھر امام مسجد و ونگ کی امامت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران و ونگ مشن انگلستان کے جملہ فرائض آپ کے سپرد تھے۔ جنگ کی ہولناکیوں کے درمیان مولانا موصوف نے نہایت باقاعدگی اور استقلال سے مشن کی سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ اور مالی وسائل بھی خود ہی پیدا کرتے رہے کیونکہ جنگ کے دوران میں مرکز سے روپیہ نہ ارسال کیا جاسکتا تھا۔ ۱۹۲۹ء میں اسلامک ریویو کی ادارت پھر آپ کے ذمہ ہوئی اس ماہنامہ کو آپ سے بڑی ترقی دی۔ مولانا موصوف کی شب و روز کی محنت ستاقہ نے اس کو ایک بین الاقوامی جریدہ بنا دیا۔ اگست ۱۹۶۲ء میں آپ کو اسلامک ریویو کا چیف ایڈیٹر مقرر کیا گیا آپ اسلامک ریویو کی ادارت اور شاہجہان مسجد کی امامت کے علاوہ مشن کے مالی استحکام کے لئے ہندوستان، برما، آف ویشیا اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے

مختلف اوقات میں دورے کرتے رہے ہیں۔ مولانا انگریزی کے اچھے ادیب اور ایک بیدار معزز جرنلسٹ ہیں اسلامک ریویو کی جدید گٹ آپ انہی کی مرہون منت ہے۔ آپ انگریزی کے علاوہ عربی، جرمن، فرانسیسی زبانیں بھی جانتے ہیں۔

مولانا آفتاب الدین احمد مرحوم و معذور

آپ جنوری ۱۹۱۰ء میں مقام ٹولہ ضلع بردوان (مغربی بنگال) پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بردوان میں حاصل کی۔ ۱۹۲۳ء میں پریزیڈنسی کالج کلکتہ سے بی اے کا امتحان، امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ تحریک خلافت اور برصغیر ہندوپاک کے مسلمانوں کی گری ہوئی اسلامی حالت سے دل پر چوٹ لگی۔ آپ نے اس تحریک کی رضا کارانہ خدمت مختلف اوقات میں چار سال تک کی۔ ۱۹۲۳ء میں عربی زبان کے ذریعہ اسلام کے برہم راست مطالعہ کا شوق آپ کو دہلی کے قریب دیوبند لے گیا۔ وہاں آپ نے تقریباً ڈیڑھ سال تعلیم حاصل کی، مولانا شبیر احمد عثمانی کا درس سنتے رہے۔ ۱۹۲۵ء میں مذاہب عالم کے مطالعہ کا شوق انہیں لاہور لایا۔ یہاں حضرت مولانا محمد علی رح اور خواجہ کمال الدین رح کے علمی اور روحانی فیض سے مستفیض ہوئے۔ ۱۹۲۶ء میں مولانا عبدالکریم ٹرسٹ کے اسلامی مشن کے انچارج کی حیثیت سے قبلا نگر تشریف لے گئے وہاں کھاسی لوگوں میں تبلیغ اسلام کا کام کرتے رہے اور کھاسی زبان میں اسلام پر کئی کتابچے رقم فرمائے۔ حضرت خواجہ کمال الدین کی خواہش پر ۱۹۳۱ء میں بطور نائب امام شاہجہان مسجد و کنگ تشریف لے گئے۔ ۱۹۳۲ء میں واپس لاہور تشریف لے آئے اور ماہنامہ "اسلامک ریویو" کی ادارت کا کام سنبھالا۔ ۱۹۳۴ء میں پھر امام مسجد و کنگ کی حیثیت سے انگلستان تشریف لے گئے۔ اور ۱۹۳۹ء میں واپس لاہور تشریف لے آئے اور اسلامک ریویو کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ ساتھ ساتھ آپ نے حضرت خواجہ کمال الدین مرحوم و معذور کی کتب کی نظر ثانی کا کام

شروع کیا۔ ۱۹۴۸ء میں ووکنگ مشن کے سیکرٹری منتخب ہوئے اور ۱۹۵۰ء میں ہفت روزہ لاٹ کی ادارت کے فرائض بھی آپ کے سپرد کر دیئے گئے۔ ۱۹۵۳ء میں آپ نے صحیح بخاری کے انگریزی ترجمہ کا کام شروع کیا اور ۱۳ جنوری ۱۹۵۶ء تک تقریباً چار پارے مکمل کر پائے تھے کہ اجل نے آیا۔ ان کی مشہور تصانیف میں اشتراکیت پر دو کتابچے کمپوزم اور مارکسزم انالائٹڈ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ کی تصوف پر مشہور کتاب فتوح الغیب کا انگریزی ترجمہ ہیں۔ آپ کی وفات لاہور میں ہوئی اور احمدیہ قبرستان لاہور میں دفن ہوئے۔

ڈاکٹر شیخ محمد عبدالرشید مرحوم و معذور

۲۲ نومبر ۱۸۹۸ء کو مقام رسول نگر ضلع گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ لائل پور میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول لائلپور سے میٹرک کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا تاہم کرپٹیں کالج سے ۱۹۲۰ء میں بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ اور پنجاب یونیورسٹی میں اڈل آئے۔ ۱۹۲۲ء میں ایم ایس سی بھی اسی کالج سے کی۔ کچھ عرصہ اسلامیہ کالج لاہور میں لیکچرار رہے۔ ۱۹۲۷ء میں احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے ہائٹ سیکرٹری مقررہ کیے گئے۔ ۱۹۲۸ء میں برلن (جرمنی) تشریف لے گئے اور حضرت مولانا صدر الدین بانی مسلم مشن کے ساتھ کام کرتے رہے اور جرمن زبان میں ماہنامہ مسلمش ریویو کی ادارت میں معاونت کرتے رہے۔ ۱۹۳۲ء میں برلن یونیورسٹی سے کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی اس دوران میں انہوں نے برلن کے مشہور پروفیسر سی۔ مانج کی سرپرستی میں اپنا مقالہ تیار کیا۔ مئی ۱۹۳۳ء میں واپس لاہور۔ تشریف لے آئے۔

اکتوبر ۱۹۳۳ء میں دوبارہ بطور امام برلن مسلم مشن تشریف لے گئے۔ ۱۹۳۹ء میں دوسری

جنگ عظیم کے چھڑ جانے پر واپس تشریف لے آئے اور احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ ۱۹۴۶ء میں امام مسجد دوکنگ کی حیثیت سے انگلستان تشریف لے گئے اور ۱۹۵۶ء کو دوکنگ میں وفات پائی۔ اور وہیں مدفون ہوئے۔

جناب اقبال احمد صاحب بی کام

۱۰ اگست ۱۹۳۰ء میں آسام میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دوکنگ لندن میں حاصل کی۔ اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا اقبال الدین احمد مرحوم و مخدوم کے ساتھ ۱۹۳۹ء میں ہندوستان تشریف لائے۔ ۱۹۵۰ء میں آپ نے پنجاب یونیورسٹی کے سیلے کالج آف کامرس سے بی کام پاس کیا۔ آپ کالج کے جریدہ "الاقتصاد" کے ایڈیٹر اور ریوینو کے سیکرٹری بھی رہے۔ ۱۹۵۳ء میں انگلستان تشریف لے گئے اور دسمبر ۱۹۵۶ء تک اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشن کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے۔ مئی ۱۹۵۶ء میں ڈاکٹر شیخ محمد عبداللہ صاحب مرحوم کی اچانک موت پر آپ پر مشن کے تمام فرائض کا بوجھ آن پڑا اور مولانا محمد یعقوب خان صاحب کی آمد تک مشن کی نگرانی کرتے رہے۔ اس دوران میں آپ نے ورلڈ کانگریس آف فلیٹھرز کے سالانہ اجلاس میں شرکت فرمائی۔ ۱۹۵۸ء میں آپ اسلامک ریویو سے منسلک ہو گئے اور اس سال مولانا عبدالمجید صاحب کو جب مشرق وسطیٰ و انڈونیشیا کے دورے پر جانا پڑا تو اسلامک ریویو کی ادارت کی ذمہ داری بھی آپ کے سپرد کی گئی۔ ۱۹۶۰ء سے آپ رضا کارانہ طور پر تبلیغ اسلام کے کام میں مصروف ہیں اور مختلف مجالس میں اسلام کی نمائندگی کرتے رہتے ہیں، آپ کے مضامین اسلامک ریویو میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔

آپ نے اسلام اور چارٹس کے دوسرا حصہ جو اسلام قبول کرنے والوں کی آراء اور مضامین پر مشتمل ہے مرتب کرنے میں کافی محنت اور وقت صرف کیا ہے۔

خاتیہاد رِغلام ریانی خاتصاحب

خاتیہاد رِغلام ریانی خاتصاحب نے ایم اے اور کالج علیگڑھ سے بی اے کیا۔ اور
 الہ آباد یونیورسٹی سے ۱۹۱۸ء میں لاء کی ڈسٹ کلاس ڈگری حاصل کی۔ آپ ماتسہرہ کے بار
 ایسوسی ایشن کے ۱۹۲۹ء تک صدر رہے۔ ۱۹۳۱ء میں آپ کو حکومت صوبہ سرحد نے
 فرمیسٹرڈ یقارہز کمیشن کا ممبر مقرر کیا۔ اس کمیشن نے شمال مشرقی سرحدی صوبہ کی پہلی فرمیسٹرڈ یقارہ
 کاؤنسل کا افتتاح کیا۔ آپ اس کاؤنسل کے ممبر ۱۹۲۲ء سے ۱۹۳۶ء تک رہے اور مرہا جزا دہ
 عبدالقیوم کی پروگریسو پارٹی کے سرکردہ رہے۔ ۱۹۲۵ء میں حکومت صوبہ سرحد نے آپ کو
 پابلیسنٹری ڈیپوٹیشن اور فرمچائز کمیشن کا ممبر نامزد کیا۔ ۱۹۲۳ء میں حکومت ہندوستان کی طرف
 سے اس وفد کے ممبر منتخب ہوئے جو ہندوستان کی قومی انیسروں سے جو مشرق وسطیٰ، ایران
 اور عراق میں کام کر رہے تھے ملاقات کی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ ۱۹۲۹ء میں ۵۶ سال
 کی عمر میں اپنی کامیاب پریکٹس چھوڑ کر آپ نے اپنی رہنما کارانہ خدمات انگلستان میں تبلیغ
 اسلام کے لئے پیش کیں۔ ووکنگ مشن کے بڑھتے ہوئے کام میں ڈاکٹر محمد عبداللہ مرحوم
 کی معاونت کے علاوہ آپ کو امور کمپ میں پانچ سو پاکستانی ہوائی قوج کے تربیتی قوجاؤں کو
 اسلامی تعلیم دینے کی خدمت کرتے رہے۔ ۱۹۵۲ء میں پاکستان واپس آئے پیر مرکزی حکومت
 نے پشاور میونسپل کمیٹی کے ملازمین کی رشتہ ستانی اور بے ایاتی کے اتسداد کے لئے پیش سچ مقرر
 کیا۔ مارچ ۱۹۵۸ء میں دوسری بار خاتصاحب بحیثیت امام شاہجہان مسجد، ووکنگ انگلستان
 تشریف لے گئے۔ تقریباً دو سال کی امامت کے بعد واپس تشریف لائے۔
 اس دو سال کے قیام میں خاتصاحب موصوفت نے امریکہ، جرمنی، ہالینڈ،
 کا دورہ کیا۔

مولانا محمد یحییٰ بیٹ بی بی لے مولوی قاضی

پیدائش شہر سیالکوٹ ۲۴ فروری ۱۹۲۲ء کو ہوئی نومبر ۱۹۴۸ء میں گورنمنٹ ملازمت چھوڑ کر دینی تعلیم کے حصول کی سزق سے لاہور میں مقیم ہو گئے۔

مئی ۱۹۵۶ء میں ڈاکٹر شیخ محمد عبداللہ صاحب کی اچانک موت پر بحیثیت نائب امام مسجد وولنگ انگلستان تشریف لیگئے۔ اور نومبر ۱۹۵۷ء میں امام مسجد برلن کی حیثیت سے جرمنی تشریف لے گئے اور تاحال وہیں قرائن سراجام دے رہے ہیں۔



شیخ محمد طفیل صاحب ایم۔ اے

۶ جون ۱۹۲۱ء کو شملہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شملہ میں ہی حاصل کی۔ بی۔ اے ایم۔ اے اور کالج امرتسر سے کیا۔ ایم۔ اے اسلامیہ کالج لاہور سے پاس کیا۔ ۱۹۴۲ء سے ۱۹۵۱ء تک مختلف اوقات میں احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جاسٹس سیکرٹری اور افسر تبلیغ بلاؤں وغیر رہے۔ نومبر ۱۹۵۱ء میں اسٹنٹ امام مقرر ہوئے۔ نومبر ۱۹۵۲ء میں ہالینڈ میں ڈیپریٹی سٹی میاں محمد ٹرنٹ کے انچارج مقرر ہوئے۔ شیخ صاحب موصوف نے ہیگ میں فرنڈز آف اسلام کے نام سے ایک سوسائٹی قائم کی اس سوسائٹی کی سرگرمیوں نے ڈچ حلقہ میں اسلام کو روشناس کرانے میں قابل قدر خدمات سرانجام دی ہیں۔ اسی دوران میں ڈاکٹر ایم آر میلما ڈاکٹر اسلامی انسٹی ٹیوٹ کیپٹن ڈوم مشرف باسلام ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ اکٹراپ سے اسلام پر تبادلہ خیالات کرتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف بھی اس سوسائٹی کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ دسمبر ۱۹۵۹ء میں آپ بحیثیت امام شاہجہان مسجد وکنگ انگلستان تشریف لے گئے۔

نومبر ۱۹۶۰ء میں ماہنامہ اسلامک ریویو کے جوائنٹ ایڈیٹر کے مزید فرائض ان کے سپرد کئے گئے۔ اگست ۱۹۶۲ء میں آپ کو ایڈیٹر اسلامک ریویو مقرر کیا گیا۔ اردو کے اچھے ادیب ہونے کے علاوہ آپ نے حضرت مولانا محمد علی مرحوم و مغفور کی کئی ایک اردو کتب کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ ان میں سے نبوت کے مسئلہ پر حضرت مولانا مرحوم کی معرکہ آراء ضخیم کتاب النبوة فی الاسلام کا انگریزی ترجمہ قابل ذکر ہے:

میر تقی میر

میرا قبولِ اسلام

تمام مذاہب تاریخی ہیں۔۔۔۔۔ اسلام بھی تاریخی اور سب سے آخری مذہب ہے اسے وجود میں آئے ہوئے تیرہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جو کوئی شخص بھی کسی مذہب سے رشتہ و ہدایت اور نور و بصیرت کو حاصل کرنے کا متمنی ہو اسے اس مذہب کی آسمانی کتاب کو بنظر غائر دیکھنا چاہیے۔ تاکہ اس کو خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور اس کی رضا کی راہوں سے اگاہی میسر آئے۔ ہم کسی مذہب کی اتباع اور فرمانبرداری اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا منہج اصلاح و ارشاد اور ذخیرہ آثار و نشان اپنی صحت و صداقت کے اعتبار سے مستند اور معقول نہ ہو۔ اس لحاظ سے اسلام میرے نزدیک ان انفرادی خصوصیات کا حامل ہے جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتیں۔ مثال کے طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے اور دیگر مذاہب کے پیروکار بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے مذاہب کی مقدس کتب اب اپنی صحت و صداقت کھو چکی ہیں۔ حتیٰ کہ علماء یہود اور اہل باب کلیسا دتے اب انابیل کو مصدق اور مستند سمجھنا ترک کر دیا ہے۔ زرتشت مذہب کے پیروکار اس ساری کتاب میں سے جو ایران کے ایک بزرگ پیغمبر سے منسوب کی جاتی ہے صرف ایسے پانچ چھ ہی کلمات پیش کر سکتے ہیں۔ جو اپنی حقیقی اصلیت میں ان تک پہنچے۔ ویدانت میں بھی جیسے عام طور پر ہندومت کہا جاتا ہے بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ مقدس وید ایسی زبان میں رقم کئے گئے تھے جو آج کل مترک اور مردہ ہو چکی ہے۔ اس زبان کو ہندوستان بھر میں نہ کوئی اب بولتا ہے اور نہ سمجھتا ہے۔ ویدوں کے

اشلوک متبائن متناقض توضیحات اور تشریحات سے بھرے پڑے ہیں۔ جن کی بنا پر ہندومت فرقہ ہائے کثیر میں بٹ چکا ہے۔ بنا بریں اس کے فرقے اپنے مذہب کی میادبات میں بھی ایک دوسرے سے سخت اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ بایں ہمہ وہ ان ویدوں سے ہی فیضان و نرفان حاصل کرتے کے مدعی ہیں۔ ہندوؤں میں محمد بھی ہیں خدا پرست بھی لا ادری (وہ جس کا اعتقاد یہ ہو کہ خدا یا دوسری خیر مادی اشیاء کی ہستی کے متعلق ہمیں کچھ علم نہ تو ہے اول نہ غالباً کبھی ہوگا) بھی ہیں۔ دین فطرت کے قائل بھی۔ بت پرست بھی اور بت شکن بھی۔ مستزاد یہ کہ سب ہی اپنے اپنے نظریہ ہائے فکر کے اثبات کے لئے مقدس ویدوں کو ہی حکم و عدل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کسی ایک ہندو فرقہ کے ترجمہ شدہ وید کو دوسرے فرقے غلط قرار دے دیتے ہیں۔ اور اس کے ابطال و تردید کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے برعکس اسلام کی مذہبی کتاب — القرآن — کے متعلق حبیب و رقیب سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ آج تک یہ اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں یہ آنحضرت صلیعہ پر نازل ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جبکہ معتبر آراء اور مستند فتاویٰ نے مندرجہ بالا امور کی صداقت قائم کر دی ہے اور آج اس حقیقت پر کوئی فرد بشر بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ کسی مذہب کی تعلیمات کی اہمیت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کی دریافت و تحقیق کا ہر ذریعہ مشکوک ہو تو اس صورت میں نہ تو اس مذہب کی تعلیمات قابل غور ہو سکتی ہیں اور نہ اس کے بلند بانگ دعاوی کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے میں یہ بات کہتے ہیں حق بجانب ہوں کہ دوسرے مذاہب کسی بھی طور اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

مختلف نظام ہائے مذاہب کے بانی بزرگوں کے بارے میں بھی اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں۔ ویدانت دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، مگر جن ہستیوں پر یہ ویدوحی ہوئے اور یا جنہوں نے انہیں جمع کیا۔ محض ناموں کے سوا ان کے دوسرے حالات و کوائف کا ہمیں کچھ بھی

پتہ نہیں چلتا۔ اور پھر یہ نام بھی بھٹوں کے شروع شروع میں صمنا بیان ہو گئے ہیں۔ ورنہ ان کو بھی کسی تاریخی پہلو سے بیان نہیں کیا گیا اسی طرح سے حضرت مسیح کی صحیح تاریخی شخصیت مشکوک اور مشتبہ ہے۔ اگر حضرت مسیح کو تاریخی شخصیت بھی مان لیا جائے تو بھی ہم انکی زندگی سے بہت کم واقف ہیں بس ہم یہی پڑھتے ہیں کہ حضرت مریم صدیقہ کے ماں ایک نامی گرامی نصرانی تولد ہوا اور فوراً بعد وہ اور ان کے خاوند اس نومولود کو لے کر ناصرہ نامی جگہ کی طرف چلے گئے۔ تقریباً ہارہ سال کا عرصہ گزرنے کے بعد حضرت مسیح، معبد خاتوں میں اجباراً علماء یہود و مجت و مباحثہ کرنے نظر آئے۔ اور پھر روپوش ہو گئے، تاریخ کی نظر اس عرصہ پر بھی نہیں پڑی۔ تقریباً ۱۰ سال کے تاریخی وقفہ کے بعد خداوندی مسیح یہودی خاندانوں سے باہر نکلتے ہیں اور دریائے اردن کے کناروں پر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اور پھر ان کی دعوت و تحریک کا دور اتنا مختصر تھا۔ کہ نہ تو وہ ہمارے لئے کامل نمونہ ہو سکے اور نہ وہ انسانی زندگی کی مادی اور روحانی گزرگاہوں میں چراغ راہ بن سکے۔ کچھ مواعیظ حسہ، چند معجزے تھوڑی بہت دعائیں اور بددعائیں۔ انسانیت کو ایک مذہب عطا کرنے کے لئے ناکافی ہیں، حضرت مسیح کی جدوجہد اپنے اندر سیمانی اضطراب رکھتی ہے صلیبی تفصیل کے سوا آغاز و انجام کا صرف ضمنی اجمال ہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بلاشبہ صاحب شریعت نبی اور تاریخی شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے مصر میں اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا۔ اور آپسے خوارق عادت معجزے اور مافوق الفطرت کرامات صادر ہوئیں۔ لیکن آپ کی زندگی زندگی کی شاہراؤں میں کسی بھی طرح مدد و معاون نہیں ہو سکی۔ مختصر یہ کہ سابقہ تمام مصلحین قوم اور بیرون اور لادین کی زندگیاں داستان پارینہ اور رازہ مر بستہ بن چکی ہیں۔ جب میں نے حضرت اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ شروع کیا تو میری حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی حضور کی حیات طیبہ کے حالات و واقعات ایک مسلسل منظر کی صورت کے بعد دیگرے آنکھوں کے سامنے گذرتے گئے۔ ہمد سے لے کر لحد تک حضور کی حیات طیبہ

کا ہر قول و فعل شرح و بسط سے بیان کیا گیا ہے اور مستند طور پر جمع کیا گیا ہے۔ حضور کی ذات باریکات میں اخلاق عالیہ صفات حمیدہ اور اوصاف حسنة کا اجماع دیکھ کر حیران رہ گیا۔ زندگی کی یہ بلندیوں کسی اور انسان میں نظر نہیں آتی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ حضورؐ نے مختلف کرداروں کے اعلیٰ و ارفع اوصاف اپنی ذات میں کیسے سمو لیے، آپ منکسر المزاج بھی تھے اور جبری اور دلیر بھی۔ تو عروس کی مثل شرمیلے تھے اور مرد میدان بھی۔ بچے آپ کے چنچل پن اور نگیلی رسیلی اور پیاری باتوں کی وجہ سے از حد پیار رکھتے تھے اور فہیم و کبیر بزرگ آپ کی فہم و فراست کے باوجود آپ کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، آپ صادق بھی تھے ابن بھی معتمد عیب بھی تھے۔ شفیق باپ اور محبوب خاوند بھی اور پسر فرض شناس اور ممد و معادن بھائی بھی۔ عسریسری میں آپ کی شخصیت ایک ہی رہی۔ نہ امارت و دولت مرعوب کر سکی اور نہ غربت نے زنجور کیا۔ امن و آسٹی اور بد امنی و بے چینی کے اوقات میں حضورؐ کے مزاج میں یکسانیت رہی۔ میزان بھی تھے اور متوازن بھی۔ دہروں کے لئے فیاض اور اپنے لئے قانع۔ الغرض آنحضرتؐ صلح کو انسانی کردار کے کسی بھی پہلو سے پرکھیں تو آپ کے کردار میں کوئی سقم نہیں ملیگا۔ آپ نیر و خوبی اور تقویٰ و طہارت کی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے پیکر تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے معاندین نے جو کچھ لکھا اور کہا ہے میں نے ان تمام کا یہ تفصیل اور تنقیدی نقطہ نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ معاندین آپ کے ذاتی کردار میں ایک عیب بھی ظاہر نہ کر سکے۔ آپ کا دامن ہر قسم کے معائب سے پاک اور آپ کا کردار اعلیٰ و اکمل ہے، آپ کے سماجی کردار کے دو ایک پہلوؤں پر جو اعتراض وارد ہوئے ہیں۔ اگر بخور و بکھا جائے تو وہ پہلو اصولاً معقول اور ناقابل اعتراض ہیں۔ پیشتر اس کے کہ ہم ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے حضورؐ کی ذات اقدس کو دیکھیں اور پرکھیں جن کی وجہ سے آپ پر اعتراض ہوئے ہیں ہمیں ان حالات و حقائق کی صحت کا فیصلہ کرنا ہوگا جن کے ماتحت آپ نے یہ پہلو اختیار

کئے۔ اگر کسی وقت ایسے ہنگامی حالات پیدا ہو جائیں کہ تعدد ازواج ایک تاگزیر امر اور ایک اقتصادی و معاشرتی مسئلہ بن کر رہ جائے۔ تو بتایئے ایسی صورت حال میں اگر نبی کریم ﷺ نے تعدد ازواج کو اپنا لیا۔ تو اعتراض کیوں؟ اور جبکہ دنیا کے بڑے بڑے اخصائے محسنین انسانیت، تصوف و سنی لوگوں نے ایک سے زائد بیویاں کی ہیں۔ جہاں تک سیف و شمشیر کے استعمال پر اعتراض ہے آپ دیکھیں کہ آج بھی دنیا اپنی جنگی قوت پر تازہ کرتی ہے۔ جدید ایسی ہتھیاروں کی ہونے لگی ہیں انسانیت کے قلب و ذہنیت پر چھا رہی ہیں۔ جنگ ایک تاگزیر امر ہے۔ حضرت نبی کریم نے جنگ کی ہے تو اس لئے کہ انسانیت کو جنگ کے آداب و اخلاق کا سبق دینا تھا۔ اس سلسلہ میں آپ کی شرافت نفس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے تلوار اٹھائی محض بدی کے استیصال اور حق کی حفاظت کے لئے۔ آپ نے جو جنگ بھی لڑی ہے میں نے اس کے اسباب و عوامل اور آغاز و انجام پر بڑا غور کیا ہے۔ وہ لڑائیاں جہاد تھیں بلکہ دفاعی تھیں۔

حضرت راکم کا وجود باوجود شمالی تو بیوں کا حامل ہے۔ سلسلہ عالیہ انبیاء علیہم السلام میں آپ کی ذات با برکات ہی ایسی ہے جس نے ربانی دعوت و تحریک کو کمال نصرت سے ہمکنار کیا۔ حضرت مسیحؑ عمر بھر معاذین کی ستم ظریفیوں کا تختہ مشق بنے رہے۔ تختہ صلیب پر جناب مسیح کے لب زائش و ناکامی کے شکوہ سنج تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبار و ظالم دشمنوں کو مٹا کر رکھ دیا۔ ظفر و نصرت کے وقت جب فریبی اور جانی دشمن آپ کے قدموں میں ڈلتے و مسکتے سے سر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے غصہ و درگزر کی الہی صفت کا مظاہرہ کیا۔ تاریخ کا جو طالب علم بھی فتح مکہ کا بیان پڑھتا ہے۔ وہ اس رجل عظیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خراج تحسین ادا کئے بغیر نہیں رہ سکتا جس نے نہ صرف اپنے جانی دشمنوں کو ہی معاف فرمایا بلکہ انہیں سزا و عظمت کے بلند مراتب بھی عطا کئے۔ کسے

خبر کہ جناب مسیح اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد ان سے کیا سلوک روا رکھتے
آپ نے تو یہی فرمایا تھا۔ کہ میں دنیا میں امن پیدا کرنے نہیں تلوار چلانے آیا ہوں حضرت
موسےؑ۔ راجندر۔ کوشن اور دوسرے مذہبی رہنماؤں نے دشمنوں سے سلوک کرتے
وقت رحم و کرم کا ذرہ بھیر منظر پارہ نہیں کیا۔

میں نے مختصر سے عرصہ میں مختلف مذہبی فرقوں کے عقائد اور تعلیمات کا بنظر غائر مطالعہ
کیا ہے۔ ہندومت کی ابتدائی شکل خواہ کچھ بھی ہو۔ لیکن آج یہ مذہب رسم و رواج اور دان
بلیدان کے بے شمار اختراعات کا گہوارہ ہے اور یہ حالت امر مشترک کے طور پر سب فرقوں
میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان میں اتحاد و اتفاق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دراصل ہندومت
میں کوئی ایسی جامع اصلاح نہیں ہے۔ جو ان تمام فرقہ ہائے کثیر کو ایک نقطہ نظر پر متحد کرے
مظاہر پرستی، عناصر پرستی، بطل پرستی، صنم پرستی، کثرت پرستی اور کسی حد تک توحید پرستی یہ سب عقائد
ہندومت کے ذیل میں آجاتے ہیں۔ اس مذہب کا ایک فلسفہ ہے جس کا عملی زندگی سے قطعاً
کوئی تعلق نہیں۔ یہ فلسفہ بعض معنیوں میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دکھ سکھ کے
فلسفہ ہی کو لیجئے اس سلسلہ میں یہ مذہب تاسخ یا آواگون کا قائل ہے جو ذہنی تعیش کی ہی صورت ہے
عملی طور پر قائم بخش نہیں ہے۔ مانا کہ پن دان اور بلیدان وغیرہ فضول نہیں ہیں ان کے بھی اثرات
مرتب ہوتے ہیں البتہ ان کا درجہ ثانوی ہے اور یہ مقصود و مطلوب کے لئے ذرائع کے طور پر
استعمال ہوتے ہیں جبکہ ہندومت میں ان کی حیثیت لوازمات کی ہے۔ علاوہ ازیں ہندی رسم و رواج
خاص خاص مقامی مسائل اور ضروریات حاضرہ کی تکمیل کے پیش نظر اختیار کیے گئے تھے۔ اس لئے
یہ آئندہ قوموں اور نسلوں کے لئے سود مند نہیں ہو سکتے۔

یہودیت نے دنیا میں علم و حکمت پھیلائی۔ مگر در زمانہ سے یہ بھی رسم و رواج کی نظر
ہو گئی رسمی تقدس کا نقص اس حقیقت میں مہتر ہے کہ جب کوئی رسمی تقاضوں کو پورا کر دیتا ہے

تو وہ اپنی ذات کو دوسروں سے اعلیٰ وارفع سمجھنے لگتا ہے۔ اس سے کسی جرم و گناہ کی باز پرس نہیں کی جاتی۔ بدیں وجہ ہندوؤں میں برہمن اور یہودیوں میں فریسی ان امور و فرائض سے جو معاشرہ کے دیگر افراد پر عائد ہوتے ہیں اپنے آپ کو مستثنیٰ خیال کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو ٹی تیا مذہب لے کر مبعوث نہیں ہوئے اور نہ انہوں نے کسی گرجا کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ یہودی تھے اور موسوی شریعت پر سختی سے پابند تھے۔ وہ اپنے آقا و مولا حضرت موسیٰ کی تعلیم کو فریبوں اور فریسیوں کی رسمی قید و بند سے آزاد کرانے آئے تھے۔ وہ ان کی ربا کاری اور جدل۔ فریب کو ظاہر کرنے کی جرات رکھتے تھے۔ الغرض یہودیت کی نظیر و تجدید حضرت مسیح کا مشن تھا۔ مگر آپ کے دشمن اس راہ میں سنگ گراں ثابت ہوئے۔ بن کی وجہ سے جناب مسیح آخر تک اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر جناب سینٹ پال کا ظہور ہوا۔ لیکن اپنے آقا حضرت مسیح کے مشن کو جاری رکھنے کے بجائے اس نے اس مذہب میں نئے اور تباہ کن عقائد پیدا کر دیئے۔ اوریوں یہ یہانی مشن کفارہ اور ہمت کفارہ کا گورکھ دھندہ بن کر رہ گیا۔ اس تحریک احیاء کو "NEW COVENANT" یا میثاق نو کہا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریک قدیم کفر و شرک کی نشاۃ ثانیہ ہے صرف نام و ماحول ہی دوسرا ہے۔ داستانِ مسیحیت مختصراً یوں ہے کہ جب انسان گناہ میں گھر گیا تو خداوند خدا باپ اس کی گناہ آلود زندگی کو دیکھ کر غیض و غضب سے بھر پک اٹھا۔ اور اسے دھتکار کر اپنے سے دور کر دیا۔ پھر اس غیض و غضب کو فرو کرنے کی خاطر خداوند خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے۔ خداوند یسوع مسیح۔ کو ایک کنواری ماں کے رحم میں متخمس کر کے اس گنہگار دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جو صلیب پر مصلوب ہوتے اور تمام نسل انسانی کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ اوریوں وہ نسل انسانی کے گناہوں کے داغوں کو اپنے مقدس خون سے دھو کر صلیبی موت مر جاتے ہیں اور پھر زندہ ہو کر انسانیت کو نئی زندگی

بختتے ہیں۔ یہ ہے پولوسی فرقہ کا نقشہ جس کے مطابق موجودہ عیسائیت کی ساری
 غمراہ کھڑی کی گئی ہے اور جو سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی تعلیمات کے سراسر
 خلاف ہے، آپ نے ہرگز ہرگز ایسی تعلیم نہیں دی۔ یہ پولوسی مذہب کوئی نیا مذہب نہیں
 ہے۔ چنانچہ اب یہ امر واضح ہو چکا ہے کہ خداوند یسوع مسیح۔ جنہیں پولوس رسول اور
 بعض نے "THE NEW ADAM" "آدم نو" کہا ہے۔ کنواری ماں سے پیدا
 شدہ مٹھرا، آپالونیکس۔ ہورس۔ اورس وغیرہ سو رچ دیوتاؤں میں سب سے آخری
 سو رچ دیوتا ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دیوتا ۲۵ دسمبر کو اول وقت میں پیدا ہوا۔ ہر ایک
 نے نہایت پر امن طور پر اپنا مشن چلایا۔ پہلا معجزہ جو ان سب نے دکھلایا وہ کم و بیش
 شراب سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر ایک دیوتا کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے خون کے عوض
 نسل انسانی کی نجات کے لئے آیا ہے ہر دیوتا آخر مارچ میں جمعہ کو سہ پہر کے وقت فوت
 ہو گیا۔ دو دن تک قبر میں مدفون رہا۔ پھر ایسٹر کے اتوار کو جی اٹھا اور پھر آسمان کا
 وعدہ کر کے آسمان پر اٹھ گیا۔

مسیحی کلیسا کی تعمیر سے صدیوں پہلے مختلف ممالک میں بالکل وہی مذہبی نظام رائج تھا جو اوس
 مسیحی مصنفین کی کتب میں لفظی لفظ دوہرایا گیا ہے۔ مسیحیت سے قبل کنواریوں سے پیدا شدہ
 دیوتاؤں کے نام پر پستہ دے کر لوگوں کو باضابطہ طور پر اس مذہب میں شامل کیا جاتا تھا۔ ان
 دیوتاؤں کے پستہ صلیب کو پوجتے تھے ان کے دو مقدس تہوار ایسٹر اور کرسمس تھے۔
 درحقیقت حضرت مسیح کے بعد رومن کیتھولک کلیسا جو پولوسی عقیدہ کا پہلا کلیسا ہے اس
 قدیمی اور باطنی مذہب کی موہو نقل ہے۔ جب اس باطنی مذہب کے تمام خدو خال مغرب کے
 سرکاری کلیسا نے اپنا لئے ہیں تو پھر صرف قدیم مشرکانہ مذہب کو ہی کیوں بدنام کیا جائے
 اگر مشرکانہ مذہب باطل ہے تو رسمی کلیسا بھی باطل ہوگا۔ مذہب سے مراد ایسا ضابطہ جیسا

ہے جو اس دنیا اور آخری دنیا میں سرخروئی کی زندگی عطا کرے۔ ”اس لحاظ سے موجودہ مسیحیت کوئی مذہب نہیں۔“

اس پہلو سے مذہب کا مطالعہ کرنے کے بعد جس دین پر میری نظر انتخاب پڑی وہ اسلام ہے یہ فعل و عمل اور اقدار و اخلاقیات کا مذہب ہے اور بالکل سادہ اور عملی ہے۔ اس میں DOGMAS نہیں ہیں یعنی ایسے عقائد نہیں جن کا تعلق عمل سے نہ ہو اور جو مزعوہ نجات کے لئے انسان پر حکمانہ انداز میں کھوس دیئے جائیں۔ سارے کے سارے اسلامی عقائد مستند دلائل کے حامل اور قرین عقل ہیں اور ان کا زندگی سے براہ راست تعلق ہے۔

ماتا کہ مسلمانوں کا دامن بعض قسم کی رسمیات سے خالی نہیں ہے۔ یہ بھی قربانی اور نذرہ نیاز کے قائل ہیں۔ لیکن جب میں نے قسطنطنیہ میں پڑھا تو میں خوشی سے پھولا کہ سما یا کہ ”بڑی نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے موہوں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو لیکن بڑا نیک وہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت کے لئے قریموں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوائیوں کو اور غلاموں کو آزاد کرتے ہیں مال دے۔ اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں اور صبر کرنے والے ہوں تنگی اور تکلیف میں اور مقابلہ کے وقت یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اور متقی ہیں“

(۱۷۷۲)

یہ بیان کتنا شاندار فیصلہ کن اور پر برات ہے۔ جو رسمیات کو بیخ و بن سے اکھاڑ دینے والا ہے اسلام میں بعض رسمیں پائی تو جاتی ہیں مگر وہ لوازم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک رسم بوقت نماز قبلہ رو ہونے کی ہے جو اس مقام کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں اسلام ظہور پذیر ہوا، یہ ایک بڑی ہی اہم

ضرورت کو پورا کرتی ہے۔

مگر مذکورہ آیت کریمہ کی وضاحت کے بعد قبلہ رو ہوتانی الذات کوئی نیکی نہیں ہے تا وقتیکہ بیان کردہ عقائد و اعمال کی تکمیل و تکمیل نہ کی جائے دراصل یہ رسم ان روحانی فیوض و برکات کی یاد تازہ کرتی ہے جو اس مقدس مقام سے وابستہ ہیں لہذا اگر عقائد و اعمال کی پابندی کے بغیر محض قبلہ رو ہونے میں کوئی منفعت نہیں تو پھر دوسرے ارکان کی کیا اہمیت ہوگی!

مسلمان مذہب پر بے شک کرتے ہیں۔ مگر ان سے مقصود تہراہنی کو فرو کرنا نہیں جیسا کہ دوسرے مذاہب میں خیال کیا جاتا ہے۔ بلکہ ان کے جملہ مقاصد میں سے ایک یہ ہے۔۔

” (خود بخوبی) کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور سوال کرنے والے (غریبوں)

کو بھی کھلاؤ“ (۲۲:۳۶)

یہ رشد و ہدایت دوسروں کے لئے فیض بخش بننے کا موقوفہ فہم کرتی ہے۔ اور دین الہی (اسلام) کی علامت بھی ہے۔ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق ہمیں خدا تعالیٰ کی رضا اسی طرح چاہنا چاہیے جس طرح کہ جانور ہماری رضا کی خاطر چھڑی کے نیچے اپنی گردن رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں قربانی کا فلسفہ اس طرح بیان ہوا ہے۔۔

” اللہ تعالیٰ تک نہ تو ان (چار پایوں) کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ

ان کا خون پہنچتا ہے لیکن تمہارا تقویٰ اسی کو پہنچتا ہے۔ ان چار پایوں

کو اسی طرح تمہارے تابع کر دیا ہے۔ تاکہ تم اس بات پر اللہ کو بڑائی کیساتھ

یاد کرو کہ اس نے تم کو ہدایت کی ہے۔ اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری

سنادو“ (۲۲:۳۷)

میں اسلام کی کسی اور رسم کو نہیں جانتا۔ اور اگر وہی تقدس فی نفسہ بے حقیقت شے ہے اور یقیناً ہے تو ہندومت اور یہودیت جو رسمیات کے مذہب ہیں انسانی حوائج و ضروریات کو کسی بھی

طور پورا نہیں کر سکتے یہ حقیقت ہے کہ موجودہ عیسائیت نے ان تمام مذہبی ارکان و آداب
 کو بن پر حضرت مسیح ستمی سے پابند تھے چھوڑ دیا ہے۔ ان کا موقعت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح
 نے صلیبی . . . موت مرگ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے اور اپنے خون سے
 اپنے مانتے والوں کو ارکان و آداب کی پابندیوں سے مستثناء کر دیا ہے۔ اب ورثہ کے
 طور پر بہت سی مشرکانہ رسوم کلیسیا میں داخل ہو گئی ہیں اور اس کی حالت اب پہلے سے
 دگرگوں ہو گئی ہے۔ اسلام کے ارکان و عقائد کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک امر کی طرف
 متوجہ ہوتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب آسمانی صحف متداول روایا سے اور اختراعات سے
 بھر گئے تو نزول قرآن کی ضرورت پیش آئی۔ مذاہب عالم نے اپنی اپنی تعلیمات کی بنیاد آسمانی و جا
 پر دکھی ہے۔ متشاء ایزدی یہی ہے کہ بنی نوع انسان کی فلاح کے لئے اپنی رضا اور شد و
 ہدایت کی راہوں سے مطلع کرے۔ اگر یہ راہیں گرو و غبار سے اٹ جائیں۔ ان کے نشان باقی
 نہ رہیں تو کیا اس صورت میں خدا تعالیٰ کو جائزہ نہیں دیا گیا انسان کی اپنی فطرت کا تقاضا نہیں کہ
 اسے پھر ان راہوں سے باخبر کیا جائے۔ رب العالمین کا اس کا نجات میں یہی نظام رائج ہے
 ہمارے لئے اس نے بیشمار چیزیں پیدا کی ہیں۔ جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں یا ان میں کمزوری
 اور نقص پیدا ہو جاتا ہے تو اپنی حکمت و قدرت سے ایسی ہی اور اشیاء پیدا کر دیتا ہے۔ جن سے
 ہماری زندگی کے سامان ہوتے رہتے ہیں کہ نظام عالم طبیعات میں جاری و ساری ہے وہ عالم
 روحانیات میں بھی ہے۔ بنا بریں اگر کتب قدیم مسطورہ پر محرف و تبدیل ہو جائیں۔ اور انکی
 حقیقی ہیئت نیست ہو جائے۔ تو ایسی حالت میں کوئی شخص دوسری نئی اور تازہ آسمانی کتاب
 کی ضرورت سے کس طرح انکار کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پُرانے وقتوں میں جو صحف
 آسمانی مختلف اقوام عالم کو عطا ہوئے آج ان میں سے کسی ایک صحیفہ کی تعلیم و تلقین بھی اپنی اصل
 حالت میں موجود نہیں۔ اس بات کو سبھی مانتے ہیں اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام

قوموں کی دشمنی ہدایت کے لئے کتابیں نازل کیں، لیکن آج وید یا بائبل اور قرآن کے سوا
باقی دوسری کتب کا کہیں پتہ نہیں ملتا۔ سب صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ وید اور بائبل میں
ان خاص قوموں کا ہی ذکر ہے جو بھگوان اور خداوند خدا باپ کی مخلوق اور پیاری ہیں۔ اس کے
برعکس قرآن نہ تو کسی قبیلہ کی داستان ہے اور نہ کسی فرد کی رام کہانی ہے بلکہ وہ انسان کو
بحیثیت انسان پیش کرتا ہے۔ اور انسان اور انسان کا خدا قرآن کا مرکزی موضوع ہے۔

کائنات اور اس کی پیدائش کے ذکر کے بعد اسرائیلی صحیفوں کا صدری تعلق نسل انسانی
کے صورت ایک خاص طبقہ یعنی خلفائے بنی اسحاق سے ہے۔ اور انہی علاقہ سے بنی اسرائیلیوں
کی ہجرت۔ قیام مصر۔ حکومت مصر کی علامی۔ حضرت موسیٰ کا ان کو غلامی سے چھوڑانا وغیرہ
سب حالات بائبل میں درج ہیں۔ علاوہ ازیں ان کے مذہبی اور رسمی ضوابط کا بھی بیان ہے۔ اور
ان کی صحراوردی۔ اسرائیلی حکومتوں کا قیام۔ ان کی شان و شوکت کی حکایتیں اور انجام کاران کی
سب کاریوں اور بد عملیوں، ان کا تردد اور سرکشی، ان کی تعیش پسندی، ذلت و مسکنت اور منزل کے
بارہ میں حضرت مسیح کی پیشگوئیاں وغیرہ ان تمام کوائف کو یکے بعد دیگرے بنا ستوار کر پیش
کیا گیا ہے۔ اس میں ان بزرگوں کے حالات بھی ہیں جن سے ایسی مذہبی رسومات صادر ہوئیں
جن کا معتد بہ حصہ دشمنوں کے حق میں بددعاؤں پر مشتمل ہے۔ کہیں کہیں رحمت الہی اور فرشتوں
کے بشارتیں لاسنے کا بھی بیان ہے۔ العرض بائبل قوم بنی اسرائیل کے خروج و زوال کی
مکمل تاریخ ہے حضرت موسیٰ صاحب شریعت اور خروج و کمال کی پیشگوئی کرنے کی
حیثیت سے پہلی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور حضرت مسیح اس سلسلہ کی آخری کڑی ہیں جو ہوتوالی ذلت و
مسکنت پر ظم و الم کے آسویہ پار رہے ہیں۔ جس طرح بائبل کا تعلق مذہبی اسرائیل کی قوم سے ہے
اسی طرح وید بھی وسط ایشیا کی آریہ قوم کی تاریخ ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم دریائے
سندھ پار کر کے ہندوستان کے مغربی علاقہ میں قیام پذیر ہو گئی تھی۔ مقدس وید اس قوم کو ذرا

پیشہ قوم کی حیثیت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس قوم نے مختلف عناصر اور ان مظاہر قدرت کی حمد و ثنا میں بھجن گائے جو خشک اور پیاسی زمینوں کی سیرابی کا باعث بنتے اور ہری بھری کھیتوں کی دولت کے ترانے کھول دیتے تھے۔ ان بھجتوں کے علاوہ آریہ قوم کی رسوم آداب اور دان و بلیدان کا بھی بیان ہے اور ہندوستان کے اصلی باشندوں سے قتل مقاملہ ان پر فلیہ۔ آریہ قوم کی شہری اور عسکری زندگی، حکومتوں کا قیام اور آخر میں ان کی نفس پرستی اور عیش و عشرت کا ذکر ہے۔ یہ تمام حالات شاعرانہ انداز میں رقم کئے گئے ہیں۔ چنانچہ وید اور بائبل ہر دو کتابیں دو خاص قوموں کی تاریخ ہیں جن میں مذہبی ارکان و عقائد کا ضمناً تذکرہ کیا گیا ہے لیکن قرآن کریم کا بہانہ تک تعلق ہے۔ یہ انسان کو خدا کی طرف سے عطا شدہ دین پر مشتمل ہے۔ بنی نوع انسان کی ترقی و ترقی یا ذلت و مسکنت قرآن کریم کے مرکزی موضوع ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم میں بعض لوگوں اور بعض قوموں کا ذکر موجود ہے۔ مگر یہ تعلیمات اور حکایات اس ربانی کتاب کے بڑے مقاصد میں سے نہیں ہیں یہ محض تشریحات و توضیحات کے باب میں وارد ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں بنی نوع انسان کی اخلاقی اصلاح اور روحانی کمال کے لئے بعض قواعد و ضوابط بیان کئے گئے ہیں۔ انسان کو ان بے راہ رویوں اور بد عملیوں سے روکا گیا ہے جو اس کو ذلت و نکبت کے عمیق گڑھے میں گرانے والی ہیں۔ قرآن میں انسان کے لئے اخلاق و آداب کی مواعظ ہیں اور خدا خوفی اور خدا پرستی کا بیان ہے۔ اور جہاں کہیں بعض لوگوں، نبیوں، ان کے مخالفین اور مختلف قوموں کا حال بیان ہوا ہے تو صرف قرآنی تعلیمات کی تفہیمات اور توضیحات کے لئے ہوا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے افراد اور اقوام کے تفصیلی کوائف بیان نہیں کئے بلکہ ان کا اجمالی اور بعض جگہ محض اشارتاً ذکر کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مشہور داستان نہیں بلکہ اقتصادی معاشرتی اخلاقی اور روحانی ضوابط و مرقع ہے۔ وید اور بائبل ان لوگوں کے لئے تو روحانی فیوض و برکات کا باعث ہوں گی

جو ان کے زمانہ نزول کے وقت موجود تھے لیکن آج ان میں بنی نوع انسان کی سرخروٹی اور فلاح آخرت کے کوئی سامان نظر نہیں آتے قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو فطرتی تعلیمات پیش کرتی ہے ہر ملک و ملت اور ہر دور و دیار کے لوگوں کے لئے ہے اور ہمہ گیر فلاح کی باعث ہے اس کی تعلیمات ابدی ہیں اور حسناتِ زندگی اور نعماتِ آخرت سے فیض یاب کرتی ہیں۔

ویدا اور بائبل کی کتابیں اپنے نزول کے کسی ہمہ گیر مفاد کی صراحت نہیں کرتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک کہہ طور پر سیدنا موسیٰ سے ہمکلام ہوئے اور اپنے پیارے بیٹی کو حکم دیا کہ فرعون مصر کے ہاں جاؤ اور اسے بنی اسرائیل کی آزادی کے مطالبہ کا پیغام پہنچا دو۔ بنی اسرائیل کے خروج از مصر کے بعد اللہ تبارک

تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پھر ہمکلامی کی اور ادا عشرہ عطا فرمائے۔ مابعد گاہے گاہے حسب ضرورت ہدایت و رہنمائی کے لئے موسیٰ علیہ السلام بارگاہِ ایزدی میں حاضر ہوتے رہے اور خدا نے ہمیں و رحیم سے اپنی پیاری قوم کے لئے احکام و فرامین لیتے رہے۔ اور جب کبھی خداوند خدا باپ کی یہ پیاری قوم کسی دکھ درد میں مبتلا ہو جاتی تو یہوواہ (JEHOVA) کی جناب سے فرشتے بشارتیں لے کر آتے۔ اسی طرح دیدوں میں بھی بہت سے بھجن اور گیت سنگیت لیسے ہیں جو ایسے ہی سمالات میں پڑانے ریشیوں اور منیوں کو وحی ہوئے۔ اور عشرہ بے شک ان باتوں کا پرچار کرتے ہیں جو کسی معاشرہ کی اصلاح اور تعمیر و ترقی کے لئے اذی ضروری ہیں مثلاً یہ کہ انسان کو ملنسار ہونا چاہیئے۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہئے۔ والدین سے احسان و مردت کا برتاؤ کرنا چاہیئے۔ اولاد کا اکرام کرنا چاہیئے۔ عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کی جان و مال، اور طبقہ نسوان کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا چاہیئے۔ جسم و جان کو سکھی رکھنا چاہیئے اور یوم السبت منانا چاہیئے وغیرہ وغیرہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی معاشرہ جو تعمیر و ترقی کا خواہاں ہو کسی وحی و ابام کے بغیر بھی اس قسم کے اصلاحی اور اخلاقی قوانین خود مترتب کر سکتا ہے۔ جہاں تک قرآن

کریم کا تعلق ہے۔ یہ ان معنوی اور دنیوی ضروریات سے کہیں بلند تعلیمات کا حامل ہے جو انسان کو بقدر صلاحیت عروج و کمال کی رفعتوں پر پہنچاتی ہیں۔ پہلی وحی جو رحمت للعالمین کو غار حرا میں ہوئی وہ ذاتی اور نسلی امتیازات سے بالاتر تھی اور بنی نوع انسان کی عمومی صلاح کے لئے کی گئی تھی رب العالمین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ وہ صرف عرب قوم کی اصلاح کریں اور نہ روح القدس کو نازل کیا کہ وہ اپنے ہم وطنوں میں سے ابن اللہ کا خطاب کئے سرور کا ثبات صلح بنی نوع انسان کو بلا امتیاز ملک و ملت، ذلت و مسکنت کی عمیق پستیوں سے نکال کر عزت و عظمت کے اوج و کمال پر پہنچانے کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ آپکو بارگاہ ایزدی سے پہلا پیغام یہ ملا کہ :-

”اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو پیدا کیا تو تھڑے سے پڑھ اور تیرا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ستوا انسان جب اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے“

(۷۰۹۶-۷)

حکیم و عظیم رب العالمین نے حضور اقدس کی معرفت بنی نوع انسان کو ہدایت فرمائی کہ اشاعت کتب اور علم و حکمت کو عام کرنے کے لئے فن تحریر سیکھے اور ان علوم و فنون کو جو ابھی تک پردہ راز میں ہیں دریافت کرے تاکہ انسان ارفع و اعلیٰ مراتب حاصل کر سکے کیونکہ خالق و مالک خداوند بھی عزت و عظمت کا مالک ہے۔ اسکی مخلوق کا بھی انہی اوصاف سے متصف ہونا ضروری ہے مادیت انسان کے روپ میں اپنے طبیعی کمال کو پہنچتی ہے۔ اور اس کے بعد طبعاً ان میں کسی قسم کی مزید ترقی ناممکن ہے۔ مگر مادہ سے جسم انسانی میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے جسے شعور کہتے ہیں جب اس کی تعلیم و تہذیب ہر جاتی ہے تو اس سے عقل و دانش، جذبات و احساسات، سیرت و

کردار، اخلاق و آداب، مذہب اور روحانیت کے چستے پھوٹتے ہیں۔ یہ تمام خدائی خواص ایک شاندار معاشرت کے قیام اور انسان کو عظمت و مرتبہ پہنچانے کے لئے قدرت انسانی میں ودیعت کئے گئے ہیں جس طرح انسان رحم مادر میں ایک خون کے لوہقڑے کی مثل طبعی تغیر کے بعد کامل انسان بنتا ہے۔ بعینہ سرور کائنات صلعم کی بعثت کے وقت انسانی شعور مثل ایک لوہقڑے کے بھقا اور انسان کی عقل ابھی ناچختہ تھی۔ اس انسان نام نام کی تعلیم و تہذیب اور رشد و ہدایت کے لئے انسان کامل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھیجا گیا تاکہ انسان باطنی اوصاف و خواص ظاہر ہوں۔

قرآن کریم نے اپنے نزول کی یہی عرض و ثنایت بیان کی ہے اور شروع میں ہی اس کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں جہاں انسان کے عظیم مرتبہ، قرب الہی کا بیان ہے جسے انسان اپنی اعلیٰ صلاحیتوں اور استعدادوں کو ربانی تعلیم کے تابع کر کے حاصل کرتا ہے۔ وہاں اس پستی کا بھی نقشہ ہے جس میں انسان عقلی قوتوں سے مستلوب ہو کر گر جاتا ہے۔ ذکر آدمؑ میں بلند پست ہر دو کیفیتیں بیان ہوئیں ہیں۔

انسان اس دنیا میں خدا تعالیٰ کا نائب ہے۔ فرشتوں کو لازم ہے کہ اسی کی اطاعت کریں۔ اور اس مقصد کے لئے شمس و قمر سے دیگر مظاہر قدرت انسان کے لئے مسخر کر دیئے گئے ہیں۔ انسان دنیا و مافیہا کی ہر شے کو علم و حکمت کی بھرپور صلاحیتوں سے کام لیکر حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ رہ ہدایت سے بھٹک جائے اور عقلی محرکات کا بندہ بن جائے۔ تو ان ذرائع و وسائل سے یکسر محروم رہ جاتا ہے جو اس کی خوشیوں میں اضاۃ کا باعث بنتے ہیں۔ ہم اپنی تمام تر تہذیب و ترقی کے باوجود ابھی اس بلندی پر نہیں پہنچے ہیں، پر ہمیں قرآنی احکام کی پیروی کے بعد پہنچنا چاہیے۔ ابھی تک کامل طور پر ہم شمس و قمر کی تسخیر کے قابل نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے ہماری چند روزہ دنیوی زندگی کا یہی مقصد بیان کیا ہے اس ضمن میں قرآن کریم

مزید انکشاف کرتا ہے لہذا خلقنا الانسان في احسن تقويم یعنی ہم اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے مالک ہیں مگر چونکہ ہم حیوانی سطح سے بلند ہوئے ہیں اور ہم میں نفسانی جذبات اور اسغلی خواہشات موجود ہیں۔ اس لئے قرآن کریم ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ مقصد حیات حاصل کرنے میں بڑی دشواریاں ملتی ہیں۔ ہمارے قہرذلت میں گر جانے کا احتمال ہے اس لئے ہمیں رشد و ہدایت کی ضرورت ہے جو روحیات میں مدد و معاون ہو اور ذلت و مسکنت کے گڑھوں میں گرنے سے بچائے۔

نزول قرآن کا یہ دوسرا مقصد ہے ہم ظلمات میں رہتے ہیں۔ اور ہمیں روشنی کی ضرورت ہے قرآن اسی روشنی کا مدلی ہے۔ سینٹ پال فطرت انسانی کو برا بھلا کہتا ہے۔ لیکن اسلام کے نزدیک ہم معصوم فرشتے کے آئے ہیں جو جلی طور پر معصیت سے پاک ہے۔ اس سٹیڈ پر اسلام کلیسائیت سے اختلاف رکھتا ہے اگر دوزخ گناہوں کا نتیجہ ہے تو جنت ان لوگوں کے لئے ہے جو تقویٰ اور طہارت کے ساتھ اس دنیا کو خیر باد کہہ جاتے ہیں اسلام اور مسیحیت یہ دو مختلف اور متضاد مسئلے پیش کرتے ہیں۔ مسیحیت کہتی ہے کہ انسان پیدائشی گناہگار ہے۔ لیکن اسلام کی دوسری انسان بیگناہ پیدا ہوا ہے۔ اس لئے اگر کوئی بچہ بوقت پیدائش رجائے تو اسلامی تعلیمات کی رو سے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ مگر مسیحی اصولوں کے لحاظ سے وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسلام کی رو سے جنت ہمارا پیدا نشی حق ہے۔ البتہ ہم اس سے اپنی بد عملیوں کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن مسیحیت کہتی ہے کہ ہم دوزخ کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ تا وقتیکہ ہم کفارہ پر ایمان لے آئیں۔ اسی طرح کلیسائی معتقدات کی رو سے گناہ موڑ دینی جوتے ہیں لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ خود اپنے ہی غلوں کا نتیجہ ہیں اور انسان ان سے بچ سکتا ہے۔

بائبل کا واحد مقصد انسان کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکی کے کنارے پر لاکھڑا کرنا ہے۔ مگر قرآن انسان کو شروع پیدائش سے ہی اس مقام پر دیکھتا ہے اور ان دفعوں پر پہنچانے آیا ہے جہاں پہنچ کر انسان قرب الہی سے شرف ہوتا ہے۔ اسلام اور عیسائیت کے نقطہ پائے نظر

میں زمین و آسمان کا فرق ہے قرآنی تعلیمات معقول اور فطرتی ہیں لیکن دید اور بائبل کی تعلیمات تضحکی اور غیر استدلالی ہیں۔ جس طرح گنہگار استاد یا باپ کا ہر قول اس کے شاگرد یا بچے کے لئے قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ دید اور بائبل بھی اپنے ارکان و عقائد کو حکمانہ انداز میں پیش کرتے وقت اپنے ماننے والوں سے یہی توقع رکھتی ہیں کہ وہ بلا چون و چرا قبول کر لیں گے اور کسی قسم کا اختلاف اور شک و شبہ نہیں کریں گے۔

ان کتب میں ہستی باری تعالیٰ، ملائکہ، روز محشر، قیامت، وحی و اہلام، نبوت رسالت اور اخروی زندگی میں ہمارے اعمال و افعال کی باز پرس وغیرہ کا ذکر ضرور ہے۔ مگر وہ ان تمام عقائد کو دلائل و براہین کی کسوٹی پر درست ثابت کرنے سے قاصر ہیں۔ کوئی بے دین اور کافران کتب کو پڑھ کر کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ شاید جب یہ نازل ہوئی تھیں تو اس وقت کے انسان کی فہم و فراست بالغ اور پختہ نہیں ہوتی تھی۔ اور انسان جذبات و احساسات کی دنیا میں اندھوں کی طرح کسی چیز کو تلاش کرنے کی کوشش میں کھتا اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس وقت ایسی بالغ ہو چکی تھی کہ تفہیم و تحقیق کو اندھی تقلید پر ترجیح دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ عقائد و ستران کریم میں بالصرحت بیان ہوئے ہیں اور مختلف دعاوی کو دلائل و براہین سے ثابت کیا گیا ہے، اس کی تعلیمات عقل و دانش کے مطابق ہیں۔ قرآن اپنی تعلیمات کو حکمانہ انداز میں پیش نہیں کرتا اور نہ کسی کو باجبر ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ جو شخص بھی قبول کرتا ہے محض اس وجہ سے کہ یہ تعلیمات فطرتی ہیں معقول ہیں اور مفید ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے کسی طبقہ میں دہریت کا رجحان پیدا نہیں ہوا۔ اس کے برخلاف جب کبھی بھی عیسائی دنیا میں کلیسائی تعذیب سست پڑی اور اس کی آہستی گرفت سے عقل و ترو نے پھٹکارا حاصل کیا۔ تو فوراً ہی دہریت اور آزاد خیالی کی وسعتیں پھیلنے لگیں۔

بظاہر ہندوستان میں مذہب اور دہریت کے درمیان کوئی نمایاں آپریشن نہیں ہوئی کیونکہ وہ اور ہندو فرقہ ہائے کثیر دہریت کے رجحانات کی برابر . . . حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہاں بھی

اسلام کا طرز فکر ان ہر دو مذاہب سے مختلف ہے۔ علم کی روشنی سے کلیسا کی تاریکیاں بھٹ چکی ہیں اور گیسپی تعلیمات سے برگشتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہندومت کے عقائد بھی خصوصاً ان ایام میں ایسی ہی فضا قائم ہو رہی ہے۔ مگر جدید علم و حکمت نے اسلامی ارکان و عقائد پر تصدیق ثبت کر دی ہے اور ایمان بالقرآن قوی تر ہو گیا ہے۔ عقل و شعور انسانی فطرت کا حصہ ہیں۔ ان کا ہمارے عقائد سے بہت گہرا تعلق ہے اس لئے وقت کے تقاضوں کو دوسری کتب نہیں بلکہ قرآن ہی پورا کر سکے گا۔

ویدا اور بائبل اپنے اپنے مذہبی ارکان تفصیلاً بیان نہیں کرتے کسی محقق کو خود ہی اول تا آخر پڑھنا ہوتا ہے۔ کلیسا میں یہ کام چرچ کے ذمہ ہوتا ہے۔ ارکان کلیسا جو ابتدائی مسیحی مصنفین سے بیان ہوئے ہیں انہیں کامن پریٹ نامی کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ جس میں بار بار ترمیم و تقریر ہو چکی ہے۔ ویدوں میں چونکہ مذہبی اصولوں کے متعلق کسی قسم کا کوئی خاص ذکر موجود نہیں ہے اس وجہ سے ہندومت میں بڑے بڑے فرقے پیدا ہو گئے ہیں جو اساسی اصولوں میں بھی ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ مگر قرآن نے اسلامی ارکان کو بیشتر آیات میں بیان کر کے مسلمانوں کو تخریب اور تفرقہ سے بچایا ہے۔

لفظ ایمان عموماً عقائد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ غزالی لغت میں اس سے مراد کسی چیز کا علم اور اس کی صداقت اور حقیقت پر ایسا کامل اور محکم یقین ہے جو ہمارے اندر اسکے مطابق اپنی تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ہوش و خروش پیدا کرے۔ قرآنی اصطلاح کی روش سے ایمان کی تعریف میں ایسے عقائد نہیں آتے۔ جن پر عمل ہو سکے اور ان کا تعلق عمل سے ہو بلکہ ایمان سے وہ عقائد مراد ہیں جن پر انسان ذہنی اعتبار کے ساتھ ساتھ دل سے بھی تصدیق کرے اور ان پر عمل بھی کرے۔ حکیمانہ اور غیر قطعی عقائد ہمارے ایمانات میں سے نہیں ہیں۔ اور مسلمانوں کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

قرآن کی رو سے انسان کے قول و فعل کی تہذیب و تزینت میں عقائد صحیحہ کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے ہماری زندگی کی حرکات و سکنات ان عقائد کا پرتو ہوتی ہیں جن کا ہم زبانی اقرار کرتے اور دل سے تسلیم کرتے ہیں اور جو کمال اور پختہ یقین پر قائم ہوتے ہیں۔ ہماری حرکات و سکنات اور طور و طریق خواہ وہ کتنے ہی بے مقصد اور غیر ضروری ہوں۔ مگر وہ ہمارے کسی نہ کسی چیز پر ایمان لانے یا عدم ایمان کے مظہر ہوتے ہیں۔ ایمان میں کسی قسم کا تغیر ہمارے معمولات پر بلا واسطہ طور پر اثر انداز ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے لبوں کی خفیف سی حرکت اور ہمارے جسم کے کسی حصّہ کی تحریک کسی نہ کسی ایمان کے مطابق ہی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم آواز کی سماعت اور گویائی پر بھی ایسا ہی ایمان نہ رکھیں جیسا کہ اپنے سامع کی سماعت کی اہلیت پر تو پھر ہم اپنے من سے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتے۔ چنانچہ جس پیر کے بارہ میں ہم جو طریق عمل اختیار کرتے ہیں۔ اس طرز عمل پر ایمان پہلے ہی ہمارے دل و دماغ میں موجود ہوتا ہے۔ یہ حقیقت وہ حیات میں کسی مذہب کے معقول و محتاط انتخاب کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کیونکہ پختہ ایمان سے ہی پختہ عمل پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی عقائد میں ایمان و عمل کی ہر دو خوبیاں پاٹی جاتی ہیں۔ اس لئے اسلامی عقائد سے زیادہ مؤثر و معقول عقائد اور کسی مذہب میں نہیں پائے جاتے۔

ہر مذہب کے کچھ ایسے عقائد ہوتے ہیں جو اس کے اساسی اصول کہلاتے ہیں جن پر پروکار ایمان رکھنا لازمی ہوتا ہے یہ اصول خواہ عقل و فہم کو اپیل کریں یا نہ اور یا اس زندگی میں ہمارے لئے سود مند ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کے متعلق بالیقین نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں اپنے ماننے والوں کو آخروی زندگی کے لئے فلاح و نجات کی نعمتیں کمال طور پر موجود ہیں۔ حیات بعد الموت کے متعلق قریب قریب ہر مذہب اپنے اپنے رنگ میں متحد الخیال میں۔ ہر مذہب کے عقائد تعلیمات کے لحاظ سے ایک دوسرے کے بالکل ہی مختلف

ہیں لیکن ان عقائد کے ثمرات اور برکات جو پیروکار کو مرتے کے بعد نصیب ہوتی ہیں ہر مذہب ایک ہی طرح کی بیان کرتا ہے۔ کوئی مذہب سوائے اسلام کے اپنی حمایت میں معقول دلائل نہیں رکھتا اور کوئی شخص اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنے کیلئے اس دنیا سے اس دنیا میں واپس نہیں آیا ہے۔ نظام کائنات شاید ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگر ایک فرانسسیسی پریوٹ (قاتل روحانیات) تنازع کے مسئلہ کو نظام کائنات کی بنا پر حقیقی اور درست تسلیم کرتا ہے تو انگلستان میں اسی کا ہم عصر تھے شواہد و حقائق کی بنا پر اس عقیدہ کی تعلیم و ترویج کرتا ہے اندر میں حالات میں مجبوراً اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کسی مذہب کے محض دعوے پر اس کے اصولوں کو مان لینا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ جب تک وہ اصول ہمارے دل و دماغ کے مطابق نہ ہوں اور ہماری صالح زندگی کے معیار پر پورے نہ آئیں۔

اندھیاروں میں بھانڈا خطرناک ہے۔ مگر اس سے بھی زیادہ خطرناک ایسی باتوں پر ایمان لانا ہے جو نہ صرف ہماری زندگی سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ بسا اوقات اپنے اثر و نفوذ کے لحاظ سے ہماری سیرت و کردار کی تربیت پر بھی منفی اثرات ڈالتی ہیں چنانچہ کفارہ اور تنازع یا داگوں وغیرہ مسائل ایسے ہیں جنہیں اس دنیا کے شواہد و حقائق سے ثابت کرنا ناممکن ہے۔ بعض لوگ ان مسائل کو مبتنی بر حقیقت تسلیم کرتے ہیں اور ان پر ان کا محکم ایمان ہے مگر حق یہ ہے کہ ان معیار محض مسائل پر ایمان رکھنا گویا اندھیاروں میں بھڑکانا اور ڈانک ٹوٹیاں مارتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ مسائل سے نہ ہماری زندگی پر خاطر خواہ اثر ڈالتے ہیں اور نہ وہ عملی تحریک پیدا کرنے کے موجب ہیں۔

خوف عذاب بیشتر حالات میں بدی کے استیصال کے لئے مؤثر ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ رشتے عامہ کا دباؤ اور قانونی تعزیریں مجرم و گناہ کی بہت حد تک حوصلہ شکنی کی باعث ہیں۔ لیکن جب ان کی گرفت سست پڑ جائے تو اخلاقی اور معاشرتی برائیاں عود کر آتی ہیں۔ عیسائی اقوام

میں عصمت فروشی قرار بازی اور شراب خوری کی لعنت کا باعث یہ ہے کہ کبھی ممالک میں راستے
 غار ان بڑاٹم اور گناہوں کے خلاف اتنی مضبوط نہیں ہے اور قانون بھی قریباً قریباً تماموش ہو جاتا
 خدا اور اتروی زندگی میں احتساب عمل کا ڈر ہی ہے جو ان بدیوں کے استیصال کا ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن
 جو کفارہ کے قائل ہیں۔ ان کا جرم و گناہ سے بچنا محال ہے۔

جب خداوند خدا باپ کے پاس بنی نوع انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ
 ہی ہی ایک ہے کہ وہ گاہے گاہے اپنے بیٹوں کو دنیا میں بھیجے اسانی گناہ کی تلافی کی خاطر
 ان کو عیسیٰ موت مار دیا کرے۔ جیسا کہ کتاب یسوع مسیح عیسیٰ موت مر گئے اور انسانوں کی
 نجات کا باعث ہوئے تو پھر انسان کو عمل صالح اور سیرت و کردار کی تسمیر و تہذیب کی کیا ضرورت
 ہے۔ ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو نیکی کو نیکی سمجھ کر کہتے ہیں۔ لیکن اگر نیکی ایمان بر کفارہ سے
 میسر آ سکتی ہو تو بہت کم ایسے ہونگے جو نیکی کی زندگی کے لئے تکالیف و مشکلات جھیلنا پسند
 کریں۔ کفارہ پر ایمان عمل و سعی کی ضرورت کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح مسدنت اسخ ہمارے غلی
 قوسے اور عملی محرکات کو کمزور کر دیتے کا موجب اگر پتہ پتہ زندگی کے مقدمات میں سے
 ہیں اور رنج و راحت کی گھڑیاں ازل سے انسان کے ساتھ ہیں۔ اور کوئی تدبیر کوئی سعی و جد
 بہد ہماری رہ گیا اور قسمت کو ہرگز ہرگز بدل نہیں سکتی تو پھر عزت کے خاتمہ کے لئے کوئی تدبیر
 اور خوشی و مسرت کہنے کوئی اخلاقی تجاویز بار آور بھی نہیں ہو سکتیں، اور اگر گذشتہ بد عملیوں کے
 بد اثرات انسان کا سایہ ہو کر رہ جائیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس
 لئے یہ ناقابل تدارک بات ہے اس طرح اگر کوئی شخص پہلی زندگی کے گناہوں کی پاداش میں عقیدہ
 کو کم کے تحت بخاریں بیٹلا ہے تو اب کوئی بھی علاج کی تدبیر کام نہیں آ سکتی۔ لہذا یہ عقیدہ
 نہ صرف طبعی مشورہ کو بیکار کر دیتا ہے بلکہ طبعی پیشہ کو بھی یک قدم موقوف کر دیتا ہے اور اس
 دور کی تمام تر سائنسی ترقی کے لئے بہت بڑی رکاوٹ کا باعث ہے اور دیگر ترقیاتی امور

بھی اسی ذیل میں آئیں گے۔ گویا تحقیق و تجدید، غور و فکر اور سوچ بچاؤ کی تمام راہیں مسدود ہو کر بچاتی ہیں، مانا کہ جو لوگ ایسے عقائد کے پابند ہیں۔ وہ ترقیاتی پہلوؤں میں عموماً بے حسی کا مظاہرہ نہیں کرتے اور وہ لاکھوں لاکھوں دھڑے بیٹھے لہتے ہیں۔ بلکہ وہ خود بھی ترقی کرتے ہیں اور ترقیاتی امور میں نمایاں حصہ بھی لیتے ہیں، مگر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اساسی اصولوں پر علیٰ وجہ البصیرت ایمان نہیں رکھتے یہی وجہ ہے کہ ان کے عقائد و اعمال میں عین فرقان ذات باری

تعالے پر ایمان قدیم سے مذہب کی ناگزیر شرط نہیں ہے۔ انسان کے اندر فطری طور پر عبادت و دنیا کا جذبہ موجود ہے۔ اس جذبہ نے انسان کو کسی دوسری خدا کے آگے جھکنے پر ہمیشہ مجبور کیا ہے۔ اگرچہ بدھ مت کی مقدس کتاب میں ہستی باری تعالیٰ کے متعلق کچھ بھی ذکر نہیں ہے، اور خدا کے تصور سے نا آشنا محض ہے لیکن اس کے پیروؤں میں اٹلی ہستی کی عبادت کا فطری جذبہ بڑی سرعت سے سرایت کر گیا ہے، دیگر مذاہب جو اوصاف خواہں ذات باری تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہودوں نے وہ سب ہاتھ تابدھ کی بات کے لیے مختص کر دیئے ہیں۔ تمام بدھ مذاہب میں مجسمات بدھ کی پوجا پاٹ ہوتی ہے ان کے پگھلے ڈبے، عبادت خانے، عورتوں سے بھرے پٹے میں اور پجاری جمع ہو کر ان عورتوں کے آگے دھرتا مار کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح دوسرے مذاہب خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ہاتھ تابدھ کو اسی طرح یاد کرتے ہیں اور اسی طرح اس کی حمد و ثنا کے بھجن لجاتے ہیں جس طرح کہ خدا کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ چنانچہ کسی اعلیٰ ذات کے آگے سربسود ہونے کا فطری احساس انسانی ذہن کا نمایاں اور غالب پہلو ہے۔ اس جذبہ و احساس کے ماتحت انسان نے پتھر سے لے کر انسان کے بچہ تک مختلف مظاہر قدرت کو اپنا خدا مانا ہے۔ اور اس کی پرستش کی ہے۔ خوبلت اور پاکیزہ جذبات ایک زاہد عابد شہید

اور خدا پرست کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ صنم پرستی نے بسا اوقات اسی قسم کے مٹھرو
 مذکی جذبات انسان کے اندر بھی پیدا کئے ہیں اور صنم پرست جو حمد و ثنا اور جو تعریف
 توصیف خود تراشیدہ پتھر کے دیوتاؤں کی کرتے اور ان کے اس طریق میں جو جمال اور شان
 اور جو تاثیر اور جو اخلاص پایا جاتا ہے۔ وہ پرستار ان الہی کی زابدانہ اور عبادت نیم شبی
 دعاؤں میں بھی نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ ہندوستان میں ہندو بت پرستوں کا ایک فرقہ "یشتر" ہے
 جو اخلاقیات کا بڑا پابند ہے، اس کا تقوئے و طہارت بسا اوقات ایک توحید پرست کے
 تقوئے و طہارت سے بھی بے بخت لے جاتا ہے، تاہم اسلامی عقائد نے جنہیں تہذیب و
 تمدن، عقل و شعور اور ترقیات کی حمایت حاصل ہے، قدیم اور باطل عقائد کو ختم کر دیا ہے۔ اور
 ان کی بے اثری کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ ان قدیم عقائد میں وہ قوت و طاقت نہیں
 ہے جو اچھے کردار کی تعمیر میں مدد و معاون ہو۔ اب دنیا توحید کی قائل ہوتی جا رہی ہے
 اور وہ لوگ جن کا رجحان کثرت پرستی کی طرف مائل رہا ہے۔ اب نادوم ہیں اور اس
 باطل عقیدہ کو چھوڑ رہے ہیں، جو وقت ایمان بال توحید ہماری روزانہ زندگی میں عملی طور پر نظر
 آنے لگے جیسا کہ میں بیان کروں گا تو بلاشبہ انسانی تہذیب و معاشرت خوبی و کمال کے بلند
 ترین مقام پر پہنچ جائے گی۔ لیکن توحید کا زبانی اقرار بھی متذکرۃ الصدور صنم پرستی و کثرت پرستی
 سے کسی طرح کم نہیں ہے شاید مقلدین حضرات میری اس بات پر اعتراض کریں لیکن میں باجرات
 یہ بات کہوں گا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک متقی اور مزیکی کثرت پرست کا درجہ ایک توحید پرست
 بدکار شخص سے اعلیٰ و ارفع ہے لہذا اگر ایمان بال توحید سیرت و کردار کی تعمیر میں کوئی خاص اثر نہیں
 رکھتا تو ایسے ایمان کی کوئی خوبی نہیں ہے، اگر ہم خواجہ خوف اور نیک عمل نہیں تو گلہ بھاڑ بھاڑ کر
 حمد و ثنا کرنا اور درود و سلام بھینچنا مقبول ہے۔ خدا کو ہماری حمد و ثنا اور عبادت و ریاضت
 کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر اسے ضرورت ہے اور محتاج عبادت ہے تو وہ ان اسماء

صفات کے لائق نہیں جو ہم اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اگر عبادت الہی سے یہ مراد ہے کہ اس کے حضور نذر و نیاز کی جائے سجان و مال کی ستر یا تیاں دی جائیں اور حمد و ثنا کے ترانے گائے جائیں تو اس طرز عبادت سے تو خدا کو کوئی امتزاج ملتا ہے اور برائے ان کی اپنی ذات کے لئے فائدہ مند ہے حقیقت یہ ہے کہ خدا ان حوائج سے پاک ہے وہ کسی قسم کی عبادت و ریاضت کا محتاج نہیں وہ حتیٰ عن انعامین ہے اس پر قرآن کریم میں بالتفصیل دو قسمی ڈالی گئی ہے کہ اس کی خدائی کو ماننا اس کی عزت و عظمت کو نہیں بڑھاتا اور نہ اس کا انکار اس کی شان و شوکت کو کم کرتا ہے۔

عبادت الہی حمد و ثنا کے لئے ہو یا اظہار شکر کے لئے اور یا حصولِ فضل و برکات کے لئے ہو وہ اس طریق پر ہوتی چاہیے کہ اس سے ہماری صلاحیتیں حسنتِ زندگی کے حاصل کرنے میں سرگرم عمل ہو جائیں اس لحاظ سے مجھے وہ دعا بڑی پسند ہے جو اسلام نے سکھائی ہے وہ قرآن کریم کی پہلی سورت الحمد شریف ہے۔ یہ سورۃ کریمہ حمد و ثنا اور شکر و صبر کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے لیکن اگر یہ حمد و ثنا اور شکر و صبر کا اظہار دل کی گہرائیوں سے نہیں ہوتا اور محض لبوں کی حرکت ہی ہے۔ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سورۃ شریفہ کی پہلی آیت کریمہ الحمد للہ رب العالمین ہے جس کے معنی ہیں سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، لفظ الحمد کے کئی معنی ہیں۔ اور پہلا قسم کے نظریے پیش کرتا ہے۔ اول یہ کہ لفظ مخصوص طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی یہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوم یہ لفظ تکمیل کا نظریہ رکھتا ہے یعنی بندہ اس کی ذات میں تمام اعلیٰ اور ارفع خصوصیات اور جمیع صفات دیکھتا ہے وہ مرجع صفات ہے۔ سوئم اس لفظ سے اس بندے کی اپنی طلب کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ وہ بقدرِ ہمت و صلاحیت ان خدائی صفات کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کے پیش نظر وہ عبادت الہی کرتا ہے۔ چہارم اس لفظ میں شکر کا مفہوم پایا جاتا

ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندے کے اندر ان صفات کے حاصل کرنیکی صلاحیت رکھی ہے۔ فی الحقیقت عبادت الہی نفسیاتی طور پر ان مذکورہ چار باتوں کے لئے ہوتی ہے چنانچہ خدا تعالیٰ کی عظمت و کمال کا اظہار اور انسان میں اس خوبی کی کمی اور اسے حاصل کرنے کی تڑپ مالک کی دعاؤں کو صحیح و رحیم خدا کے حضور لے جاتی ہیں اور یہ اسی لئے ہے کہ ہمیں فطرتی طور پر اس کا علم ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے کام لیکر خدائی صفات کے مالک ہو سکتے ہیں چنانچہ جب کوئی عابد بوقت عبادت الحاصل کا لفظ زبان سے نکالتا ہے۔ وہ محض خدا کو خوش کرنے کے لئے نہیں بلکہ اپنی زندگی کو احکام الہی کے مطابق ڈھلنے کے لئے ایک حقیقی خواہش کا حقیقی اظہار کرتا ہے۔

الحسن کے بعد مسلمان خدا تعالیٰ کے چار اسمائے حسنہ کا ذکر کرتے ہیں جو فی الذات کامل ترین حسین ترین اسماء الہی ہیں، وہ ہیں سرتاب، سرحمن، رحیم اور مالک یوم الدین جب یہ چاروں صفات انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ دُور دنیا کے لئے عہد سعادت ہو گا۔ سرتاب کے معنی ہیں پیدا کرنے والا۔ پرورش کرنے والا پیر گیری کرنے والا اور صلاحیتوں اور استعدادوں کو کمال خروج تک پہنچانے والا۔ سرحمن کا مطلب ہے بے انتہاء رحیم کرنے والا خدا۔ جس کے اتعام و اکرام اور افضال و برکات بلا تیر و خوبی اور بلا استحقاق بندوں پر نازل ہوں۔ سرحیم کا مطلب ہے کسی عمل کا بار بار صلہ دینے والا۔ مالک یوم الدین کا مطلب ہے بڑا سزا کا مالک اور محض اصلاح کے لئے سزا دینا۔ ان اسماء حسنہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ رب العالمین اپنے بندوں میں رنگ و نسل، ملک و ملت کا کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔ اسلام کا خدا ساری دنیا کا خدا ہے وہ اپنے لطف کرم اور برکات و عنایات سب انسانوں پر نازل کرتا ہے اگر اس دنیا کے حکمران جو دوسری قوموں کو غلامی اور ذلت و مسکنت کی زندگی میں مبتلا رکھتے ہیں۔ یہ الہی صفات اپنے اندر پیدا کریں۔۔۔۔۔ تو غلامی ظلم و جور اور خصیت

دستبند کی لعنت دینا سے منٹا سکتی ہے۔

مسلمان پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نمازیں ان کو چار صفات الہی کی یاد دہانی کراتی رہتی ہیں تا خود بھی وہ اپنی زندگی میں ان صفات کو پیدا کریں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب یہ صفات انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں تو خدا نونی، نیک غمیلی، اور تقوسلے و طہارت اور امن و امان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے چنانچہ یہ حقیقت مغرب میں مذہبی لوگوں کی سمجھ میں آگئی ہے۔

میں اپنے موضوع سے دور چلا گیا ہوں مگر جو کچھ میں نے کہا ہے عبادت کے فطری پہلو سے

جدا نہیں ہے چنانچہ اگر عبادت الہی سے ہماری زندگی پر کوئی اخلاقی اثر پیدا نہیں ہوتا تو ایسی عبادت کی

کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر دو خداؤں کی عبادت کے نتائج و ثمرات ایک ہی جیسے ہوں

تو اس صورت میں انتخاب اور ترجیح کے لئے کبھی کوئی وجہ ہوتی ہے کثرت پرستی کی ہتھیار

صورتوں میں سے بطل پرستی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت مسیح ان منعم علیہ بزرگوں

میں سے آخری بزرگ ہیں جنہیں ان کے پیروکار خدائی تخت پر متمکن کرتے رہے ہیں۔ علاوہ انہیں

میں دو اور انسان خداؤں کا بھی ذکر کرتا ہوں وہ ہندوستانی دیوتا۔ جناب کرشن اور رام چند

ہیں۔ دو ہزار سال قبل مسیح کی لوگ انہیں خدا مانتے چلے آ رہے ہیں، حضرت مسیح کی طرح

وہ بھی مشرقی میں اور رنگدار نسل سے تعلق رکھتے ہیں لیکن خدا ہونے کی حیثیت سے بہت

سی باتوں میں خداوندیہ مسیح پر فوقیت رکھتے ہیں، وہ تاریخی شخصیتیں ہیں اور ان کی زندگی

کا ریکارڈ کارچہ متداول روایات سے برابر نہیں لیکن مقابلتا زیادہ صحیح اور زیادہ مستند ہے

ان کے عقائد و تعلیمات خیالی پہاڑی و غنوں سے زیادہ شاندار تجربہ انگیز، اثر آفریں اثر

پذیر اثر انگیز اور عملی منفعت کے حامل ہیں۔ حضرت مسیح غریب گھر کے غریب بیٹے تھے۔

اپنا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مگر جناب رام چند روقت کے شہزادہ تھے بعد ازاں تخت کے

وارث بھی ہوئے اور کرشن ہمارے جانے وقت کے راجوں ہمارے جوں پر حکومت کی حضرت

مسیح کی مال و ملک کے لحاظ سے کوئی قدر باقی نہیں ہے۔ لیکن دو ذریعہ تاؤں نے نبی نوح
انسان کی خدمت و ممدردی کے لئے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں حضرت مسیح بدیوں کا اہتمام کر
سکے لیکن رام چندر نے بدیوں کا خاتمہ کیا اور اداہا کرشن عمر بھر بدیوں کا قلع قمع کرتے رہے
نادیوں اور سواخ نگاروں نے ان دو مہیشیوں کے جو اعمال و افعال بیان کئے ہیں ان کے
لحاظ سے وہ ظل اللہ نظر آتے ہیں۔

باتل میں حضرت مسیح کے بارہ بیالیس حالات کا ذکر نہیں ہے اگر ہم انسان خداؤں پر نظر ڈالیں
تو ہمیں جناب یسوع مسیح کو دوسروں پر فضیلت اور ترجیح دینے کی کوئی وجہ جواز نہیں ملتی۔ الوہیت
پر ایمان نے انسانیت کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی کہ کرشن اور رام چندر کی خدائی سنے کی سے
ثقافت اور تمدن کے لحاظ سے مسیحیت انسانی ترقی کے لئے ایک خطرناک دشمن ثابت ہوئی ہے اس
نے سائنس کو حتی المقدور کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر آج بھی تیار دور اس کے اس وقت کو بردا
کر لے تو اس کا اکثر و بیشتر وقت سائنس کی سولہ شکنی کے لئے وقف ہو جائے۔ پچھلے ہی دنوں بشپاٹ
لہین نے سائنسی تحقیقات کو دس سال کے لئے بند کرنے کی تجویز پیش کی تھی اس ظلم و جور اور
استبداد کی صداٹے بازگشت ہے جو زمانہ نامتہ وسطی میں ثقافت اور سائنس کے خلاف کلیسا
سے اٹھی تھی اب فرق یہی ہے کہ اسے ثقافت نو کے رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے۔
الغرض اگر کسی شخص کے ایمان باللہ سے زمانہ قدیم کی جرح و خبر پرستی کے مقابلہ میں آقا
کی بہتر خدمت نہیں ہوتی۔ تو جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ایسا ایمان کچھ کام کا نہیں۔
مغرب کی روز افزوں ترقی کو کلیسا کے حکمانہ عقائد کا ترہ خیال نہ کرنا چاہیئے حقیقت تو یہ ہے
کہ جب تک مغرب مسیحیت کے باطل معتقدات کی آہنی گرفت میں جکڑا رہا اس وقت تک اس
نے کوئی ترقی نہیں کی۔ یہ ترقیاں تو مذہبی فرار کے بعد کی ہیں۔

کسی مذہب کے غور طلب امور اس کے بنیادی اصول ہوتے ہیں اگر ہم کو متذکرۃ الصمد

مذہبی اصولوں کو ماننے کو کہا جائے جن کا زندگی کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ان کا نہ ماننا ہی اچھا ہے اور اگر ایسے اصول پیش کئے جائیں جو ہماری شرافت نفس اور باطن کی تہذیب و تہذیب کریں اور کائنات کی تمام تر قوتوں اور استعدادوں کو بروٹے کار لانے کی تلقین کریں تو ایسے اصول انسان کے لئے ناگزیر ہیں۔ میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ خدا تعالیٰ کو ہماری عبادت و ریاضت کی چندان ضرورت نہیں اور اگر عبادت و ریاضت ہمیں قدرتی صفات سے منصف کرے اور ہم میں ایسی خصوصیات پیدا ہو جائیں جن سے تقویٰ و مہارت اور اخلاقی تہذیب و معاشرت پیدا ہو۔۔۔ تو ایسی عبادت ہماری زندگی کا اور صفا بچھوٹا ہو جاتا چاہیے اسلام تو پانچویں صدی عبادت کا سبق دیتا ہے مگر میں پچاس دفعہ ایسی عبادت کرنے کے لئے تیار ہوں۔

سائنس نے جو ہمیں عظیم ترین نعمت بخشی ہے وہ اس ایمان کی نعمت ہے کہ عالم کائنات میں ایک قانون جاری ہے اور ہم صرف اس پر پابند رہ کر ہی کامیاب و کامران ہو سکتے اور خوشی و مسرت کی نعمت سے مستحج ہو سکتے ہیں۔ قانون زمانہ کا تقاضا ہے کائنات کا ہر ذرہ اور اس ذرہ کے ان گنت اتصالات صحیح انسانی جسم قانون کے قائم ہونے پر شاہد ہیں۔ نشوونما اور تدریجی کامیابی قانون کی سخت پابندی پر منحصر ہے۔ ہمیشہ سدی سے لیکر انسانی جسم و جڑ تک ہر ٹکڑے قانون کے تابع ہے۔ اگر کوئی مذہب قانون اور ضابطہ پر انسان کا ایمان محکم اور پختہ کر دے۔ تو وہ انسانیت کی مقدور بھر عظیم ترین خدمت کرے گا اپنی علت و افراط کی رُو سے نیکی و بدی کی ہر دو تحریکیں، قانون اور اس کی قوتوں پر ہمارے ایمان کی مضبوطی یا کمزوری کی نسبت سے پیدا ہوتی ہیں۔ قانون اور اس کی قوتوں پر ہمارا ایمان جس قدر مضبوط اور محکم ہو گا اسی قدر نیکی سے رغبت اور بدی سے اجتناب کا رجحان ہو گا۔ جہاں قانونی بندھنوں کو بغیر خوف گرفت توڑا جاسکے وہاں ہر طرح کا اور ہر طرف سے ظلم و ستم پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی جگہ قانون تعزیرات کو بے رحمی اور ظلم و جور کے مترادف خیال کیا جائے تو وہاں قانون کی کوئی حیثیت باقی ہی نہیں رہتی۔

اگر قانون ہی سب کچھ ہو۔ اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اسے کر دار کی تعمیر اور ہماری کامیابی کا بڑا عظیم پتہ ہے۔ اس لحاظ سے نہ صرف واضح قانون پر ہی ہمارے حکم ایمان کی ضرورت ہے بلکہ قانون سے متعلق اور ہیئت سجاوہ دوسری چیزوں پر بھی ایمان کی ضرورت ہے۔ قانون کا عمل پلٹے عالمین کی خدا بھی چاہتا ہے تا وہ اسے ہمیشہ زیر عمل رکھیں۔ ورنہ ان کے بغیر قانون کی حیثیت کچھ نہ ہوگی۔ مزید یہاں قانون یا اس کی دفعات انسان کی اپنی وضع کردہ ہوں یا الہامی ہوں چونکہ ان کا انسانی زندگی پر مثبت اثر ہوتا ہے اس لئے اس کو ایسی صورت میں محفوظ کیا جانا چاہیے کہ وہ ہر فرد و بشر کی خدمت کر سکے۔

قانون و قدرت کے علم و معرفت کا ملکہ ہر انسان کو عطا نہیں کیا گیا۔ اور نہ اس کے ذرائع پر خود فکر ہی سے میسر آسکتا ہے۔ نسل انسانی میں چند ہی ایسی منتخب ہستیاں ہوتی ہیں جن کو یہ ملکہ نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ انہی کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروؤں کو رہنمائی کریں اور انہیں روشنی بخشن اور اگر قانون کے عالی یا تارک کو ناگزیر طور پر برا سزا دے۔ تو قانون کی تمام ترقیوں اور اثرات و نتائج ختم ہو جاتے ہیں۔ اندریں صورت یہ ہمیں ہمہ گیر عمل اور پابندی کے لئے مجبور بھی نہیں کر سکتا۔ الغرض اس قسم کی برا سزا کے لئے ایسے اوقات متعین و مقرر ہونا چاہئیں کہ جب قانون کی اطاعت اور عدم اطاعت کے اثرات و مضرا کل عالم پر واضح ہو جائیں۔ اگر قانون کا ثبات کی تمام تر مشینری کا بیم (دیور) ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہماری ترقیات کے سلسلہ میں بیش بہا نتائج خیر کا حامل ہے۔ تو اس لحاظ سے

قانون، عالمین قانون۔ اس کے ریکارڈ، محافظین و معلمین وغیرہ پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس انتظامیہ کی طرف سے دی گئی ہر ایسا سزا پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی ایسے انسانی ادارہ کو ہی سمجھئے جو مدنی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا گہوارہ ہو، تو ہم اس کو مذکورہ بالا سات اصولوں میں سے ایک قانون بھی ہے جو کہ گرو گھومتا پائیں گے۔ کسی ملک کی حکومت کو دیکھئے کوئی معاشرہ خواہ وہ کتنی ہی ابتدائی حالت میں ہو وہ کسی قسم کی حکومت کے بغیر جو اس میں ایک سیاسی مختار کی حیثیت سے کام کرتی ہے ترقی نہیں کر سکتا۔ حکومت پلٹے قوانین و ضوابط کے مطابق کام

چلائی ہے۔ اس کے پاس ان قوانین کو زیر عمل لانے کے لئے مشینری کا ہونا ضروری ہے اسے اپنے
 قوانین کو دیکھا کرنا بھی ہوتا ہے۔ خواہ وہ قوانین ضبط تحریر میں نہ ہی لائے جائیں۔ مگر ذہن انسانی میں نقش
 کر دیئے جاتے ہیں اور عوام ان سب تک پہنچانے کے لئے ذیلی افسران کو سوچ دیئے جاتے ہیں
 حکومت کو بھی امور سلطنت چلانے کے لئے ایک عدلیہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ اگر قانون اتنا ہی
 اہم چیز ہے۔ اور میرے نزدیک ہماری ترقی اور تکمیل کی صرف یہی کلید ہے۔ تو مذہب کا یہ پہلا فریضہ
 ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر قانون کے احترام اور اس پر عمل درآمد کا زبردست جذبہ اور جوش و
 خروش پیدا کرے جو مذہب قانون کو یہ مقام نہیں دیتا میرے نزدیک اس کی کوئی قدر اور اہمیت نہیں
 اور جو مذہب قانون کی اہمیت و حیثیت کو گھٹائے ایسے مذہب کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، ایسی وجہ
 ہے کہ مجھے کفارہ اور اسی قسم کے دوسرے باطل عقائد کو چھوڑنا پڑا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے
 واضح کیا ہے کہ اگر ایمان سے مذکورہ بالا نتائج اخذ نہ ہوں تو پھر خدا کی ذات پر بھی ایمان لانے کی کوئی
 ایسی ضرورت نہیں۔ قانون اپنے وجود پر غیر محرف ایمان اور اطاعت کل کا مقتضی ہے اور ان لوگوں کیساتھ
 جو قانون کو نہیں مانتے یا قانون پر عمل نہیں کرتے اس کا رویہ انہی صفات کا سا ہے۔ جب اس دنیا
 میں کوئی اور ایمان قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو قانونی مقتضیات سے بچا نہیں سکتا۔ تو پھر کیا
 آخرت میں بھی ایسا ہی نہ ہوگا؟ اگر ہوگا اور ضرور ہوگا تو کیا مذہب کو ایمان یہ قانون کی اہمیت اور ضرورت
 کو سب سے پہلے ذہن نشین نہیں کروانا چاہیے؟ اس کے علاوہ دیگر موضوعات کو بھی زیر بحث لانا چاہیے۔
 کیونکہ صرف اور صرف قانون پر ایمان سے ہی کچھ مسائل نہیں ہوتا جب تک وہ دوسری ضروری اشیاء پر کچھ
 ہوگئی ایمان نہ ہو مذہب میں عبادت الہی کو اولین اہمیت دی جاتی ہے مگر ہم خدا تعالیٰ کو نظام کائنات سے
 ذریعہ سے ہی جان سکتے ہیں کہ اس نظام میں اس کی قدرت نمائی اور اس کی صفات عالیہ اور کمالات
 جلیلہ کام کرتے نظر آتے ہیں ہمارے پاس سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ اس کی پہچان کا نہیں اس لئے خدا
 تعالیٰ کے حضور عبادت سے مراد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ان افعال و صفات کی پیروی کرنا ہے

جو اس کائنات میں دکھائی دیتی ہیں، ہماری دعائیں یا تعظیم و تکریم کی کوئی دوسری صورت تو محض اس عبادتِ عظمیٰ کی یاد دہانی کے طور پر ہونا چاہئیں۔

مخصوص دعاؤں اور بیانات کی تلاوت کرنا عبادت نہیں ہوتی بلکہ حقیقی عبادت سے مراد قوانین کی مکمل پیروی ہے اس لحاظ سے میں بے خوف و خطر کہہ سکتا ہوں کہ صرف اسلام ہی آسمانی مذہب کا حقیقی نمائندہ ہے۔ اسلام کے معنی قوانین کی فرما تبریاری ہیں۔ اور مسلمان وہ ہے جو قانون کی فرما تبریاری کرے۔ قانون سے مراد قوانین الہی ہیں۔ خواہ وہ ہم نے قوانینِ فطرت کی حیثیت سے خود معلوم کئے ہوں یا خدا تعالیٰ نے خود انسان پر وحی کئے ہوں۔ قرآن کریم میں قانون — افعالِ خداوندی کے لئے بہت سے مترادفات الفاظ استعمال ہوئے جیسے اس کی حدود، اس کی پابندیاں، اس کی حکومت، اس کی نیکی اور بدی کا قبل از وقت اندازہ۔ اور عرش میں پرستگن ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ الفاظ دراصل قانون کے مختلف امور اور پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہیں۔

قانون کا کام کچھ حد بندیاں اور پابندیاں عائد کرنا ہے کوئی فعل بذاتِ خود نہ اچھا ہوتا ہے اور نہ برا بلکہ اسکا استعمال یا اطلاق اور وہ حالات جن کے تحت یہ فعل کیا جائے اسے اس فعل کو اچھا یا بُرا بنا دیتے ہیں۔ اس لئے قانون ان حالات کی وضاحت کرتا ہے۔ جن کے تحت کوئی فعل اس کے قائل کے لئے بھلائی کا موجب ہو اور اس صورت میں یہ فعل نیکی اور بھلائی کہلاتا ہے۔ اور مقررہ حدود سے کسی قسم کے تجاوز سے مراد غلطی، فسق اور گناہ ہے۔ ایک اہم مذہب اور اس کی ضرورت کے لئے قرآن کریم کے دوسرے پارہ کے آخری کوشش میں دلیل کا بیان درج ہے۔ اسے زینافہ مدلل اور مؤتمر بیان کا کوئی اور حوالہ پیش کرنے سے قاصر ہوں۔

”آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے۔ سب اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ ہر حال میں اللہ جانتے والا ہے، پھر اسے اختیار ہے جیسے چاہے بخش دے اور جیسے چاہے عذاب دے وہ ہر بات پر

قادر ہے۔ اللہ کا رسول اس (کلام) پر ایمان رکھتا ہے جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل ہوا ہے اور جو لوگ دعوتِ حق پر ایمان لائے ہیں۔ وہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ان سے مانیں۔
 دو شکر نکو ترکہ مانیں یا سب کو مانیں مگر کسی ایک سے انکار کر دیں ہم تمام رسولوں کی یکساں طور پر تصدیق کرنے والے ہیں) اور (یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں اُچی نے پکارا تو) انہوں نے کہا خدا یا ہم نے تیرا حکم سنا۔ اور ہم نے تیرے آگے اطاعت کا سر جھکا دیا مالک! تیری معفرت ہمیں نصیب ہو۔ خدا! ہم سب کو تیری ہی طرف (بالآخر) لوٹتا ہے۔

اللہ کسی منتقص پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا ہر شخص نے جو نیکی کی ہے اس کا پھل اسی کے لئے ہے اور جو بدی عملی ہے اس کا وبال اسی پر ہے پس ایمان والوں کی خدا نے حال یہ ہوتی ہے کہ (خدا یا! اگر ہم سے (سعی عمل) میں بھول چوک ہو جائے ان پر گرفت نہ کیجیو اور ہمیں بخش دیجیو، مالک! ہم پر بندھنوں اور گرفتاریوں کا بوجھ نہ ڈالو جیسا ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پروردگار! ایسا بوجھ ہم سے نہ اٹھو اٹیو جس کے اٹھانے کی ہم (ذاتِ انوں) میں سکت نہ ہو۔ خدا یا! ہمارے ساتھ ترحمی کر، ہمیں دو گزر فرما، اے ہمارے رب! ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا مالک و آقا ہے۔ پس ان (ظالموں) کے مقابلے میں جن کا گروہ کفر کا گروہ ہے ہماری مدد فرما۔“

پہلے تو قرآن کریم ان چھ باتوں کا... واضح طور پر ذکر کرتا ہے جو کائنات کے ہر صفحہ پر نمایاں طور پر مرقوم ہیں۔ اور جن کا وجود ایک عام اور سطحی انسان کو بھی نظر آتا ہے کہ ان کے انکار پر فوری

عقاب و عقاب مترتب ہوتے ہیں۔ یہ موجودات حقیقی ہیں۔ تمہیں درست طور پر واقعہ یا حقیقت کہا جاسکتا ہے ان آیات میں مندرجہ ذیل حقیقتیں بیان ہوئی ہیں:-

(۱)۔ حکومت الہیہ کی عالمگیریت۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور ہر دو عالم میں اس کا قانون جاری ہے۔

(۲)۔ بارگاہ الہی میں ہمارے ہر ظاہر و باطن فعل کی ناکہ پر جواب دہی ہوگی۔

(۳)۔ قانون مکافات الہی کا نفاذ ہمیشہ جاری ہے دی گئی شرائط کے ماتحت تطایر نخواستی ممکن ہے۔

(۴)۔ انسان میں قوانین الہی کی اطاعت و فرمانبرداری کی اہلیت موجود ہے۔

(۵)۔ قانون عمل اور اس کے اثرات و مضمرات یعنی جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔

(۶)۔ یوم شہر۔ یعنی نتائج اعمال کا وقت۔ خواہ یہ متصل اور فوری ہو کہ بسا اوقات ہم اپنی غلطیوں

اور غلطیوں کے باوصف جلد بے لاء عذاب ہو جاتے ہیں خواہ یہ عقیقی۔ اگلے زمانہ

میں ہو۔ جسے معروف مذہبی اصطلاح عام میں یوم آخر یا یوم حساب کہا جاتا ہے۔

ان عقائد کو ذہن نشین کرنے کے لئے تو ہمیں وحی الہی کی ضرورت ہے اور نہ کسی دنیائی مادی کی اجتہاد کی

تعلیم و تکرار ہے، ہر ذرہ کائنات ان کی منہ بولتی تصویر ہے۔ کوئی ذی فہم انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا

ان سے مذہب اور اس کی ضرورت اور اس کے اصولوں کی ماہیت کی وضاحت ہوتی ہے۔ ان

چھ قوانین کو ایک دھریہ بھی بسر و چشم مانتا اور تسلیم کرتا ہے۔ اصل میں اگر ہم ان سے خدا یا "اس" کا

کے الفاظ حذف کر دیں تو یہ اس کے مذہب کے عقائد بن جاتے ہیں۔ دھریہ قانون قدرت کو

بیجریل و حجت تسلیم کرتا ہے۔ لیکن اس کی مشکل صرف یہ ہے کہ وہ اس اعلیٰ و اکمل دماغ کو ماننے کی

اہلیت نہیں رکھتا جس سے قانون کے سوتے پھوٹتے ہیں اور جو جدید سائنٹیفک تحقیقات کی

دوستی میں پہل رہے۔ سچی کہ ایسے حضرات جو مذکورہ بالا حقائق میں سے بعض پر اعتراض

کرتے ہیں۔ مثلاً ہم میں اطاعت قانون کی اہلیت کا ہونا وہ عالم طبیعات میں ان چھ قوانین کے نفاذ

کو ماننے پر مجبور ہیں۔ عالم کائنات کی ہر شے (DOGMAS) ادعا کی تردید کرتی ہے۔

اس سلسلہ میں یوں مسیحیت کے بنیادی نظریہ — نام نہاد گناہ آدم یا قطری معصیت ... کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر گناہ یا معصیت سے مراد قانون کی خلاف ورزی ہی ہے۔ تو پھر اس نظریہ پر پانی پھر جاتا ہے۔ ہم بلاشبہ گناہ پر قادر ہیں۔ قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں لیکن طبیعت کا یہ منتفی رجحان ہماری پابندی قانون کی صلاحیت کی تکذیب نہیں کرتا۔ انسانی معاشرہ میں حکومت کی تمام ترمیمیں اس مفروضہ پر کام کرتی ہے کہ اس معاشرہ کے افراد سرکاری قوانین کی تعمیل تکمیل کے اہل ہیں۔ اس مفروضہ یا ایمان کے بغیر برطانیہ پارلیمنٹ ایسی جماعت، اور بہت سی دوسری قانون ساز جماعتیں بھی اسی زمرہ میں آتی ہے۔ — کی جدوجہد کا وجود ہی بیکار محض ہو گیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ مذکورہ بالا چھ قوانین اس محسوس دنیا میں جاری ہیں لیکن ہم میں سے بعض لوگ ان قوانین کے آخرت میں بھی جاری ہونے پر اسی طرح کا ایمان رکھنے کے لئے وجہ جواز نہیں دیتے اس قسم کے نقطہ نظر کی بے ثباتی ثابت کرنے کے لئے جو کچھ میں نے پہلے بیان کیا ہے اس کے تکرار کی ضرورت نہیں۔ یہاں اتنا ہی کہہ دیتا کافی ہے۔ کہ میں نے بائبل میں فرامین الہی کا بنظر قائل مطالعہ کیا ہے۔ ان میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جسے انسان پورا نہ کر سکتا ہو۔ کچھ ہی لوگ ایسے ہوں جو مذکورہ بالا بعض احکام کی تعمیل و تکمیل میں نرمی اور تساہل سے کام لیتے ہوں، مگر نسل انسانی میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو مسلمان (ان قوانین پر عامل) ہیں اور رہے ہیں۔ توراہ کی کتاب خروج کے پہلے چار احکام تو خدا تعالیٰ کی توحید پر ہمارے بچے ایمان کے مقتضی ہیں۔ اور باقی احکام پر انسانیت کا بیشتر حصہ عامل رہا کیونکہ ان کی ترویج کے بغیر انسانی معاشرہ خواہ ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہی ہو کھوڑے غرہ کے لئے بھی برقرار نہیں رہ سکتا۔ ایک نئے معاشرہ کی صحت مند اور تعمیری ترقی کے لئے ان احکام کو جاری کرنے کے لئے ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں تو مذکورہ بالا چھ قوانین

ہمارے ایمان کے معترضی ہیں۔ اگر ہم حکومت الہیہ کے ذریعہ اپنے شہری بن کر رہنا چاہیں اور حقیقی کارامی اور خوشی و مسرت حاصل کرنا چاہیں۔ تو ہمیں ان قوانین کو جانتا چاہیے اور ان کے محافظین و معلمین کے سامنے ذاتوں سے تلمذ کرنا چاہیے چنانچہ قرآن کریم کی مذکورہ آیات میں ایسا کلام اور ان آسمانی کتب کا ذکر ہے جو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے۔ یہ کتب رقعات الہی کی راہوں اور قوانین الہی کو جن کے ماتحت وہ زمین و آسمان پر حکومت کرتا ہے افشان کرنے کے لئے نازل ہوئی ہیں۔ مذہبی فرقہ ہائے کثیر ایک اور ذی اس آسمانی مخلوق پر ایمان رکھتے ہیں جسے ملائک کہا جاتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی رو سے وہ ایک ایسی جماعت کا حکم رکھتے ہیں۔ جو قانون فطرت اور کائنات کی ہر وقت اور استعداد کو زیر حرکت رکھتے ہیں اور اسی طرح انہیں دوئم قائم رکھتے ہیں یہ ان کا کام اور ان کی ہستی کا مقصد ہے۔ وہ موجودات عالم کے لئے زندگی اور روح کا کام دیتے ہیں۔ وہ قدرتی صلاحیتوں اور استعدادوں کو زیر حرکت رکھتے ہیں۔ میں اس موضوع کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ بلکہ محض اس حقیقت کو آشکار کرتا ہوں کہ اگر قانون پر پختہ ایمان اور اس کی اطاعت ضروری ہے تو ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم ملائک ایسی مخلوق کے وجود پر ایمان نہ رکھیں اس ضمن میں میں نے ان صفحات میں اس مخلوق کا نام عالمین قانون رکھا ہے۔

ہم کسی مذہبی قانون کو مانیں یا نہ مانیں یہ اپنا مرضی ہے مگر ہمیں ان حقائق پر تو ایمان ضروری لانا پڑتا ہے جو ہماری صحت و مسرت کے لازمہ ہیں اور جو کوئی مذہب نہجائزہ پونے کا دعوے کرے یہ حقائق اس کے اجزاء اور ایمان ہونا چاہیے۔ جو مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) قانون

(۲) خدا تعالیٰ کے سرچشمہ قانون

(۳) ملائک - عالمین قانون

(۴) آسمانی کتب — ذخیرہ قانون

(۵) مرسلین — وہ وسائل جو اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں

(۶) عقبی یا عالم آخرت

(۷) یوم حساب

قرآن کریم کی آیات کریمہ میں سات حقائق بیان ہوئے ہیں۔ جو ہمارے ایمان کے مفقوتی ہیں اور ان پر اس طرح کے ایمان کی ضرورت ہے جس طرح کہ ایک شخص اپنے دیہوی معاملہ اور کاروبار پر رکھتا ہے۔ حال متفیل کی ماں ہے۔ آخری زندگی، موجودہ زندگی کا بچہ ہے اول الذکر، آخر الذکر سے مرتب ہوتی ہے۔ مادہ طبعی سطح پر ارتقائی منازل طے کرتے کرتے انسانی شکل میں اپنے آخری کمال کو پہنچاتا ہے۔ یہاں اس سے ایک دوسرا نظام — اخلاقیات، مذہب اور روحانیت کا نظام۔ پیدا ہوتا ہے۔ موت کے وقت زندگی ترقی پذیر عنصر کے ساتھ، پھل، پھول کی بوباس کی طرح جسم و جثہ کو چھوڑ جاتی ہے۔ یہ کبر کی مثل ہے یا وجود اس کے پرکھا کے گہرے باول بتانے کے لئے اس میں بڑی بڑی توتیاں پہناں ہیں۔ لیکن قانون جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، ارتقائی راہ میں ترقی کے ہر مقام پر نامزد ہے، اس کی پابندی ہا سے کامیابی اور کامرانی اپنی راہ میں ترقی پذیر عنصر کو اپنے ساتھ لیتی ہیں۔ اس لئے ہمیں ایک ایسے نظام قانون کی ضرورت ہے۔ جو ہمیں اپنی انکی زندگی کو مرغوب امور کے مطابق بسر کرنے میں مدد دے۔ تاکہ ہم عالم علوی کے فیوض اور افعال و ثمرات سے کما حقہ طور پر متمتع ہو سکیں۔ ایسے نظام کا کوڈ صرف اور صرف فراست اولیٰ کی طرف سے ہی آسکتا ہے جو زندگی اور اس کی نشوونما کا سرچشمہ ہے۔ اس لئے آسمانی اور اہسامی مذہب کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ مذکورہ بالا حقائق کو تفصیلات کے ساتھ بیان کرے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظام مذہب طفل تالیوں کے مترادف ہے۔ جس کا کام بچہ کو صرف

خوش اعتقاد ہی سکھاتا اور اس کی دیکھنی کرتا ہے۔ مگر پھر ایک نہ ایک دن فہم و فراست اور عقل و بصیرت میں پختہ ہو جاتا ہے۔ اور چیزوں کو دلائل و براہین اور تہذیب و ترقی کی روشنی میں دیکھتا شروع کرتا ہے۔ بنا بریں ایسے مذاہب جن کی بنیاد حکیمانہ اعتقاد اور توہم پرستی پر ہے، وہ دنیا ئے تہذیب و تمدن سے ملنے جاتے ہیں۔

اس مضمون کو ختم کرنے سے پہلے میں قرآن کریم کی مندرجہ بالا آیات کی بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ نظریہ اصول معادلت پر قائم ہے اور دلیل و برہان کے بر تعاقب سے کو پورا کرتا ہے۔ قرآن کریم، ہمارے عمل پر قانون کی استعداد (اللہ کی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھکر ذمے داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ۲۸۶:۲) کو بیان کرنے کے بعد اور پھر ہمارے اعمال کی جو اب وہی رہے شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا بھل اسی کے لئے ہے اور جو بدی مچھٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ۲۸۶:۲) کے متعلق ایسے حوالوں سے تحقیقی حالات کا ذکر کرتا ہے جو سزائے ترک قانون سے نجات کے لئے سود مند ہو سکیں (خدا! اگر ہم سے دسویں (مٹل) میں بھول چوک ہو جائے ان پر گرفت نہ کیجیو اور ہمیں بخش دیجیو۔ ہم پر بندھنوں اور گرفتاریوں کا بوجھ نہ ڈالیو جیسا ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ۲۸۶:۲) وہ حالات تین ہیں۔

(۱) ذرا موٹی قانون — جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی روایت ہے۔
(۲) بے قصد فرودگذاشت۔

(۳) مخصوص حالات میں قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کی نااہلیت۔
کوئی شخص ان شرائط کی قوت و معقولیت پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ ان سے ہماری خطا پوشی و خطا بخشش ہوتی ہے۔ پھر بھی ہمیں اپنے قصوروں سے درگزر کے لئے ہاں کہہ دینا اور ان کے قصور نہایت بجز و انکساری اور تشوہ و حضور کیسے پیش ہونا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ان تین حالات کو دعاویہ صورت میں تصفیہ کر دیا ہے۔

انسانیت کے سچے اصول

”میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے دین پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور ایک ایسی مملکت قائم کرنا چاہتا ہوں جو قرآن کے سچے اصول پر قائم ہو۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ہستی سے اپنی قوم کو رہنمائی کر لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دومیوں کو۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عالمگیر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عربوں میں بت پرستی کا رواج تھا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو حضرت ابراہیمؑ حضرت اسمعیلؑ۔ حضرت موسیٰؑ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معبود اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ مشرقی قوموں میں اس وقت ”باب، بیٹا اور روح القدس“ کے مسائل نے اُٹھتیں پیدا کر رکھی ہیں لیکن اس بے امنی کی دنیا میں پیغمبر اسلامؐ نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ آپؐ نے باب، بیٹا، اور روح القدس کی تثلیث کو بت پرستی اور شرک سے تعبیر کیا۔

مجھے امید ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب میں دنیا کے تمام ملکوں کے دانشمندیوں اور علماء کو جمع کروں گا۔ اور دنیا میں ایک ایسی عالمگیر عدل پرور مملکت قائم کروں گا۔ جس کی بنیادیں قرآن پاک کے ابدی قوانین اور اصول پر مبنی ہوں گی۔ میرا یہ یقین ہے کہ قرآن پاک کے قوانین ہی انسانیت کے لئے سچے اصول ہیں۔ اور نسل انسانی کی فلاح صرف قرآن کے نظام حیات میں ہے۔

عملی جمہوریت

اسلام سب سے پہلا دین ہے جو جمہوریت کا علمبردار ہے۔ اسلام کی تعلیم میں عملی جمہوریت کا ذکر ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو سہی مسجد کے پینار سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ سب نمازی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں یہ ایک ایسا دلکش اور روح پرور منظر ہوتا ہے کہ جب ایک ادنیٰ غریب کسان اور ایک بادشاہ کا ہاتھ سے کاغذ ملا کر اللہ کے حضور میں بھکتے ہیں اور سب کی زبان پر "اللہ اکبر" (خدا سب سے بڑا ہے) کی صدا میں ہوتی ہیں۔ میں تو اسلام کی اس دلکش وحدت اور مساوات سے حیرت زدہ ہو کر رہ جاتی ہوں۔ جو انسانوں میں برابری اور اخوت کے متاثر پیش کرتی ہے۔ سچی جمہوریت کا یہ عملی نمونہ ان میں پانچ دفعہ اسلام نے پیش کیا ہے۔ اسلام نے نسل انسانی میں وحدت خیال برادری اور اخوت کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا ہے اگر لندن میں ایک مہری یا ایجزاٹری۔ ہندوستانی یا ترک آپس میں ملیں تو ان کا وطن خواہ کوئی بھی ہو سب ایک اسلامی اخوت کے رشتے میں تسک نظر آتے ہیں۔

"عدل و انصاف اسلام کا طرہ امتیاز ہے کیونکہ جب میں قرآن مجید پڑھتی ہوں تو مجھے زندگی کے انقلاب آموز اصول نظر آتے ہیں ایسے اصول جو فرضی اور خیالی نہیں بلکہ حقیقی اور عملی ہیں۔ ہاں ہاں ایسے پاکیزہ اصول جو ساری دنیا کے لئے زندگی کی فلاح و کامرانی کے رہنما اصول ہیں۔"

نہ کبھی کسی کو مجبور کرنا نہ ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ تبدیلی مذہب بقول قرآن کریم انسان کے ذاتی فیصلہ اور آزاد رائے سے پیدا ہوتی ہے اور اس میں جبر کا کوئی دخل نہیں ہے۔

اسلام میں انسان کو تنگ دلی اور تعصب سے نجات دل جاتی ہے اور میری رائے میں اسلام شکر گذاری ایمان و محبت امن امان اور سخاوت کا مذہب ہے۔ ایمان کی روح اسلام کا خلاصہ ہے۔ میں یہ کہنے پر تیار نہیں رہ سکتا کہ اگر مشرکین نے اسلام کے خاص اور اہم عقائد میرے لئے ایک حقیقت بن گئے اور مجھے ایسی خوشی میسر آئی ہو کہ اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہ کی تھی! اسلام قبول کر کے مجھے مسیحیت کے مختلف کلیساؤں کے غلطی لائیکل عقائد سے نجات ملی تو ایسا معلوم ہوا کہ روح کو آسمانی نعمت مل گئی اور اسلام کی سادگی اور ضیاء بخش شوکت کا احساس کر کے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں کسی تاریک کوٹھڑی سے نکل کر روز روشن کی فضا میں آ گیا ہوں تعصب اور تنگدلی نے مسیحی کلیساؤں کو محاصرت کا اڈہ بنا دیا۔ لیکن اسلام اس لعنت سے پاک ہے۔ کیونکہ اسلام میں صرف ایک ہی قبیلہ ہے۔

اسلام کی تعلیمات باہمی اوقات، نسلی امتیازات، اور مشرقی اور مغربی اختلافات سب کا قلع قمع کر نیوالی ہیں۔ اگر مسیحیت نے جناب مسیح نامہری کی زبردایت دنیا میں اس قدر روشنی پھیلائی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اسلام کی تعلیمات جو مسیحیت سے اعلیٰ اور ارفع اور سادہ تر ہیں۔ جن کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا انسانوں کو متور کرنے کے کام کو جاری نہ رکھ سکیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ ان دونوں رہنماؤں کی زندگیوں میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اور قرآن کے مطالعہ سے ظاہر ہو گا کہ اس میں کوئی بات سابقہ کتب کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے بلکہ ستراتی تعلیمات سراسر بائبل کی موٹیوں میں یہ توئی ہے کہ وہ ہر زمانہ کی ضروریات کے عین مطابق ہیں۔

مذہبیان مسیحیت کی تنگدلی بڑی حد تک میرے ترک مسیحیت کا باعث ہوئی ہے۔ مسلمان کبھی غیر مذہب کے لوگوں کے متعلق ایسی تنگ نظری کا اظہار نہیں کرتے جیسی کہ مسیحی لوگ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس امر پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسیحی لوگ انکے ہم خیال کیوں نہیں لیکن وہ کبھی بھی محض اختلاف عقائد کی بنا پر دوسروں کو ابدی جہنم کا وارث نہیں ٹھہراتے۔ مسیحیت کی تنگدلی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مسیحی کو انانا ایسوی عقیدہ کا قائل ہونا ضروری ہے۔ جس میں تثلیث کا جو کلیسا کا اہم عقیدہ ہے، نہایت واضح طور پر باریں الفاظ بیان کیا گیا ہے مجھے ڈرایا گیا ہے کہ میں تثلیث پر ایمان لاؤں اور

اگر ایسا نہ کریں گا تو ابدی جہنم کا وارث بن جائیں گے۔ چنانچہ اگر ہم نجات کے خواہاں ہوں تو ہمیں اس طرح تثلیث پر ایمان لانا چاہیے۔ یعنی ہم خدا کو ایک ہی مانس میں جن اور رحیم بھی تسلیم کریں اور ظلم و ستم کی صفات بھی اس سے منسوب کریں جو کہ ہم کسی خون آشام عالم انسان کی طرف بھی منسوب نہیں کرتے۔ گویا خدا جو کہ تمام کائنات سے بالاتر ہے۔ وہ تثلیث کے متعلق ہم فانی انسانوں کے عقائد سے متاثر ہو سکتا ہے۔ میں نے تثلیث کے متعلق کبھی غور نہیں کیا۔ کیونکہ وہ سمجھا ہوا مسئلہ ہے اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو لیکن چند روز ہوئے میرے دماغ میں ایک خیال آیا میں نے اس پر قدرے غور کیا۔ تو معلوم ہوا کہ منقذ مس پادری اٹھاتی تھی نے اس عقیدہ کو ایسے پیچیدہ طور پر پیش کیا کہ جب تک کوئی شخص کسی پادری کی امداد طلب نہ کرے وہ مطلق اس کے الفاظ اور معانی کو نہیں سمجھ سکتا۔ میں اس خیال کو بہت شدت کیساتھ پیش نہیں کرتا۔ اور غالباً اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں کیونکہ یہ محض ایک خیال ہی تھا۔ جو آٹا فانا ذہن میں آیا اور نکل گیا تنگدلی کی دوسری مثال یہ ہے کہ چند روز ہوئے میرے پاس ایک خط آیا جو میری لُغبت اسلام سے متعلق تھا اس میں لکھا تھا کہ اگر میں نے مسیحیت کی اہمیت سے انکار کر دیا تو میری نجات کی کوئی صورت نہیں۔ حالانکہ مسیح کی اہمیت کا مسئلہ میرے نزدیک اتنا اہم نہیں جتنا یہ کہ آیا مسیح نے خدا کا پیغام دنیا کو دیا یا نہیں؟ اب اگر اس مسئلہ پر تجھے کوئی شک ہوتا تو تجھے بہت تکلیف ہوتی لیکن الحمد للہ مجھے کوئی شک نہیں اور مسیح کی صداقت اور ان کی تعلیمات کی صحت پر میرا ایمان ایسا ہی مضبوط ہے جیسے دوسرے مسلمانوں یا مسیحیوں کا اور ایسا ہی اس سے پہلے بھی تھا۔ اسلام اور مسیحیت جیسا کہ جناب مسیح نے تعلیم دیا دونوں سگی بہنیں ہیں ان میں صرف حکمائہ عقائد اور رسمیات کا فرق ہے جسکو باسانی نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔

موجودہ زمانہ میں لوگ ہریت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ پادری انہیں حکمائہ عقائد اور تنگدلی لائے باتوں پر لائے کی تلقین کرتے ہیں۔ مگر آج لوگوں میں ایسے مذہب کی خواہش پائی جاتی ہے۔ جو ان کی عقل اور جذبات دونوں کو اپیل کرے۔ کیا کسی شخص نے کسی مسلمان کو ملحد دیکھا ہے؟ ممکن ہے تاریخ میں چند مثالیں مل جائیں لیکن بہت ہی کم ملیں گی۔ میں خیال کرتا ہوں کہ ہزار ہا مرد و زن دل میں مسلمان ہیں لیکن دنیاوی رسم و خیال کی وجہ سے وہ اعلان نہیں کر سکتے یا عوام کے اعتراضات کا نشانہ بننا نہیں چاہتے۔ اس لئے وہ علی الاعلان حقیقت کا اظہار نہیں کر سکتے۔

اسلام ان وعافیت کا دین ہے

سر آرچیا لٹ مہلٹ دسمبر ۱۸۷۱ء میں پیدا ہوئے آپ نے ۱۹۲۳ء کو اسلام قبول کیا۔ آپ بیرن تھے آپ کی بیوی ایڈمرل فٹنر جارج کے۔ سی۔ وی۔ ای۔ کی اکلوتی بیوی اور فیلڈ مارشل ہنزڈائل مائی سابق ڈپوک آف کیرج کی پوتی تھیں۔ جو ملکہ وکٹوریہ کے رشتہ کے بھائی تھے۔

جب سے میں نے یوش سبھا لاکہ اسلام کی نظری خوبصورتی اور سادگی و پاکیزگی نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا اگرچہ میری پیدائش اور تربیت ایک عیسائی گھرانے میں ہوئی۔ لیکن میں ان کے اعتقادات اور ان کے استدلال کو کبھی قبول نہ کر سکا۔ اندھی تقلید کا بجائے میں نے ہمیشہ عقل کی رہبری کو ترجیح دی ہے۔ جوں جوں وقت گزرنے لگا۔ میں نے چاہا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ میرا تعلق کچھ ایسا ہو جائے جس میں سکون اور سلامتی ہو لیکن میں نے محسوس کیا کہ مجھے نہ چرچ آف انگلینڈ مہلٹس کر سکتا ہے نہ وہ من چرچ اگر میں مسلمان ہوا تو محض اس لئے کہ یہ میرے ضمیر کا تقاضا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو نسبتاً ایک بہتر اور صحیح انسان پایا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں غالباً انعام وہ مذہب ہے جو جاہل اور منقصب لوگوں کا سب سے زیادہ تختہ مشق بنا رہا ہے حالانکہ یہ وہ مذہب ہے کہ لوگ اگر کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے تو ان پر واضح ہو جاتا کہ اسلام ہی شوشلزم کے مسئلہ کا صحیح حل ہے۔ کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امیر و غریب، نبردست اور کمزور میں مساوات پیدا کرتا ہے اور ایک انسان کو دوسرے انسان کے لئے رحمت کا باعث بناتا ہے۔ انسانی نسل میں طبقات میں منقسم ہے۔ اول وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو معاش پیدا کرنے کے لئے تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ تیسرا۔ بیکاروں اور کاہلوں کا کثیر طبقہ ہے۔ یا پھر وہ لوگ ہیں جو اپنے لئے کی وجہ سے یا ناموافق حالات کی بنا پر عاجزی اور دسانگی

کے گروے میں پڑے ہیں۔ علاوہ ازیں اسلام شخصی قابلیت اور ذاتی ذہانت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ مذہب تخریبی نہیں
 تعمیری ہے۔ یوں سمجھئے کہ ایک شخص زمیندار ہے اور اتفاق سے امیر ہے۔ اسے زمین کی کاشت کی ضرورت نہیں۔ اگر
 وہ کچھ مدت تک زمین کی کاشت نہ کرے اور پونہ بیچارہ پسی رہنے سے تو یہ زمین اس کے قبضہ سے نکل جائے گی۔ اور
 عوام کی ملکیت ہو جائے گی اور اسلامی شریعت کی رو سے یہ زمین اس شخص کی ملکیت قرار پائے گی۔ جو اس زمین سے فائدہ
 اٹھانے کا اہل ہو اور جو اسے کاشت کر سکے۔ اسلام جو ابد قمار بازی سے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ تمام غشیات
 سے روکتا ہے اور سود کو جو انسانی نسل کے دکھوں اور غموں کی جڑ ہے۔ عوام قرار دیتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں کوئی
 شخص دوسرے سے جو نسبتاً بڑی حالت میں ہو۔ ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارے نزدیک بے عمل ایمان ایک بے بنیاد
 شے ہے۔ کیونکہ جب تک ہم اپنے ایمان کو پورے کار نہ لائیں اور اسے عمل کی کسوٹی پر نہ پرکھیں۔ ایمان بجا کے خود
 ناکافی ہے ہم اس زندگی میں اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ اور موت کے بعد جو زندگی ہمیں حاصل ہوگی۔ اس کی
 ذمہ داری بھی ہماری اپنی ذات پر ہی ہے۔ ہم اپنی صلیب کو خود ہی اٹھائیں گے اور کوئی اور ہمارے گناہوں کا بدلہ
 نہیں چکا سکتا۔ اسلام کی عالمگیر برادری کے متعلق مجھے کچھ کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں یہ ایک مانی ہوئی حقیقت
 ہے کہ اسلام میں شاہ و گدا سلطان و کسان اور امیر و غریب سب برابر ہیں۔

ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قسمت مقرر کر رکھی ہے یا یہ کہ پہلے سے سب کے حالات
 کا فیصلہ کر رکھا ہے بلکہ ہم تقدیر کے قائل ہیں۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سب کے لئے قوانین مقرر کر رکھے
 ہیں۔ جن کی پیروی کا ہمیں حکم ہے۔

اسلام کی تعلیم ہے کہ انسان نظرًا معصوم ہے مرد اور عورت ایک ہی جوہر سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک ہی روح
 ان میں موجود ہے۔ اور کہ دماغی، روحانی اور اخلاقی کمال کے حصول کے لئے ان دونوں میں ایک ہی جیسی استعدادیں وجود
 کی گئی ہیں۔

میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو باعزت انسان پایا ہے۔ اور مجھے ان کے قول پر پورا اعتماد ہے۔ انہوں نے
 ہمیشہ میرے ساتھ ایک انسان اور بھائی کی چیریت سے منصفانہ سلوک کیا ہے۔ اور میری پود سے طور پر مہمان نوازی

کی ہے۔ سادہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ان کے ہاں ایسا ہی پایا ہے کہ گویا اپنے گھر میں ہیں
 آخر میں میں اتقدر کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام جہاں نسل انسانی کی زندگی و زندگی میں رہنمائی کرتا ہے وہاں آجکل
 کی نام نہاد مسیحیت اپنے حلقہ تعلیم میں اور عملیات میں اپنے پیروں کو یہ سکھلاتی ہے کہ وہ آوار کے دن
 خدا کی عبادت کیا کریں اور باقی تمام ہفتہ بھر اسکی مخلوق پر چھاپہ مارا کریں۔



”میرے قدیم ابا ثی مذہب کے متعلق میرے
 شکوک اور اس مذہب کے بے دلیل عقائد
 نے مجھے مذہب سے بیزار کر کے لادینی
 کی حدود میں دھکیل دیا تھا۔ لیکن
 اسلام کی حقائق افریقین تعلیمات
 کی روشنی مجھے لادینی سے سلامتی
 کی راہ پر لے آئی میں صمیم قلب کے
 ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس
 نے مجھے ظلمت سے نور کی طرف
 کھینچا اور بھیمانہ زندگی سے نکلی کو
 حیات انسانی کی آشوش میں پہنچ گیا۔“
 رحیب الرحمن جملون فلیاٹن ہ۔۔۔

اسلام زندگی کے بہترین اصول پیش کرتا ہے

۱۹۱۹ء میں لندن یونیورسٹی میں علوم شہ قیہ کا مطالعہ شروع کیا اور شہہ ہورد معروف عربی دان پروفیسر سی سنگ ہارگریج سے عربی سیکھی، اور قرآن کریم کی تفسیر سیفادی اور غزالی کی کتاب کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا۔ میں نے اسلامی تاریخ، ارکان دین و عمائد اسلام وغیرہ کا مطالعہ یورپ میں مصنفین کی تصانیف سے ہی کیا ہے ۱۹۲۱ء میں ایک ماہ کے لئے قاہرہ میں رہا۔ الازہر یونیورسٹی کو بھی دیکھا عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں سنسکرت، طلا با اور جاپانی کا مطالعہ کیا ہے۔ ۱۹۲۶ء میں سابق نیدرلینڈ انڈینز میں جگجا کارتا کے ایک عالی تعلیمات کے پیشل سیکنڈری سکول میں جادی زبان اور تاریخ و تمدن ہندوستان پڑھانے کے لئے گیا تقریباً پندرہ سال تک جادی زبان اور قدیم و جدید تمدن کے علم پر کافی عبور حاصل کر لیا

ایک پُر آشوب عرصہ کے بعد جو مجھے جاپانی قیدی کی حیثیت سے گزارنا پڑا ۱۹۳۶ء میں نیدرلینڈ واپس چلا آیا جہاں مجھے ایسٹرنڈم کے رائل ٹریپل انٹی ٹیوٹ میں کام مل گیا یہاں مجھے اسلام کے مطالعہ کا موقع ملا۔ وہ اس طرح کہ مجھ سے جادی زبان میں اسلام پر ایک چھوٹا سا تعارفی کتابچہ لکھنے کی فرمائش کی گئی تھی۔ بعد ازاں اسلام سے میری دلچسپی بڑھتی گئی۔ اس دلچسپی کی وجہ سے ہالینڈ کی اتحادیہ جماعت کے ساتھ میرا تعلق گہرا ہوتا گیا۔ میں نے پاکستان کی نوزائیدہ اسلامی مملکت کا بھی مطالعہ شروع کیا۔ بالآخر اس مطالعہ کی وجہ سے ۱۹۵۴ء کے موسم سرما میں مجھے پاکستان جانے کا موقع ملا۔ اس وقت تک یورپی مصنفین کی ہی کتابوں میں سے اسلام کا مطالعہ کیا تھا، لیکن اس کے برعکس لاہور جاکر اس سے مختلف حقائق سے واسطہ پڑا۔ میں نے اپنے دوستوں سے نماز جمعہ میں شرکت کی خواہش

ظاہر کی اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جب مجھے لاہور کی ایک مسجد میں لوگوں سے خطاب کرنے اور بے شمار نئے دستوں اور بھائیوں سے مصافحہ کرنے کا موقع ملا۔ تو مجھ پر اسلام کی عظیم الشان اقدار کا صحیح انکشاف ہوا۔ اس وقت سے اپنے آپ کو مسلمان محسوس کرنے لگا۔ اور میں نے ان کے تاثرات کو ایک مضمون میں جو ذیل میں درج ہے قلم بند کیا۔

یہ مضمون پاکستان کو انٹرنیٹ کے شمارہ نمبر ۱۹۵۵ء میں شائع ہو چکا ہے اب ہم ایک چھوٹی سی مسجد کی زیارت کرنے گئے اور وہاں ایک عالم، انگریزی زبان میں بڑی روانی سے خطبہ دے رہے تھے۔ وہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک اعلیٰ عہدہ پر فائز ہیں۔ انہوں نے سامعین سے کہا کہ میں نے دیدہ و نستہ خلاف معمول اپنے خطبہ میں انگریزی الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ کیونکہ میں خیال کرتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو نیدرلینڈ ایسے دور دراز ملک سے تشریف لائے ہیں۔ اس طرح وہ اردو زبان میں دیئے گئے خطبہ کو باسانی سمجھ سکیں۔ خطبہ کے بعد امام صاحب کے پیچھے حسب طریق دو رکعت نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے اسنتیں اور نوافل ادا کئے،

میں وہاں پہلے کو ہی تھا کہ امام صاحب نے مجھے تقویٰ دیر کے لئے ٹھہرا لیا اور کہا کہ حاضرین آپ سے کچھ سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں کچھ بیان فرمائیے۔ میں ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ کرتا جاؤں گا۔ چنانچہ میں ان کے نزدیک مائیکروفون کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور اطمینان سے بولنا شروع کیا۔ میں نے نہیں بتایا کہ میں ایک دور دراز ملک سے آیا ہوں۔ وہاں مسلمانوں کی تعداد آٹھ میں تک کے برابر ہے۔ میں نے اپنے ہم وطن مسلمانوں کا پیغام خیر سگالی مسجد میں موجود ان پاکستانی بھائیوں کو پہنچایا جنہوں نے سات سال پہلے اپنی آزاد اسلامی مملکت کی طرح ڈالی تھی۔ ان چند سالوں میں اس نوزائیدہ مملکت نے اپنی حیثیت مستحکم کرنے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے ایک مشکل آغاز کے بعد اب وہ بلاشبہ ایک آسمان اور خوشحال مستقبل دیکھیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے وطن واپس جا کر اس خلیص، جذبہ رفاقت اور تعاون کا حال جو پاکستان کے عظیم شہریوں کے مختلف حلقوں سے مجھے حاصل ہوا ہے اپنے ہم وطنوں کو سناتاؤں گا۔

ان الفاظ کا جب اردو ترجمہ سنایا گیا تو سامعین پر نہایت شاندار اثر ہوا، یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ

رہی کہ نیک لوگوں نمازی میرے ساتھ سنا کر کرنے اور مجھے مبارکباد دینے کے لئے کھینچے چلے آ رہے ہیں جو ان وضعیف
 ہاتھوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو محبت و شفقت سے تقام لیا۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ
 گرجاؤں اور محنت و انبساط کے جذبات تھے جو ان کی آنکھوں سے جھمک رہے تھے اس وقت میں نے اپنے آپ
 کو اس ندیم المثل اخوت اسلامی سے گھیرے ہوئے پایا جو دنیا بھر کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ پاکستانی مسلمانوں
 سے ملکر مجھے یہ سمجھ آگئی کہ اسلام شریعت کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ ادب و تربیت، علمی پہلو، بھی رکھتا ہے ۲۴ اکتوبر ۱۹۵۶ء
 کو میں نے فرنڈس آف اسلام کے ایک جلسہ میں جو کہ نیشنل کونسل آف ایجوکیشن میں منعقد ہوا اسلام قبول کیا۔
 میرے لئے اسلام میں جو نوبی نظر آئی تھی۔ اور اس مذہب کی طرف بالخصوص جس چیز نے مجھے کینچا اس کا میں ذیل
 میں مختصر ذکر کرتا ہوں۔

جو ایک معقول پس منظر جماعت کے لئے نہایت آسان بات ہے جس میں کوئی پیچیدگی اور
 الجھن نہیں ہے۔ وہ خود بے نیاز ہے اور دوسری مخلوق کا رتبہ اور خالق ہے۔ اس نے کسی کو نہیں جنا اور اس کے مثل
 کوئی نہیں۔ وہ اعلیٰ ترین عقل و فہم اعلیٰ ترین طاقت و قدرت اور اعلیٰ ترین برکات و انصاف کا مالک ہے اس کے
 رحم و کرم کی کوئی انتہا نہیں۔

۲۔ خالق اور مخلوق کے درمیان برابر کے راست متعلق ہے۔ انسانیت کو اعلیٰ ترین نود ہدایت سے نوازا گیا ہے۔
 ایک مومن کو کسی درمیانی واسطہ کی ضرورت نہیں۔ اسلام مولوسی و پادری، پندرت پر وہت سے بے نیاز ہے۔ اسلام
 عقائد مطابق تعلق باللہ خود انسان پر منحصر ہے۔ انسان کو بخوری زندگی کے لئے ہی دنیا میں تیار کرنا ہوتا ہے۔ اور
 وہ اپنے اعمال و اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ افعال و اعمال کا کفارہ کسی معصوم شخص کی قربانی سے ادا نہیں ہو سکتا اور
 کسی شخص پر کسی کی طاقت سے بڑھ کر بوجہ نہیں والا جاتا۔

۳۔ اسلام میں مرد و عاری کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اسکا راہ فی الدین ہیں میں کوئی جبر
 نہیں مسلمان کو ہدایت دے کہ صداقت جہاں کہیں سے ملے حاصل کرے۔ اسی طرح اگر کسی دوسرے مذہب میں خیر یا
 نیک آئیں۔ ان کو بھی اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔

۴۔ اسلام میں اصول اخوت بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب و ملت تمام بنی نوع انسان پر حاوی ہے صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو عملاً اس اصول پر کاربند ہے مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں۔ ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں، خدا کی درگاہ میں انسانی مساوات کا نمونہ احرام کے لباس نظر آتا ہے جو کہ منہ سے منظر میں حج کے موقع پر پہنا جاتا ہے۔

۵۔ اسلام کے نزدیک مادہ اور روح زندہ حقیقتیں ہیں۔ انسان کی دماغی ترقیاں ضروریات کے ساتھ ساتھ ناقابل انقطاع طور پر وابستہ ہیں اور انسانوں کو ایسے طریق پر عمل کرنا چاہیے کہ روح مادہ پر غالب رہے۔ مادہ بچہ دل و دماغ اور قلب و نظر کا تصرف و اختیار ہو۔



”اسلام کا تمام نسل انسانی پر یہ برا احسان ہے اور کسی دوسرے مذہب یا سوسائٹی کو اس قدر عظیم کامیابی حاصل نہیں۔ تمام نسل انسانی میں مساوات برادری ہر ایک کو ترقی کے برابر کے مواقع از زندگی کے معیار اور ہر بات میں اسلام نے مساوی حقوق کا درجہ دیا۔ ہر ایک کو اپنی سعی و عمل کے نتائج کی برابر کی ضمانت دی۔ اسلام کے نظام حیات میں کالے اور گورے میں امتیاز نہیں اسلام تمام نسل انسانی کو ایک ہی کتبہ کے افراد تصور کرتا ہے۔ افریقہ انڈیا، انڈونیشیا حتیٰ کہ جاپان تک ہر قوم اور ہر نسل کے (بساتوں، قوموں اور نسلوں میں جس میں بے شمار اختلافات بھی موجود ہیں ان میں مصالحت و موافقت اور وحدت خیال کے سلسلے میں اسلام نے بہت عظیم پارٹ ادا کیا۔ بے مشرق اور مغرب کی تہذیبوں میں آج کل جو تصادم ہو رہا ہے میرا یقین ہے کہ دونوں کے درمیان اسلام اور صرف اسلام ہی موافقت اور تعاون کی راہیں کھول سکتا ہے“

پروفیسر گ

اسلام — فطرت کی آواز ہے

میرے لئے یہ امر ایک گونا گونا گوترت کا موجب ہوگا۔ اگر میں ان حالات کو قلمبند کروں جو میری قبولیت اسلام کا موجب ہوئے۔

اول عمر سے ہی میں تخلیق کا پوری طرح قائل تھا اور یہ بات کہ خالق اکبر کا بھی کوئی بیٹا اس زمین پر ہو سکتا ہے۔ عقلی طور پر کبھی سمجھ نہیں آسکی۔ میں متذکرہ صدر وجہ کی چار اکثریہ اطمینان و افسردہ خاطر رہتا تھا۔ اور ان بچپنی اور اضطراب کے باعث میری باقی جہات بھی رو بہ راہ نہ ہوتیں۔ اتفاق سے ایک دن سیک لائبریری میں جانے سے میری نظر سلاک لائیو پری پری۔ جو وہاں آیا کرتا تھا۔ اسے اٹھا کر میں نے باہمی نصف گھنٹہ ہی پر بھاٹھا کہ مجھ پر یہ بچہ منکشف ہو گیا کہ سلاک ریویو تو اسی مذہب کو پیش کرتا ہے جس کا میں دل سے منتہی ہوں۔ اس دن سے مجھ میں اعتماد علی النفس پیدا ہوتا شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ آج بفضلہ میں اپنے آپ کو ایک بہترین انسان سمجھتا ہوں۔

قرآن کریم کی جس بات نے مجھے متاثر کیا ہے وہ اس کی زبان کی سادگی اور درست بچہ خدائی غلطی و شوکت کی آئینہ دار ہے۔



اسلام حکمت و معرفت کا دین ہے

ادائل عمر ہی سے میں عیسائیوں اور ان کے اکابرین کی منافقت سے
 از حد نیرار ہو گیا تھا جوں مگر بڑھتی گئی قرآن کریم کے مطالعہ کی طرف زیادہ توجہ
 دیتا رہا۔ مجھے اس کے صفحات کے اندر ہر ایک شخص کے لئے رشد و ہدایت نظر
 آئی۔ یہ کتاب ایک منطق ہے، جو حکمت و دانش پر مبنی ہے یہ محض تصوف کی
 کتاب نہیں ہے، قرآن کو کسی سے سیکھنے کی چیزیں ضرورت نہیں اپنی تفسیر و تشریح
 تو وہ آپ نے جو کوئی تنفس اس سے نیر و ہدایت کا متمنی ہے۔ غیر متعصب دل و
 دماغ کے ساتھ اور خال الذہن ہو کر مطالعہ کرے تو یہ اس کے آگے نور و
 بصیرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔



شوئے قسمت سے گلپسا انگلستان نہایت ہی تنگ ظرف و متعصب واقع
 ہوا ہے۔ اس میں فلسفہ کا فقدان ہے۔ اس لئے اس کے بالمقابل مذہب
 اسلام سچا مذہب ہے جس میں روحانیت و صداقت، علم و عرفان کوٹ
 کوٹ کر بھرا ہے۔ (سن این رحیمہ لسی ازور کسٹر)

دیوندر اد سے فلاورڈ

اسلامی پیغام کی سادگی اور مسلمانوں کا مخلوص

آپ نیوکاسل کے ذہین شہری — لاکھ فوجی — پر جوش سابق عیسائی پادری — اور
بہترین مقرر ہیں

”مغربی عیسائیت کے واضح عقائد کو چھوڑ کر ایک مشرقی دین یعنی اسلام کو قبول کرنا ایک بڑا اہم اور بنیادی فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ میں نے کسی جذباتی رویہ میں بہہ کر نہیں کیا۔ بلکہ یہ میری طویل سوچ و پیمار، غور و فکر اور میری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں نوجوانی کی اس عمر میں نہیں جہاں انسانی تعلیمات کی دنیا میں رہتا ہے، بلکہ میں ایک عمر رسیدہ انسان ہوں اور دنیا کے گرم و سرد سے واقف۔ میں نے تیرہ سال فوج کے ساتھ بسر کئے ہیں اور اپنی ابتدائی عمر سے مغربی عیسائی اور غیر عیسائی ماحول میں پرورش پائی ہے۔ فوج میں ملازمت کے سلسلہ میں مجھے مشرقی ملکوں میں جانے اور وہاں کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ قدرتی طور پر مجھے وہاں کے مذاہب اور عقائد سے بھی واقفیت ہوئی۔ مغربی اقوام کے اعمال و حرکات جو عیسائیت کے نام پر کئے جاتے تھے ان سے میری طبیعت سخت بیزار ہوئی اور اس کرامت کے باعث میں آنا دخیالی کی طرف مائل ہو گیا۔ میں نے از سر نو عیسائیت کے مذہبی عقائد و اعمال کا جائزہ لینا شروع کیا۔ مجھے ہر طرف تناقض، افتراء، ریا، انفاق سے واسطہ پڑا اور نمائش، تجسس، افسانہ و منافرت اور مذہب کے نام پر سازشوں کا جال بھیلایا ہوا دیکھا۔ میں نے چرچ کا کام چھوڑ کر خیریت خلق کی طرف اپنی توجہ مبذول کی جس میں عمر، عقیدہ، نسل، رنگ اور مذہب کی تخصیص نہ تھی اور یہی کام میں آج تک کر رہا ہوں۔ میرا زیادہ وقت لوگوں سے محاورہ کی بیماریاں پر ہی اوجھار سے علاج جانوروں سے ہمدردی اور نیربانی کے سلوک کی تحریک میں صرف ہوتا ہے۔ افسوس ان امور میں بھی عیسائی اداہل میں عقیدہ اور عقین کو انسانیت کی ہمدردی پر

ترجیح دی جاتی ہے۔

اسلام کے پیغام میں جو غلوں میں پایا جاتا ہے وہ مجھے اسلام کی طرف کھینچ لانے میں مدد ہوا ہے۔ میں اپنی رضا و رغبت سے اپنے تعلقات مغربی علیائیت سے بالکل منقطع کرتا ہوں اور خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھنے ہوئے انسانیت کی خدمت کے لئے آمان ہوں۔ میں اپنی زندگی کے اس اہم فیصلہ پر خدا کا شکر گزار ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے دین اسلام اور اس کے ماننے والوں کی کچھ خدمت کر سکوں گا۔ میں ایک ناچیز انسان ہوں۔ لیکن اپنی قوتوں کو ایک خداوند انسانیت کی خاطر صرف کروں گا۔ میں یہاں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سلسلہ میں مجھ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ اور میں نے اپنی مرضی سے حق اور صداقت کی غرض سے یہ فیصلہ اپنے دل کی گہرائیوں سے کیا ہے۔ خدا مجھے ثابت قدم رکھے۔ آمین۔



انگریزی ترجمہ القرآن جس کی تشہیر و وکٹگیشن کر لیا ہے، کی ایک کاپی میں نے خریدی۔ اور ابتداء سے اس کا مطالعہ شروع کیا۔ دوران مطالعہ میں میں نے بسا اوقات مختلف مسائل پر اپنے مقامی دوستوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس پاک کتاب کے مسلسل مطالعہ نے مجھ پر مبرہن کر دیا کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو صراطِ مستقیم دکھاتا ہے۔ اس کی تحیر العقول طاقت و قوت محسوس کر کے اسلام کا والہ و شہید ہو گیا۔

ایچ پی پبلشر احمد

فاطمہ بی بی کی ڈی وی ڈی ڈاؤن لوڈ کریں ٹیڈ ریلیٹیو

اسلام عالمگیر مذہب ہے

میری پیدائش ڈچ عیسائی خاندان میں ہوئی ہے اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے اور اس کے بعد کئی سال تک میرا قیام انڈونیشیا میں رہا۔ وہاں مجھے مسلمانوں کے ساتھ راہِ رسم کا موقع ملا۔ اور آہستہ آہستہ میں نے اسلامی نظریہ حیات کا عملی مطالعہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور دوسرے مذاہب کے اخلاقی امور کا بھی سیر حاصل مطالعہ کیا بالآخر میں اس نتیجہ تک پہنچی کہ صرف اسلام ہی ہے جو انسان کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اسلام نہ صرف روحانی اور قوی مذہب ہے بلکہ علمی مذہب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق مذہبی عبادتوں اور ریاضتوں تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ ہماری ذات میں ہے اور ہمارے گرد پیش بھی ہے وہ ابدی اور ازلی ہے حاضر و ناظر ہے۔ اور اس کا ذریعہ ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے۔ اسلام انسانی فطرت کو براہِ راست اپنی کرتا ہے اور ہمیں ایسا اطمینان بخشتا ہے جو ہماری پریشان حال روحوں کے لئے از بس ضروری ہے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ ایسا شخص جو دنیا کے تاریک ترین گوشے میں رہتا ہے اور کسی بھی مذہب سے وہ واقف نہیں کیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا یا دوزخ میں اور یہ کہ دنیا کے قدیم لوگوں کے ساتھ جو خدا اور اس کے وحدت وجود کے عقیدے سے نا آشنا شخص ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ آج دنیا میں بے شمار مذہب ہیں جو باہم دست و گریباں ہیں، سب ہی اپنے آپ کو سچا اور سن جانب اللہ خیال کرتے ہیں۔ اللہ اس بات کی قائل نہ تھی کہ احتساب عمل کے وقت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس شخص سے اس کے مذہب کا نام پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعہ اس سوال کا جواب دیتا ہے قرآن سے مجھے معلوم ہوا کہ "کسی شخص کی کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔"

مسلمان ہونے سے پہلے میرا خیال تھا کہ جبکہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اس دنیا کو اپنا اپنا منوعہ پیغام پہنچایا ہے اور اپنے اپنے فرائض کو بحسن خوبی سرانجام دیا ہے۔ تو پھر کیوں حضرت عیسیٰ کو حضرت بدمذہب پر فطیلت و ذوقیت عطا ہو۔ اور یہ کہ جب میں حضرت عیسیٰ کو اپنا پیغمبر اور رسول تسلیم کرتی ہوں تو دوسرے مذاہب کے نبیوں اور رسولوں پر کیوں ایمان نہ دکھوں۔ جبکہ وہ بھی حضرت عیسیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور ہدایت لے کر آئے ہیں اور اس الجھن، تردد اور کشمکش کا حل مجھے اسلام کے اندر نظر آیا۔ اس لئے کہ اسلام تمام انبیاء کے پیغام کی جنہیں ایسی تعلیم کا حق دے کر مبعوث کیا گیا تعلیمِ حکیم کی متعین کرتا ہے۔ اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے اور عالمگیر حیثیت کا مالک ہے۔

قرآن کریم سچے کامل اور افضل کلام الہی پر مشتمل ہے یہ نور کا منبع اور حسن و خوبصورتی اور اعظمیٰ روحانی اقدار کا مرقع ہے۔ میں نے جب اسلام کا دوسرے مذاہب کو سامنے رکھ کر مطالعہ کیا تو مجھے اسلام کی اعلیٰ اور فطرتی تعلیم پسندائی۔ میں نے بدیر مطالعہ جاری رکھا اور ایسے لوگوں سے سوال و جواب اور بحث و تمییز کا سلسلہ جاری رکھا۔ جن کے ذریعہ آخر کار میں سیدھی راہ یعنی صراطِ مستقیم پا ہی لیا۔ اور ۹ مارچ ۱۹۵۵ء کو سڑک پر ایم ٹی ایل کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو گئی۔ میں امام صاحب موصوف کی رہنمائی اور سعادت کا شکر ادا کرنے سے قطعی قاصر ہوں، میں نے یہ مذہب باہم نہیں بلکہ برضا و رغبت من جانب اللہ سچا سمجھ کر قبول کیا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

لقد انزلنا آیت مبینۃ واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم

﴿قرآن ۲۴: ۴۴﴾

”یقیناً ہم نے کھلے کھلے احکام نازل کئے ہیں۔ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔“



اسلام عقلی اور عملی مذہب ہے

اسلامی تعلیم کی سادگی، اسلامی مساجد کا ٹوٹا اور جاذب ماحول، مسلمانوں کا خلوص۔ ان کا پابندی کے ساتھ بخوشی نمازوں میں حضور و مشروع و مشروع یہ سب باتیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے ابتدا ہی سے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ لیکن قبول اسلام کرنے کے بعد مجھے بہت سے عقلمانی ایسے ملے جنہوں نے میرے فیصلہ پر ہر توثیق ثبت کر دی زندگی کا خوش آمدیل۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اور عملی کوششوں کا مستفادہ ٹمرہ، پند و نصائح رافت سجاد کی تعلیم، رواداری، حقوق نسواں کی حفاظت اور ان کے علاوہ دوسرے نصابوں تعلیم وغیرہ جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سرفراز کیا۔ ایسی باتیں ہیں جنہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اسلام ایک عملی مذہب ہے جس کا خلاصہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول میں پیش کر دیا ہے "عقل و قول"۔ آپ نے دنیا کو عمل کا ایک مثالی نظام عطا کیا۔ جو کورائے تقلید سی پاک ہے جس میں انسان اس عالم الغیب الشہادہ پر ایمان لاتا ہے اور اسے اس امر کی ضمانت ملتی ہے کہ اپنا فرض بہ اس طریق ادا کرے کہ بعد اللہ تعالیٰ کی تواریخ پر تکیہ کرے، اسلام کا روادارانہ جذبہ جو وہ دوسرے مذاہب کے عقلمانی تہمتیں کرتا ہے ایسا ہے کہ ہر حریت پسند اس کی قدر کرے گا آپ نے اپنے تابعین کو حکم دیا کہ اہل کتاب کے ساتھ شریعتاً نہ برتاؤ سے پیش آؤ۔ اور حضرت ابراہیمؑ، یسےؑ، موسےؑ وغیرہم سب انبیاء کی یکساں طور پر عزت کرو۔ یہ طرز عمل تہدیت ہی تیار کرتا ہے اور یہ اسلام کو دیگر مذاہب عالم سے ممتاز کرتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی پاک تعلیم یہی ویسی کی ویسی ہے اور ان میں کئی عقائد کی آمیزش نہیں ہوئی۔ قرآن مجید آج بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ وہ اپنے نزول کے وقت تھا۔ اس میں ایک حرمت کی بھی کمی نہیں ہوئی، وہ ایسا ہی

پاکینو بے جیسا کہ ایک مسلمان کا دل۔ اسلام میں پرہیزگاری اور اعتدال پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اور ان دو باتوں نے میرے دل کو پورے طور پر مفتوح کر لیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی صحت اور پاکیزگی کا بہت خیال تھا۔ اسی لئے آپ نے ان پر مدد نہ فرض کیا تا وہ خواہشات نفسانی پر غالب آسکیں۔

جب میں استنبول، دمشق، بیت المقدس، قاہرہ، ایجیریا، طابخیر اور دوسرے شہروں کی مساجد میں گیا تو مجھے ایک زبردست رد عمل کا احساس ہوا کہ اسلام اپنی سادگی کے باوجود انسان کے اعلیٰ روحانی جذبات کو متاثر کرتا ہے۔ یہاں ظاہری نمود اور شان کا نام نہیں ہے۔ نغمہ ہے نہ ساز نہ تضاد یہیں نہ نقوش، نہ آثار پرستی ہے نہ رسم پرستی۔ مسجد مجاہدہ اور مراقبہ کا مقام ہے۔ جہاں انسان خدا تعالیٰ کی حضوری میں اپنی خودی کو فراموش کر دیتا ہے۔

اسکا کم کی شان جمہوریت نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا، شاہ و گدا دونوں شاد و یشتانہ کھڑے ہوتے ہیں اور ظاہری کیسا دکھ کوٹا سجد کرتے ہیں۔ مسجد میں رڈوسا کے لئے مخصوص مقامات نہیں ہیں بلکہ خدا کے گھر میں سب کے سب برابر ہیں۔ اسلام میں خدا اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ مسلمان براہ راست اپنے خدا کو پکار سکتا ہے اور اس سے التجا کر سکتا ہے اسے اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکتے ہیں کسی پادری یا مولوی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نجات کے لئے کسی کی سفارش درکار ہے۔

مجھے سفر کے دوران میں اسلامی اخوت اور مسادات کے اعلیٰ نظائے جن میں ذات نسل، قومیت، رنگ و نسل کو دخل نہیں، اکثر دیکھنے کو ملے ہیں اور یہ اس مذہب کی ایسی خصوصیت ہے جس نے مجھے شدت کیساتھ اپنی طرف کھینچا ہے۔

”سچی تحکم اور تہم پرستی مجھے ہرگز متاثر نہیں کر سکی۔ اسلامی اصول عقلی اور عملی ہیں“ — جان قاطم

امن و راحت کا گہوارہ

”میں نے ہمیشہ ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین کو عزت، عظمت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ دین اسلام میں ایک بہت بڑی دروہانی (توت سے) اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ہر دور اور ہر زمانہ کی رہنمائی کی اہلیت رکھتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی یہ پیش گوئی کر چکا ہوں کہ سو سال کے بعد اگر یورپ کا کوئی مذہب ہوگا تو وہ اسلام ہوگا۔ یہ ایک ایسا دین ہے کہ وہ بھی اس طرح مقبول اور محبوب ہوگا جس طرح وہ آج کل بھی یورپ میں اپنی مقبولیت کی راہیں نکال رہا ہے۔ ہمارے قرون وسطیٰ کے عیسائی پادریوں اور مذہبی پیشواؤں نے یا تو اپنی لاطینی کی وجہ سے یا افسوسناک تعصب کی وجہ سے پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عدیل القدر شخصیت اور آپ کے مذہب اسلام کو نہایت ہی تاریک شکل میں پیش کیا ہے۔“

بلکہ میں تو کھلے اور صاف الفاظ میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر آج دنیا کی حکومت اور ڈکٹیٹر شپ

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایسے انسانِ کامل کے سپرد کر دی جائے۔ تو آپ اس کرہ ارض کے تمام مسائل حیات اور مشکلات کو اس طرح حل کریں گے کہ تمام دنیا امن اور راحت کا گہوارہ بن جائے گی۔ ہر طرف مسرتوں اور خوش حالیوں کا دور دورہ ہوگا۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین

یورپ میں اپنی قبولیت کے دروازے کھول رہا ہے۔“



اسلام رواداری اور اخوت انسانی کا مذہب ہے

اکثر اصحاب نے مجھ سے دریافت کیا ہے کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ ذیل میں اپنے قبول اسلام کی چند وجوہات لکھتی ہوں۔ اولاً میں یقین نہیں رکھتی کہ موجودہ زمانہ کے مسیحی جناب مسیح کی اصلی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے وہی تعلیم دی ہوگی جو حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور دیگر انبیاء نے دی تھی اور وہ تعلیم اسلام کے علاوہ اور کچھ نہ تھی۔ اسلام کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے تسلیم و خضوع کرنا۔ اور تمام انسانوں کو بلا امتیاز رنگ و نسل اپنا بھائی سمجھنا۔

ثانیاً یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری نجات کے لئے خدا کو شکل انسان دنیا میں آنے کی کیا ضرورت تھی بلاشبہ یہ بات زیادہ قرین عقل ہے کہ ہم خود ذاتی کوشش اور عقائد کی مدد سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور یہی صورت ہماری نجات کے لئے ممکن ہے۔ علاوہ ازیں اگر جناب مسیح علیہ السلام خود خدا تھے تو پھر وہ کیوں کہتے تھے کہ "مے ہمارے آسمانی باپ" نیز میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہوگی۔" آجنگاہ نے بارہا اپنے شاگردوں سے کہا کہ باپ کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے تمام رات گیتسی کے باغ میں ہمت اور طاقت حاصل کرنے کے لئے خدا سے دعا کی۔ اور بعد ازاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ علاوہ بریں کہا جاتا ہے کہ اب جناب مسیح خدا باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر جناب مسیح خود قادر مطلق تھے تو پھر ایسے الفاظ کیوں کہ ان کی زبان سے نکلے، یہ کوئی معقول بات نظر نہیں آتی۔ میں تو خدا کو برتر عالمگیر اور بہت رحیم یقین کرتی ہوں۔ جناب مسیح اس کے رسول ہیں۔ اسلام میں خدا تعالیٰ ایک عالمگیر خدا ہے جو لاکھوں اور رحیم ہے اس نے جناب مسیح کو رسول بنا کر بھیجا، تاکہ وہ بتوں کی رہنمائی کریں۔ جس طرح کہ ان سے پہلے حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور دیگر انبیاء نے

کی تھی۔ ان تمام پر خدا کی رحمت ہو۔ آنحضرت صلعم بھی خدا تعالیٰ کا وہی پیغام لائے جو دوسرے انبیاء لائے تھے۔ اور میرا ایمان ہے کہ تمام انبیاء جن میں مسیح بھی شامل ہیں۔ اسلام ہی کا پیغام لائے تھے جس کے معنی ہیں۔ خدا کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ اور پھر ایک آدمی اسلام قبول کر کے بہتر مسیحی یا یہودی بن سکتا ہے بہ نسبت ان لوگوں کے جو آج کل مسیحیت یا یہودیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان میرا طریق کار اب یہ ہے کہ میں سب انبیاء کی عزت کرتی ہوں اور ان پر درود بھیجتی ہوں۔ کیونکہ جس طرح آنحضرت صلعم نے لوگوں کو خدائے واحد لا شریک خالق کی اطاعت کا حکم دیا۔ اسی طرح انہوں نے رزاداری اور صلح کا سبق پڑھایا اور ظلم سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اور خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر مقبوطی سے قائم رہنے کی تعلیم دی کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری بھلائی کس چیز میں ہے۔ بچوں سے محبت کرنا اور صداقت کے لئے تکالیف اٹھانا یہی باتیں سب انبیاء نے لوگوں کو سکھائیں تھیں۔ آج مختلف اقوام میں جو اختلاف رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مذہب سے غافل ہیں اور ایمان میں کمزوری ہے۔ لوگ باہم دست و گریبان ہیں محض اسلئے کہ وہ اپنے باویان برحق کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے، اسلام رزاداری اور اخوت انسانی کا سبق دیتا ہے چنانچہ میں نے اسلام اس لئے قبول کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مشیت نافذہ کے متعلق میرے فانی خیالات کے بالکل مطابق واقع ہو ہے۔ صرف یہی ایک ایسا مذہب ہے جو اچھی طرح عقل میں آسکتا ہے۔ اور اس کی سادگی اور خوبی کا یہ عالم ہے، ایک بچہ بھی اسکی تعلیمات کو باسانی سمجھ سکتا ہے۔ ربنائے عالم محمد



بائبل کے طائفے والے آج اندھیرے میں ٹامک ٹوٹیاں مار رہے ہیں۔ کیونکہ بائبل کی صحت تو مشکوک ہو گئی ہے اور وہ اس قابل نہیں رہی کہ طلب حق و صداقت کے لڑائی اس کی درج گردانی کی جائے اب طالب حق کی تشفی اسلام میں ہی ہو سکتی ہے۔

(مسٹر غلام محمد پیر۔ اٹلی۔)

اسلام — زندگی کا رہبر ہے

میں۔ اہل چھوٹے سے مضمون میں مختصراً ان حالات کو قلمبند کروں گا جو میرے قبول اسلام کا موجب ہوئے اور مجھے امید ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں اور غیر مسلم دوستوں ہر دو کے لئے یہ دلچسپی کا ثوبہ ہوگا۔

میری پرورش پمپن ہی سے ایک مذہبی فضا میں ہوئی ہے۔ کیونکہ میں پادری بننے کا خواہشمند تھا اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہی تھی پادری بننے کی بجائے میں دیگر مذاہب کی تحقیق میں لگ گیا چنانچہ میں بڑی تحقیق کے بعد مسلمان ہوا ہوں۔

چونکہ میری مصروفیات نے میری زندگی میں ایک نئی دلچسپی پیدا کر دی تھی۔ اس لئے میرے پاس مذہب کے مطالعہ کے لئے جتنا وقت پہلے ہو کر تا تھا اب اس سے کم رہ گیا اور سبز کار جون جون زمانہ گزرتا گیا۔ میں نے اپنے آپ کو ابتدائی عمر کے مذہبی تاثرات سے آزاد کر کے بذات خود دلائل عقلیہ سے کام لینا شروع کر دیا اور بالآخر میں نے دیکھا کہ میں اس مذہب کے بنیادی اصولوں پر حرج و قدح کر رہا ہوں۔ جس کو میں نے اس وقت تک صرف زبان سے ہی قبول کیا تھا تاہم جہاں تک ان ذرائع کا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر عائد ہوئے ہیں۔ میں نے ان کی بجا آوری حیرت سے دیکھی۔

قریباً اسی زمانہ میں جنگ شروع ہو گئی۔ اور مجھے اپنی جہنم کے ساتھ خدیت ملک کے لئے مشرق قریب کی طرف جانا پڑا۔ اس چار سالہ مدت میں خوش قسمتی سے قاہرہ میں بہت سے دوست بن گئے اور ان نیک بخت

لوگوں کے ساتھ مجھے تبادلہ خیالات کا موقع ملا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن کریم کے بعض مقامات کو مجھ پر واضح کیا اور ان کو شکر میرے دل میں اس مذہب کا بیج بویا گیا جس کو چند سال بعد قبول کرنا میرے عقائد میں لکھا تھا۔

سچی کاروبار اختیار کرنے کے بعد میں نے مذہبیات کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں مسیحی تعلیمات کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتا نتیجتاً میں نے گرجا جانا بند کر دیا۔ کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ ایسی صورت میں کوئی راہ اختیار کرنا منافقت ہوگی۔

کچھ عرصہ بعد وہ پرانی بحثیں مجھے یاد آگئیں۔ جو اپنے قدیم مصری دوستوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اس لئے اس امید پر کہ شاید مجھے مزید روشنی حاصل ہو جائے۔ میں نے اپنے فارغ وقت کے معتد بہ حصہ میں ایک انگریزی ترجمہ قرآن کا مطالعہ پورے غور سے شروع کر دیا۔ اور جب میں نے حضرت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بار بار مطالعہ کیا تو میں اس بات کو محسوس کئے بغیر نہ رہ سکا کہ اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے جس کا میں اتنی مدت سے تلاشی تھا۔ اس عقائد نے میری زندگی کو بالکل بدل دیا اور ایسا معلوم ہوا کہ تیرہویں تاریخ اور غیر واضح پگ و ٹڈیوں پر جن کا کہیں اختتام نہیں ملا۔ ٹھکانے مارنے کے بعد آخر کار میں ایک روشن اور نورانی شاہراہ پر آن پڑا ہوں۔

زیادہ عرصہ نہ گزرنا تھا کہ میں نے مسجد و کنگ کی زیارت کی۔ اور مولوی عبد الحمید صاحب سے مشورہ کیا جن کے ہمدردانہ مشورہ اور امداد کا میں دل سے معترف ہوں۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ میں اسلام کی پاک اور مقدس برادری میں شامل ہوتا ہوں فاعلم اللہ علی ذلک۔ یہ عرض کرنا غیر ضروری ہے کہ اس کے بعد میں اپنے آپ کو ایک بالکل ایسی ہستی خیال کرنے لگا ہوں جو اپنی زندگی کا مقصد رکھتی ہے۔ میں اس جگہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر بحث کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ انہماں کام کو زیادہ قابل انسان کے لئے چھوڑنے پر کفایت کر دینا۔ لیکن ایک بات ایسی ہے جس کا اظہار میرے نزدیک ضروری ہے۔ کیونکہ میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے عیسائیت اور اسلام دونوں کے مذہبی احکام و فراموش کی پورے طور پر متابعت کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ایک عام مسیحی اتوار کے دن کلیسا کی عبادت میں شامل

ہوتا ہے۔ جو بلا امتیاز، ہر جگہ پادری کے توسط سے ادا ہوتی ہے اور جس میں عیناً عموماً غیر عملی حصہ لیتے ہیں اور خود کوئی حرکت نہیں کرتے تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ آئندہ اتوار تک ان کا فرض ادا ہو گیا۔ اس کے برخلاف ایک مسلمان ہر روز باقاعدہ مسجد کے اندر انفرادی طور پر یا گھر کی تنہائی میں نماز ادا کرتا ہے۔ اور جمعہ کے دن بھی جب نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے یہ انفرادیت قائم رہتی ہے۔ اور ہر مسلمان کسی درمیانی توسط کے بغیر خود بخود نماز ادا کرتا ہے۔

میں یہ کہتا ضروری سمجھتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ اس ملک اور دیگر مغربی ممالک کے لوگوں کو اگر اس امر کی طرف توجہ کیا جائے کہ وہ اسلام کے حقیقی معنوں کو سمجھیں اور اس بات کو جان لیں کہ اس مذہب کا مقصد حقیقی کیا ہے تو اسلام کے متبعین کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جائیگی۔ بد قسمتی سے فری تھنکرز و آزاد خیالوں، اور دوسرے لوگوں میں بدظنیاں اور غلط فہمیاں بہت پھیلی ہوئی ہیں وہ ابھی تک اپنے پرانے عقیدہ پر جمے ہوئے ہیں محض اس وجہ سے کہ ایک ایسے مذہب کو جس کے اصولوں سے وہ اختلاف بھی رکھتے ہیں ترک کر کے اسلام کو اختیار کرنے کی اخلاقی جرأت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی عام طور پر پھیلا ہوا ہے کہ اسلام مشرقی اقوام ہی کے موزوں حال ہے اور مغربی ممالک کی روزانہ زندگی سے موافقت نہیں رکھتا۔ فی الحقیقت یہ ایک غلط خیال ہے تاہم اکثریت کے دلوں میں بڑا بکرا چکا ہے۔ عملاً اس کی تردید کی ضرورت ہے جس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ناواقف لوگوں کے فائدہ کے لئے یہ اشاعت کی جائے کہ میرے جیسے کئی لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں اور اس طرح اپنے ان بھائیوں کے لئے یقین و ایمان کا سامان پیدا کریں جو آئندہ ہمارے ساتھ شامل ہونے والے ہیں۔

اگر ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات طہیبات کی اشاعت موثر طور پر کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ان تعلیمات اور دیگر امور کی اشاعت اسلامک ریپورٹ کے علاوہ دیگر ذرائع سے بھی کی جائے۔

اسلئے اسے میرے بھائیوں اور بہنو! ہمیں اس خواب خرگوش سے بیدار ہونا چاہیے جس میں ہم اب تک مبتلا رہے ہیں۔ کھلے میدان میں نکل آؤ اور اسلام کی شعل لے کر دنیا بھر کے روشن ہمیر لوگوں تک جا پہنچو اور اپنی کوششوں کا یہ پہلا قدم اٹھانے کے لئے لندن سے زیادہ بہتر کونسی جگہ ہوگی جو مملکت برطانیہ کا صدر مقام ہے اور یہیں سے

جناب عبدالرزاق نسلیہ

اسلام مکمل ضابطہ حیات

ایک دن کیتھولک ہو چکی حیثیت سے مجھے کیتھولک مذہب کے مطالعہ کا بہت موقع ملا ہے میں اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیتھولک مذہب ہی سچا مذہب ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کے لازماً کئے سرے اس کے ناقابل فہم معتقدات اور ان لادنی ایمانیات نے جن کا ماننا ضروری قرار دیا گیا ہے مجھے خاموش بیٹھنے نہ دیا۔ میں تلاش و باقیات میں لگ گیا اور کئی سال تک نہایت خاموشی کے ساتھ اس کام میں مصروف رہا۔ میرے بہت سے کیتھولک دوست اور خود میرے خاندان کے افراد اس بات پر شاہد ہیں کہ مذہبی مطالعہ میرے فارع اوقات کا ایک اہم مشغلہ تھا۔ ہندو اور بدھ مذہب میں ایسی خامیاں مجھے نظر آئیں کہ ان کو چھوڑ کر ایک ہی امر جو میرے لئے باقی رہ گیا وہ اسلام کا مطالعہ تھا۔

ایک وقت تھا کہ میں اسلام کو فی الحقیقت نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ میرے دوستوں میں کوئی مسلمان نہ تھا کیونکہ اسلام میرے نزدیک پر نفرت تھا اور میں اس کے پیروں کو اپنا جلیس و ہمدم بنانا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ مجھے یہ وہم بھی نہ آسکتا تھا کہ حضرت خواجہ کمال الدین مرحوم کی کتابیں جو انہوں نے اسلام پر لکھی ہیں، مجھے ایک نیا انسان بنا دیں گی۔ اسلام کی دلائل و تعلیمات نے میری توجہ کو ہستہ ہستہ اپنی طرف فرک کر لیا اور میں بڑے جذب و انہماک کے ساتھ مطالعہ میں مصروف ہو گیا اور اسکے میدان سے اور غیر مخفی راستہ کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگ گیا۔ یہ بالکل صاف اور سادہ مذہب ہے اور باوجود اس کے اس میں گہرے مطالعہ کی چیزیں ہیں جن نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ جب اس پاک مذہب کو قبول کئے بغیر چارہ نہ ہوگا۔

قرآن کریم ... کے بعض حصص کو میں نے پڑھا اور مجھے جو حیرت کر دیا۔ کیم تک میرا خیال تھا کہ کوئی ایسی کتاب دنیا میں نہیں جو بائبل کا مقابلہ کر سکے لیکن میں نے دیکھا کہ میں اس بارہ میں سخت غلط تھی میں ہنوز قرآن کریم فی الحقیقت صد اقول سے معمور ہے اس کی تعلیمات عملی اور ناقابل فہم رسمیات اور رازہائے سرسبز سے پاک ہیں میں ہر روز امن اور محبت کے اس مذہب کی طرف کھینچا چلا گیا جو فی الحقیقت اسلام کا امتیاز خصوصی ہے۔

اخوت اسلامی بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں رہی اگر کوئی شخص اس تعلیم کا کہ اپنے ہمسایہ سے ایسی ہی محبت کرے جیسی تو اپنے آپ سے کرتا ہے۔ حقیقی اور عملی رنگ دیکھنا چاہے تو وہ صرف اسلامی برادری ہی میں نظر آسکتا ہے جہاں لوگوں کا وہ عظیم الشان اور سچا اتحاد نظر آتا ہے جس کو دنیا نے شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔

حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی برادری پر تقریر کرتے ہوئے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ تمام مسلمان ایک دیوار کی طرح ہیں۔ اس طرح سے وہ ایک دوسرے کی قوت کا موجب ہیں۔ میں نے دیکھا کہ تصوف اسلامی دو مسلمانوں کے مابین محبت کی ایک زنجیر ہے یہ وہ حقیقت ہے جس نے میرے دل پر نہایت گہرا اثر کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جس کے دل میں انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور نہیں اس طرح لانے کا خیال بھی پیدا ہوا ہو۔ دوسرے مذاہب کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب کسی خاص ملک و ملت کے لئے نہیں بلکہ یہ تمام نسل انسانی کے لئے ہے۔ اخوت اسلامی کے بارہ میں اس قدر مجھے کہنا ہے کہ جس چیز نے میرے دل کو اس پیار سے اور معقول مذہب کی قبولیت پر آمادہ اور مجبور کر دیا وہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے مابین فرق مراتب کا کوئی لحاظ نہیں۔ ایک باپ اور غلام خانہ خدا کے اندر ایک دوسرے کے دیش بدش کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو برا اور اناہ رنگ میں سلام کرتے ہیں۔ یعنی ہر مسلمان ایک دوسرے کو اسلام علیکم کہتا ہے اور وہ کھانا بھی ایک ہی دسترخوان پر ایک ہی رکابی میں مل کر کھاتے ہیں۔ طاقت، حیثیت، فاقہ پات اور رنگ وغیرہ کا اس عالمگیر اخوت کے سامنے کوئی لحاظ نہیں۔ یہ روح فی الحقیقت ہر قسم کے بُرے احساس کو چیل دیتی اور باہمی اہم تعاون کی فضا پیدا کرتی ہے۔ حقیقی محبت کے علاوہ ایک دوسرے کی امداد کا جذبہ اور بہت سی عمدہ باتیں ہیں جو اسلام میں پائی جاتی ہیں جو کیتھولک کلیسا میں مجھے کہیں نظر نہیں آئیں۔

عبادت الہی اور نمازوں میں مسلمانوں کے اندر کوئی بے فائدہ اور بے کار رسوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی عبادت اس طرح کی جائے کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو مگر تم اسے دیکھ نہ سکو تو ایسا تو ہو کہ گویا وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا اس عبادت کو قبول نہیں کرتا جس میں دل جسم کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ صبح و شام خدا کی عبادت کرو اور دن کو اپنے دیگر مشاغل میں گزارو۔

ہیں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان یا صحت و عبادت میں کوئی شخص اپنے آپ کو فریب نہیں دے سکتا۔ نہ وہ کوئی رقم پوری کرنے یا دوسرے کو دکھانے کے لئے عبادت کرتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ حکم ہے کہ نماز کی حالت میں اگرچہ ایک دشمن پیچھے سے ننگی تلوار لے کر تمہیں مارنے کے لئے آئے تو بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرو۔ کیونکہ یاد رکھو کہ تم اپنے پورے دل و دماغ، روح اور جسم کے ساتھ خدا کی عبادت کے لئے آئے ہو نہ کہ اپنی جان بچانے کے لئے۔

یہ وہ سخت ترین فوائد ہیں جن کی ایک مسلمان کو جب وہ نماز اور عبادت الہی میں مصروف ہو قبول کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز میرے اندر ایمان پیدا کرنے کا موجب ہوئی وہ یہ ہے کہ اسلام ناقابل عمل مذہب نہیں ہے۔ یہ ایک بہترین، عملی، معقول اور جدید خیالات کا... مذہب ہے۔ توحید الہی اور روحانیت کے اعتبار سے بھی یہ ایک بہترین مذہب ہے۔ معتقدات کے لحاظ سے عملی اور نصیب العین کے لحاظ سے جدید اور معقول ہونے کی وجہ سے یہی ایک مذہب ہے جو تمام نسل انسانی کے کام آسکتا ہے۔

حقیقی اور سچا مذہب صرف اسلام ہی ہے

میں دس کے ایک تاتاری گاؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ ماں میر والدین جو رومن کیتھولک مسلک کے قائل تھے، پولینڈ سے جلاوطنی کے بعد اقامت گزین ہو گئے تھے وہ ڈاکٹر بھی تھے میری ماں مسلمان تھی لیکن محض ایسے عیسائی ہو گئی تھی کہ قدیم دس میں عیسویوں کو غیر مسیحی عورت سے شادی کی اجازت نہیں تھی باوجود اس کے میری ماں نے کبھی گرجا جاتی تھی اور نہ عیسائیوں کی مذہبی مراسم میں حصہ لیتی تھی مجھے یاد ہے کہ وہ چپکے چپکے نماز پڑھا کرتی تھی۔ میں نے ایک اسلامی ماحول میں پرورش پائی اور بچپن میں ٹوڈن کی آواز کانوں میں پڑتی رہی۔ تاتاری لوگ ہمیشہ گھر پر ہوں یا کھیتوں میں نمازیں اذان کے ساتھ پڑھتے ہیں میں نے ان کی پاکیزہ متقیانہ اور شریفانہ زندگیوں کا ان رویوں کی زندگیوں سے خوب موازنہ کیا۔ جو جو شراب خوری اور تاپاکی کی زندگی بسر کرتے تھے۔

میرے والدین بچپن ہی میں فوت ہو گئے اور میری پرورش ان لوگوں میں ہوئی جو نہ کسی مضابطہ اخلاق کے پابند تھے، نہ مذہب کے اور اس لئے اوائل عمر میں مجھے مذہب یا روحانیت کا کبھی خیال ہی نہیں آیا بہر حال کچھ عرصہ تک انگلستان اور امریکہ میں رہنے کے بعد اور زمانہ کے نشیب و فراز دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ انسان کو اپنی زندگی کسی کسی اصول کے ماتحت بسر کرنی چاہیے اور کسی نہ کسی مضابطہ اخلاق کی پیروی لازمی ہے۔ چنانچہ میں نے مسیحیت کا مطالعہ کیا۔ لیکن رسوم و تقوید سے طرح نظر کر کے بھی مسیحیت مجھے تسلی نہ دے سکی۔ کیونکہ میں اسکے بنیادی اصولوں کو تسلیم نہیں کر سکتی تھی، ہر مسئلہ الوبیت سے، مشد گناہ موروثی اور کفارہ۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حقیقی خدا ایسے عظیم و فضل شخصیت کے مقابلہ میں ایسا ہے اور نہ اس بات پر یقین کر سکتی تھی کہ کسی پاک یا ناسان کی موت ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتی ہے خصوصاً

اندریں حالات کہ میں دنیا میں لوگوں کو بدستور گناہ کا ارتکاب کرتے دیکھتی تھی۔
 پس میری فطرتی طور پر اسلام کی طرف متوجہ ہوئی۔ فطرتی میں نے اس لئے کہا کہ مجھے اسلام سے ہمیشہ سے
 ایک لگاؤ تھا کیونکہ میں نے اس کے ماحول میں پرورش پائی تھی۔ اسلام کا مطالعہ کر کے ایسا معلوم ہوا جیسا کہ مجھ کو لاپتے
 گھر واپس آجائے جوں جوں میں قرآن اور دیگر مصنفین خصوصاً خواجہ کمال الدین صاحب رحم کی تصانیف کا مطالعہ کیا۔
 مجھے معلوم ہوا کہ حقیقی اور سچا مذہب صرف اسلام ہی ہے۔ یہ مذہب ان ارباب غور و فکر کیلئے ہے جو حقائق زندگی
 کی طرف آنکھ بند کرنا نہیں چاہتے اور سائنس کی ایجادات کا ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے اسلامی تعلیمات کا مسیح کی تعلیمات
 سے موازنہ کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ اگرچہ مسیح کی تعلیم بھی مفید ہے لیکن یا تو وہ انسان کو تارک الہ دنیا بنا دے گی یا پھر ایک
 انسان کو دنیاوی زندگی سے مطابقت پیدا کرنے کے لئے بہت کچھ حیلہ جوئی اور مشکلات سے دوچار کرنے کی
 درحقیقت مسیحیت اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ اسلام خدا کی مرضی کی اتباع اور کمال حاصل کرنے کی کوشش کا نام ہے
 اسلام میں نہ حکمتہ عقائد ہیں نہ رسوم و اداہام پائے جاتے ہیں۔ بلکہ نجات اخروی حاصل کرنے کیلئے ایک مکمل دستور العمل
 موجود ہے جس کی بدولت انسان اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اور نہ عقل کا انکار کرنا پڑتا ہے نہ
 جذبات فطری کے خلاف کوئی بات کرنی پڑتی ہے اور میں یقین نہیں کر سکتی کہ آج کوئی عقلمند آدمی ان حقائق سے چشم
 پوشی کر سکتا ہو۔ اسلام کے معترفین اسلامی ممالک کے مسلمانوں کی نام تہادیری زندگی پر اعتراضات کرتے ہیں۔
 حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی برائیاں دراصل ان کی مادی اور سیاسی صورت حال کی وجہ سے رونما ہوئی ہیں۔
 مجھے افسوس ہے کہ میں نے بہت پہلے اسلام کا مطالعہ کیوں نہیں کیا۔ کیونکہ اندر میں صورت نہ صرف میری زندگی پاکیزہ
 ہو جاتی بلکہ میں اپنی ملت کے لئے مفید ثابت ہو سکتی تھی۔



”صرف اسلام ہی الہامی اور حقیقی مذہب ہے“
 عبداللہ انور کوثر

اسلام میں مساوات

۱۹۳۷ء کی گرمیوں میں مجھے مسلمان ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میرے منیجر صاحب مجھے مسجد شریف جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے اس لئے "التذکرہ" کے دو ماہ بعد میری ملازمت چھوٹ گئی۔ والدہ صاحبہ اور دیگر عزیزو احباب محسوس کرتے تھے کہ اسلام قبول کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ دو ماہ بعد میری بیوی مجھ سے الگ ہو گئی۔ بچے یا رومدگار اور تنہا رہنا جانا میرے لئے آسان بات نہیں تھی۔ ایسی بے بسی اور افسردگی کے عالم میں جو حقیقی امر میری تسلی و تشفی اور طمانیت قلب کا باعث ہوا وہ یہ کہ نئے دعوے اور عمل قادر مطلق ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ خالق و مالک اور بے انتہا قدر قوی اور لا محدود طاقتوں کا حامل ہے۔ الحاج خواجہ کمال الدین صاحب اور مولانا محمد علی صاحب کی کتابیں عام طور پر میری دلجوئی اور تالیف قلوب کا باعث ہوئیں اور میرے استقلال و استحکام کا باعث بنی رہیں۔ رسول عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق میں اس ایمان پر قائم رہا کہ کائنات میں صرف ایک ہی ارفع و اعلیٰ ہستی ہے جو برحق ہے اور انہی اور ابدی ہے۔

کوئی شخص میری تکالیف کا اندازہ تو کرے۔ کہ مجھے گھر بار چھوڑنا پڑا۔ اپنے بیگانے ہو گئے۔ عزیزوں نے منہ موڑ لیا۔ احباب کنارہ کش ہو گئے۔ مصیبتوں کا پہاڑ تھا جو مجھ پر ڈیٹ پڑا۔ میری زبانوں حالی دیدنی تھی۔ میری حالت ایسے غریب الوطن کی تھی جو انجانی لڑائیوں میں پھنس رہا ہو۔ اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو۔ اس بے کسی اور بے بسی کے وقت میری تسکین روح کی باعث یہ لازوال حقیقت تھی کہ اسلام میں اعلیٰ و ادنیٰ۔ چھوٹے بڑے سب یکساں اور برابر ہیں۔ اس دن سے میں اس دین متین کا بڑی باتا عدگی سے مطالعہ اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتا رہا ہوں آج میں اس برحق دین

کا پیر اور قبیح کہلا کر زحمت و غم ہوں اور فخر محسوس کرتا ہوں اور اپنی عادات و اطوار کے لحاظ سے بفضلہ تعالیٰ ایک بہتر انسان
 ایک معزز شہری اور ایک سچا مسلمان ہوں۔ میرے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کی بہت قدر ہے۔ میری دعا
 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو جہالت کی تاریکیوں میں اب تک محسوس رہے ہیں ہدایت کا نور دکھائے۔



امیر آباہی مذہب مسیحیت تھا اور ایک مسیحی کی حیثیت میں
 مجھے ہمیشہ ہی بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم اور ان کے حامیوں نے اسلام کو زور و شمشیر پھیلایا
 ہے۔ مجھے عیسائی مذہب کے تحت یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام نے
 جب تلوار کے ذریعہ مذہب کو پھیلایا تو اس نے بہت سے لوگوں کو
 غلام بنا لیا اور اس طرح مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسلام غلامی کا
 محرک ہے لیکن جب میں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو مجھے
 معلوم ہوا کہ اسلام کے خلاف یہ غلط پروپیگنڈا تھا۔ دراصل
 اسلام اخلاق کا حامل ہے۔ اس نے اخلاق و کردار کی
 بلندی سے اسلام کو رائج کیا ہے۔ اور اسلام نے غلامی
 کو ختم کیا ہے۔ اسلامی مساوات میں غلامی اور آقاہی میں
 کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اسلام کی انہی خوبیوں کے
 پیش نظر میں نے اسلام قبول کیا۔“
 (ٹی۔یو۔ ڈیٹیل۔ بلجیم)

اسلام میں رواداری

مجھ ایسے ایک مغربی دل و دماغ رکھنے والے کے لئے اسلام کی سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز اس کی سادگی ہے۔ اور بھی دو ایک مذہب ایسے ہیں جو ایسے ہی آسان اور سیدھے سادے ہیں۔ لیکن انہیں ان میں اعلیٰ جذبات کی قوت اور وہ روحانی اور اخلاقی بندی نہیں پائی جاتی جو اسلام پیش کرتا ہے۔ اسلام کی حد درجہ سادگی جذباتی لوگوں یا ہسٹریکل عورتوں کو اپیل نہیں کر سکتی۔ ایسے لوگوں کے لئے دوسرے مذاہب میں کافی گنجائش ہے۔ وہ لوگ صرف انہی جگہوں پر اور ایسے طریقوں سے ہی تسلی حاصل کر سکتے ہیں جہاں شاندار رنگ و روغن آنکھوں کی مسرت کا موجب ہو۔ اچھے اچھے بھمنوں اور گیتوں سے کان لطف اندوز ہوں۔ اور کھیلوں سے لے کر ہونٹے منبروں اور دلچسپ مناظر سے دل ہل جائیں۔ کیونکہ ان چیزوں میں دماغ کو اپیل کرنے والی کوئی چیز نہیں۔

اس کے برعکس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کس قدر بلند ہے کہ علم حاصل کرو خواہ میں ہی میں تمہیں ملے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس امر سے واقف تھے کہ گناہ انسان کی عقل و خرد کو ضائع کر دیتا ہے اسلام اپنی رواداری کی وجہ سے بھی دلوں کو اپیل کرتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ خدا کے تمام نبیوں پر ایمان لادو اور ان کی عزت کرو۔ یسوع مسیح انہی نبیوں میں شامل ہیں۔ ایک جیب بات یہ ہے کہ یہ مسیحیت کی تازہ برداری ہی تھی جس نے اسلام کی طرف پہلے پہل مجھے متوجہ کیا۔ جب میں لڑکا ہی تھا ایک مشنری کے لیکچر میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور بعض مقررین کا میرے دل پر بہت اثر ہوا جو خود بخود مسلمانوں میں

وہ چکے تھے۔ جب اس کے چند سال بعد مجھے ایک اسلامی مبلغ کا لیکچر سننے کا اتفاق ہوا تو اس کے اس حیرت انگیز تحمل اور بڑبڑاہی کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا جو ان لوگوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے مقابلہ میں اس اختیار کی کوئی تھی جو اس نام نہاد کافر کی سرزنش کے لئے اپنے جلسے کو چھوڑ کر آجیح ہوئے تھے۔ اس کے الفاظ نے مجھ پر بہت اثر کیا اور میرے پکے مسیحی معتقدات کو بالکل متزلزل کر دیا۔ کئی موقعوں پر عیسائی پادریوں سے بعض سوالات کرنے پر یہ جواب ملا "میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا مگر تمہیں اس پر ضرور ایمان لاتا چاہیئے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے۔" اسلام اس سے کس قدر مختلف ہے۔ اسلام میں کوئی ایسا سوال نہیں جس کا جواب نہ دیا جاسکتا ہو۔ گوٹھے نے قرآن پڑھنے کے بعد کہا تھا :-

"اگر اسلام ہی ہے تو ہم میں سے ہر سوچ بچار رکھنے والا

آدمی فی الحقیقت مسلمان ہے۔"

کلیسا موجودہ زمانہ کے جن سوالات کو حل کرنے کے ناقابل ہے۔ صرف اسلام ہی ان کا حل پیش کرتا ہے۔



"جب جیباٹیت کے بہت سے عقائد و مسائل سے میرا اطمینان قلب نہ ہوا تو میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اس میں مجھے اسلام ایک منبرک۔ پاکیزہ اور بتی نوح انسان کے لئے نافع۔ کامل و جامع مذہب نظر آیا۔ اور یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہو گئی۔ کہ اسلام میں نجات کسی ابن اللہ کی قربانی کی منت کش نہیں بلکہ ہر ایک متنفس کا نیک و بد فعل اسکے اپنے ہاتھ میں ہے اور ہر ایک شخص کی نجات اس کے اپنے ہی افعال سے وابستہ ہے۔"

— جیو۔ ٹی۔ ٹائیلز

جے۔ ڈبلیو۔ بی۔ فارمر

اسلام کی نمایاں خصوصیت

انہی دنوں میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں اسلام کی طرف کیوں مائل ہوا ہوں۔ میں نے انہیں تین وجوہات بتائی تھیں :-

اول :- اسلام ہی ایک مذہب ہے جو رازِ غائب سے سرایت، بھول بھلیوں اور توہماتِ غیر سے مٹکی آزاد ہے۔ اس کی تعلیمات بڑی سیدھی سادی اور آسان ہیں۔ اس میں بعید از عقل اور غیر معقول بات کوئی نہیں پائی جاتی اور وہی باریکیوں اور پیچیدگیوں سے بالکل میرا ہے۔

دوئم :- اسلام حقائق اور صداقتوں سے تعلق رکھتا ہے، اور قدرت کے بنیادی قوانین پر مشین پورا اترتا تھا۔ اس کے نزدیک سائنس اور مذہب میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ اسے اختلاف ہے کہ مذہب جو تقویٰ، ہمارت اور کامران زندگی کی سائنس ہے۔ سب سائنسوں سے بڑا ہے۔

سوم :- انسان کی دنیاوی عقل و حرکت کے تمام شعبوں کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے۔ مسئلہ خواہ معاشرتی ہو یا مدنی، ہمسکری ہو یا اقتصادی، ان سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمد سے لحد تک جو کچھ بھی انسان نے کرتا ہے اس کو اعتدال کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ دنیاوی تقاضوں پر بحث کرتا ہے۔ اور دنیا پہان کے انسانوں کے لئے عالمگیر مذہب ہے۔



”اسلام کی معقولیت اور جمہوریت سے میں بہت ہی متاثر ہوا ہوں“ — ٹمرارنٹ

پادری سے مولوی

میرے والد کٹر کیتھولک تھے۔ وہ مجھے پادری بنانا چاہتے تھے۔ اس لئے انہوں نے میری تربیت شروع ہی سے پکے کیتھولک کی حیثیت سے کی تھی۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ مجھے مشرق بعید کے ملک جہاد میں لے گئے تاکہ پچھم نو دہائی جہادوں کو مسلمانوں کو کس جہاد میں لے کر لے جائیں اور کس جہاد میں لے کر لے جائیں۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ مسلمانوں کے خلاف تو ہمارے مذہبی رہبروں نے ہمارے کان بھر رکھے تھے۔ وہ ان کو متحد، مشرک اور کافر سمجھتے تھے۔ انہوں نے غلط بیانی اور دنیا دازانہ رویہ سے کام لے کر ہمارے سامنے اسلام کو نفرت انگیز اور نفرت آفرین مذہب کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ مگر یہاں آکر کچھ اور ہی رنگ دیکھا معلوم ہوا کہ ہمارے مذہبی ٹھیکیداروں نے جو ہمیں پٹی پڑھائی تھی وہ حقیقتوں کے سراسر خلاف تھی۔ قرآن کریم کے مطالعہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ جس مذہب کا داعی ہے وہی میرا اپنا مذہب ہے میں نے یہ مذہب قبول کر لیا۔ اور اپنی خدمات اس کے لئے وقف کر دیں۔



دین میں کوئی جبر نہیں۔ اسلام ازلی۔ کامل اور برحق دین ہے۔
(ایم کے۔ کولڈنگلستان)

عیسائیت سے اسلام کی طرف

۱۹۵۲ء کی جنوری میں میں نے مختلف وجوہ کی بنا پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں دوسری جنگ عظیم کے دوران میں سن تیز کو پنچ پڑکا تھا۔ ۱۹۴۵ء کے بعد مجھے ذہنی پریشانی لاحق ہو گئی اس پریشانی میں موجودہ یورپ کے کثیر نوجوان بھی مبتلا ہیں۔ میں رومن کیتھولک چرچ کا رکن تھا مگر اپنے آپ کو ایک سچا مسیحی کہنے کی کبھی جرأت نہیں کی تھی۔ مجھ میں ایک بے امنگی پیدا ہو گئی تھی۔ جو میری سوچ و بچار اور میرے راسخ عقائد کے مابین جن پر بحیثیت عیسائی ہر کسی کو ایمان لانا پڑتا ہے مستقل تضاد و تناقض کا نتیجہ تھی۔

ہم گہرے دلچسپیوں اور حقیقی مذاہب کی مسلسل تلاش جستجو کے تحت میں نے اسلام کا مطالعہ کیا قرآن حکیم کا ارشاد ہے "کوئی قوم ایسی نہیں گذری کہ جس میں ہم نے اپنا تذکرہ بھیجا ہو"۔ اس آیت کریمہ نے مجھ پر گہرا اثر چھوڑا۔ دیگر تمام مذاہب عالم پر اسلام کی عالمگیری کا یہ ایک ثبوت ہے۔

اس قسم کی غیر متشدد تعلیم جو ہمیں خیر اقوام کے پیغمبروں کی تعلیمات کی منزلت و قدر کرنے کی تلقین کرتی ہو، کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چلن ہی جانا پڑے۔ مجھے اسلام کی عالمگیر وسعت کی سمجھ آ گئی ہے یہ وسعت عیسائی گروہوں کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ اسلام کے دقیق اور بلیغ مطالعہ سے یہ مجھ پر واضح ہو گیا ہے کہ اسلام — مذہبی، اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی اور قانونی ضابطوں کا مرقع ہے۔

محمد الگزنڈ روسل ویب یو ایس اے

پہراغ زندگی

آپ لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا ہے۔ کہ میں نے زندگی میں اسلام کو اپنے رہبر کی حیثیت سے کیوں اپنایا، میں بلا توقف اور سچ یہ جواب دیتا ہوں کہ اس مذہب کو قبول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے طویل اور دقیق مطالعہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام بہترین اور واحد نظام ہے جو انسانیت کی روحانی احتیاجات کیلئے اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مذہبی نظام روحانیت کے سلوک میں مؤثر و معاون نہیں ہو سکتا۔

جب میں بیس سال کا ہوا اور عملاً تود کار اور خود مختار ہو گیا تو میں پسر چارج کی قید و بند اور بے بسی سے اس قدر اکتا گیا تھا کہ میں اس سے دور ہو گیا اور پھر کبھی اس کی طرف رجوع نہیں کیا۔ خوش قسمتی سے میں نے تحقیق و تفتیش کا جذبہ یہ پایا تھا میں ہر شے کے لئے دلیل چاہتا تھا میں نے دیکھا کہ عامی اور پادری اس مذہب کی معقول توضیح نہیں کر سکے تھے بلکہ وہ مجھے بتاتے کہ اس قسم کی چیزیں سربستہ راز ہیں اور ہم وادراک سے بالاتر ہیں تقریباً بارہ سال پہلے مجھے مشرقی مذاہب کی تعلیم و مطالعہ کا شوق چرایا۔ میری لاگ، کینٹ، میگل، چنڈے، ہگزلے، اور دوسرے بہت سے عالم مصنفین سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ روح اور مادہ کے متعلق حکیمانہ بحث و تمحیص کی نگر کوئی بھی نہ بتلا سکا کہ روح کیا ہے۔ کہاں سے آئی ہے۔ مرنے کے بعد روح کا شکر کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے آپ پر یہ بات واضح کرنے کے لئے بالوصاحت لکھ دیا ہے کہ میرا قبول اسلام گمراہ جذبات، اندھی خوش اعتقادی یا قوری میجان کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ دیا تدراری، تلوّص، مسلسل بے لاگ مطالعہ، تحقیق و تفتیش اور حقیقی

کی زبردست خواہش کا نتیجہ ہے۔

اسلام کے حقیقی مذہب کا پتہ خدا الہی کی فرمائیداری ہے اور اس کا بنیادی رکن تہا ہے
یہ مذہب عالمگیر اخوت و مساوات۔ ہم گیر موافقت و یگانگت اور وسیع المشربہ اور کریم النفسی کی تعلیم دیتا
ہے۔ صفائی قلب، پاک عمل، پاکیزگی لسان اور جہاد تہم پر زور دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو سادہ ترین
اور عملی یا اخلاقی لحاظ سے نہایت سہل و سادہ کریم و نوالی راہ حیات سے واقفیت ہو تو وہ صرف اور صرف
اسلام ہی ہے۔



”یہ معاملہ طلب ہے کہ رومن کیتھولک و پروٹسٹنٹ مذہب کے
اکابر علماء اور ان کی دیگر جماعتیں کیوں اسلام کے متعلق غلط
بیانیاں پھیلا کر اسے مجنونہ توہمات قرار دے رہی ہیں
جبکہ وہ سب کے سب خود بھی قلدہ بندیوں۔ رواجات
رسمیات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں جن سے بیسیوں
صدی سے کہیں بڑھکر۔ گذشتہ تین ہزار سال کے صہنہ پرست
مصر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ میں خوش ہوں کہ مجھے ان باطلیہ
سے بد جہا بہتر و معقول چیز مل گئی ہے“
— مس حلیمہ مارگوریٹا لی

قرآن کی فطری تعلیم

گذشتہ سال میں ایک پبلک مارکیٹ میں ایک کتابوں کی دکان پر دو ایک افسانوں کی کتابیں خریدنے کے لئے ٹھہر گئی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ دو نوجوان ایک کتاب پر ہنستے اور محول اڑا رہے تھے۔ آپ میری حیرانی اور استعجاب کا خیال کیجئے جو مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے ان میں سے ایک کو قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے سنا۔ میں کوئی مذہبی عورت نہیں مگر میرے ابا جان مشرقی اڑہ چکے ہیں اور انکے ایک دوست الما زہر میں تھے۔ بہر حال میرے باپ کے پاس ایک قرآن اور ایک تسبیح تھی اور وہ اس کی عزت کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا کہ مسلمان ان چیزوں کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ اور جب اس کو چھونے بھی لگیں تو پہلے وضو کرتے اور اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں۔ اس لئے اپنے باپ کی یاد تازہ کرنے کے لئے میں نے ان سے التجا کی کہ قرآن کا نسخہ مجھے دے دیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ میں دکاندار کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ مجھے وہ کتاب دیدے۔ اس نے فوراً قیمت دگنی کر دی۔ اس سے وہ نوجوان بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے اور میں دو شنگ دے کر قرآن کی مالک بن گئی۔ صدقائی کی بات یہ ہے کہ مجھے اس کی کوئی احتیاج نہ تھی براڈ فورڈ میں اسلام کے کوئی تبعین مجھے نظر نہیں آئے۔ ورنہ میں اس وقت انہیں یہ کتاب دے دیتی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں دل کی بیماری سے علیل ہو گئی اور مجھے اپنا کام ترک کرنا پڑا اس کے بعد بے خوابی کا مرض لاحق ہو گیا۔ جس کی وجہ سے رات کے طویل گھنٹوں کو گزارنے کے لئے میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلی مرتبہ جب میں نے پڑھا تو مجھے مذہبی روشنی میں اس سے کچھ زیادہ

دُچسپی پیدا نہیں ہوئی۔ میرے اس بیان سے لگن ہے کہ آپ کو تکلیف ہو لیکن خود اپنے اور آپ کے سامنے سچائی پر لپٹنے کے لئے میں یہ مناسب سمجھتی ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو واقعات کو کھٹیک ٹھیک بیان کر دوں :-

تاریخی واقعات جو اس میں بیان کئے گئے ہیں دُچسپ ہیں۔ اور بائبل کی وہ کہانیاں بھی جو میں نے بچپن میں سنی تھیں پہلے پہل میری دُچسپی کا موجب ہوئیں۔ کفار کی قیمت کے متعلق جو تحدیدی بیانات ہیں، ان سے میں محفوظ ہوئی۔ نبی کریمؐ نے عورت کو جو دوسرے درجہ پر رکھا ہے وہ مجھے بہت پسند آیا۔ طلاق کی آسانی میری نفرت کا موجب تھی۔ لیکن بعد ازاں میں نے دیکھا اور مجھے معلوم ہوا کہ شرعی طور پر ہم مغربی عورتوں سے بہت مختلف ہیں۔ ہم اپنے گھروں اور بچوں کے علاوہ تمام باتوں میں جو دنیا میں واقع ہوئی ہیں بہت دُچسپی لیتی ہیں۔

بعد ازاں میں نے بالاستیاب اسکا مطالعہ کیا۔ اور ہر ایک لفظ میں دُچسپی یعنی تشریح کی بہانہ تک کہ میں نے اس کتاب اور اس کی تعلیمات کی صداقت کو وہیں دیکھ لیا۔ جہاں ہم عیسائی اس کے سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم سب خدا کے بچے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ ایک مذہبی اصطلاح ہے جس کے یہ معنی نہیں کہ خدا ہمارا حقیقی باپ ہے۔ یا تصور میں ایسا موجود ہے۔ لیکن چونکہ اس نے دنیا و بائبا کو پیدا کیا ہے۔ اس لئے وہ ہم سب کا باپ ہے۔ جب اس نے سورج کو دنیا میں بھیجا تو انہوں نے یہ مذہبی اصطلاح استعمال کی "میرا باپ جو آسمان میں ہے" اب یہ اس دنیا میں عیسائیوں کے لئے مستقل غلطی کا موجب ہو گئی ہے۔ اور رومن کیتھولک تو اسے خدا کا بیٹا سمجھ کر پوجتے ہیں۔ پرڈسٹنٹ اگرچہ کسی قدر نرم ہیں لیکن فی الحقیقت کام وہی کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا میں مذہبی عورت نہ تھی۔ کسی خاص فرقہ یا سچیت کی شاخ یا کسی اور مذہب میں شامل ہونے کی تکلیف اپنے آپ کو کبھی نہیں دی۔ میں کس قدر اپنے دل کو اس بات پر شکریہ سے بھر پاتی ہوں کہ جس مذہب پر میرا ایمان ہے وہ ایک اسلام ہی ہے ایک ہی دعا، جو میں جانتی ہوں وہ صبح کے وقت کی دعا ہے یعنی قرآن کریم کی پہلی سورت۔ میں جانتی ہوں

کہ کل پانچ نمازیں ہیں۔

قرآن کریم کے پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ نماز پہلے مجھے وضو کرنا چاہیے۔ میں اب بھی کرتی ہوں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مجھے اپنی حیثیت کے مطابق خیرات کرنی چاہیے۔ میں ہمیشہ کرتی ہوں میں نے کبھی خنزیر کا گوشت نہ لیا نہ چھو اور نہ کھایا ہے۔ اس لئے نہیں کہ یہاں کھایا نہیں جاتا۔ وہ تو ہر روز انگلستان میں بکتا ہے بلکہ اس لئے کہ میرے ابا جان نے بچپن ہی میں مجھے بتایا کہ وہ ناپاک ہوتا ہے انہوں نے مجھے سکھایا کہ مسخ نے آدمیوں میں سے جن تکالے اور وہ ٹوروں کے گلے میں داخل ہو گئے۔ کسی خارجی ذریعہ سے کوئی ایسی امداد مجھے نہیں ملی جس سے ایک سچے ایماندار کی طرز زندگی مجھے معلوم ہو جاتی۔ کیونکہ اس شہر میں کوئی ایسا آدمی مجھے معلوم نہیں جو اس سچے مذہب کو ماننا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں لکھ رہی ہوں میں ایک فریادی کی حیثیت سے آئی ہوں۔ ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جو سچائی اور روشنی کی تلاش میں ہو میں جانتی ہوں کہ اسلام کے تھنڈے کے پیچھے آنے اور اس کے ساتھ تحفظ مذہب، توحید الہی اور ایک ہی خداوند کی عظمت و جلال کی خاطر لڑنے سے پہلے بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جن کا جانا اور ان پر عمل پیرا ہونا میرے لئے ضروری ہے۔

مجھے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات از پر یاد ہیں۔ کیونکہ میں اپنے مرحوم والد کو بار بار دہراتے ہوئے انہیں سن چکی ہوں۔ ۵۹ ویں صفت یہ ہے اسے زندگی بخشنے والے۔ اسے موت دینے والے یا سحی، یا قیوم، اے سرچشمہ معلومات، اے وہ جو تمام اعزازات کے لائق ہے اور اسے وہ جو ایک ہی ہے۔ "میں اپنے ابا کے پاس تھی جب وہ مرد ہوا تھا۔ اس نے اپنی تسبیح کو توڑ دیا اور کہا اللہ اللہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کوئی طاقت اور قوت خدا کے سوا نہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۵ خدا ہی کے ہم ہیں اور خدا کی طرف ہی جاؤں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ضرور اپنے دل میں پڑھ رہے ہوں گے۔ وہ آخری دعا سے پہلے نہایت سکون سے لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے ان کو پھر ٹاڈیا اور وہ فوت ہو گئے۔ میں نے ان کا قرآن اور تسبیح ان ساری چیزیں

کیونکہ ان سے انہیں بہت محبت تھی اس کا اہا سال تک مجھے افسوس اور رنج رہا۔
 میرا خیال تھا کہ میرے باپ نے ایک غیر معروف مشرقی مذہب پر نوازا کے ساتھ عمل کرنے
 اور اس پر ایمان رکھنے کی وجہ سے بہشت میں داخل ہونے کے حق کو زائل کر لیا ہے۔ سکول اور کلیسا میں مجھے
 یہی تعلیم دی گئی تھی کہ صرف مسیحیت ہی ایک سچا مذہب ہے۔ تمام دوسرے لوگ ملحد اور کافر ہیں۔ جب
 میں نے قرآن کو پڑھا تو یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ میرا باپ ہونا ک عذابوں سے بچ گیا ہے۔ اور
 کہ ہم دونوں روز قیامت ایک دوسرے کو ملیں گے۔



”اسلام خالق و مخلوق کے درمیان رشتہ من
 اتحاد قائم کرتا ہے۔ اسلام میں باقی
 احکام کی کامل انقیاد ہے۔ اور ان رہنما
 احکام پر بندگانِ خدا سے تک سلوک
 کرنا ایک افضل ترین
 نصب العین ہے اسلام عقل۔ فہم۔ ادراک
 اور دل و دماغ کو اپیل کرتا ہے۔“
 (پارلس عبداللہ گارنر)

ولیم بشیر پیکوٹی جی۔ اے ڈکنٹب (ایل ڈی لندن)

قرآن سے عشق

حدیث نبوی کی زد سے ہر بچہ قرآن برداری کے قدرتی مذہب یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی اور مرید بنا لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں بھی بحیثیت مسلم پیدا ہوا ہوں۔ مجھے بڑی مدت پہلے اس حقیقت کی بصیرت حاصل ہو چکی تھی۔ سکول اور کالج کے دوران گزرتے ہوئے علموں کے نئے نئے تقاضوں اور متعلقہ لوازمات میں بہت بڑی طرح گھرا ہوا۔ اس دور میں ترقی پذیر دور کے سوا کوئی اہم اور روشن دور نہیں سمجھتا۔ عیسائی ماحول سے میں نے اچھی زندگی کا سبق لیا تھا۔ خدا کا تصور، عبادت کا تصور اور نیکی کا تصور میرے لئے پسندیدہ تھا۔ اگر میں کسی چیز کی پرستش کرتا تھا تو وہ شرافت نفس اور اولوالعزمی تھی۔

کیمبرج سے فارغ ہو کر مجھے نائب السلطنت یوگنڈا کی انتظامیہ میں ملازمت مل گئی۔ اس سلسلہ میں وسط افریقہ چلا گیا۔ یہاں کی زندگی انگلستان کی زندگی کے مقابلہ میں بڑی دلچسپ اور محرک تھی اس کا میں نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا تھا۔ حالات نے مجھے انسانوں کی سیاہ قام برداری میں لہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان لوگوں کا زندگی کے بارے میں پورے لطف اور سپدہا سادہ نظریہ تھا اس وجہ سے میں ان میں دل و جان سے گھل مل گیا تھا۔ مشرق سے مجھے ہمیشہ دلچسپی رہی۔ کیمبرج میں میں نے الف لیلی کی کتب پڑھیں، افریقہ کی تنہائی میں الف لیلی پڑھی۔ یوگنڈا میں نائب السلطنت کی پریشان سفری زندگی نے میری مشرق پسندی میں کوئی کمی نہ آئے دی۔

اسی طرح بڑی پرسکون زندگی گزر رہی تھی کہ پہلی جنگ عظیم پھٹ گئی۔ میں فوراً وطن واپس ہوا اور

بیمار ہو گیا صحت ہونے کے بعد میں نے فوج میں کمیشن کے لئے درخواست بھیجی مگر کمزوری صحت کی بنا پر مجھے موقع نہ مل سکا۔ کمیشن کا خیال چھوڑ کر جاں نثاری میں رسالدار بھرتی ہو گیا۔ فرانس میں مغربی سرحد پر ملازمت کے دوران ۱۹۱۷ء کی جنگ "سوئے" میں شریک ہوا۔ زخمی ہونے پر جنگی قیدی کی حیثیت سے بلجیم کی راہ برمنی ہینچر ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر میں نے مصیبت زدہ انسانوں کی بڑی ہولناکیاں دیکھی اور پریشانی کا نظارہ دیکھا۔ شدید عیش کی وبا سے زبردستی کثیر آبادی مر گئی تھی میری قاتون پر زوریت آگئی تھی۔ میرے دائیں بازو کا زخم جلد مندمل نہ ہو سکا میرا وجود برتنوں کے لئے بیکار محض تھا اس لئے مجھے علاج معائنے اور اپریشن کے لئے سوئٹزرلینڈ بھیجا گیا۔ اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس افراتفری اور نفسا نفسی کے زمانہ میں بھی قرآن کو نہیں بھولا تھا۔ قرآن کا تصور مجھے بڑا پیارا تھا۔ اس کے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوانے کی خاطر میں نے اپنے گھر برمنی میں خط لکھا۔ بعد ، معلوم ہوا کہ یہ نسخہ بھیجا گیا تھا مگر مجھے نہیں مل سکا۔

سوئٹزرلینڈ میں بازو اور ٹانگ کے اپریشن کے بعد مجھے افاقہ ہو گیا اور باہر ادا ہوا دھر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں نے سیوری کے فرانسیسی ترجمہ قرآن کا ایک نسخہ خریدا۔ آج یہ نسخہ میری عزیز ترین متاع میں سے ہے۔ اس کو پڑھ کر میں بڑا ہی محظوظ ہوا تھا۔ گویا ابدی سچائی کی ایک مبارک کرن تھی جس کے زور سے میرا دل موہا ہو گیا تھا۔ میرا دایاں ہاتھ ابھی تک بیکار تھا۔ اس لئے میں نے بائیں ہاتھ سے قرآن شریف لکھنے کی مشق کی۔

جب میں کہتا ہوں کہ داستان الف لیلیٰ میں سے سب سے زیادہ واضح اور عزیز ترین یادداشت میرے ذہن میں اس نوجوان کی ہے جسے مردوں کے شہر میں اس حالت میں تنہا زندہ پایا گیا تھا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بے خبر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اس سے میرے عشق قرآن کی مزید شہادت ملتی ہے۔

ان دنوں سوئٹزرلینڈ میں پانچ سو سال کا مسلمان تھا۔ ہنگامی صلح پر دستخط ہونے کے بعد میں ۱۹۱۷ء

میں لندن واپس چلا آیا دو یا تین سال کے بعد ۱۹۲۲ء میں لندن یونیورسٹی میں ادبیات کے کورس میں داخلہ لے لیا۔ میرے مضامین میں سے ایک مضمون عربی بھی تھا۔ جس کی کلاس کنگس کالج میں لگتی تھی ایک دن یوں ہوا میرے عربی کے پروفیسر مرحوم جناب بلشاه آف عراق نے عربی کے درس کے دوران قرآن کا ذکر پھیرا اور کہا "اُپ کا ایمان اس پر ہونا ہے جو" مگر آپ اس کو تہایت ہی دلچسپ اور مطالعہ کے لئے بڑی ہی عمدہ کتاب پائیں گے۔" میں نے کہا مگر حضور! میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔

اس بات سے میرے عربی کے استاد صاحب بڑے حیران ہوئے وہ میری طرف مائل ہو گئے۔ مختصر سی بات چیت کے بعد انہوں نے تو ٹنگم ہل گیٹ لندن پریس کالج میں اپنی طرف سے دعوت دی۔ میں ان کے ساتھ ہوا۔ وہاں پہنچ کر نوجوہ کمال الدین صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس دن کے بعد میں پریس کالج میں کثرت سے آنے جانے لگا۔ ۱۹۲۲ء کے جشن سال تو پر میں نے اسلام کے "ذہن اصول" لکھا۔ "کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ میں نے وہ کنگ تک سفر کیا اور کھلے بندوں مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔

دو بیچ صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس وقت سے میں حتی المقدور علمی اور عملی طور پر اسلامی زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت، حکمت و دانائی اور رحم و کرم بے انتہا ہے۔ آج کے پار علم کے میدان میں جن کا ہماری آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی۔ زندگی کے سفر میں جو چیز ہمارے لئے ضروری ہے وہ اطاعت و فرما برداری کی قبا۔ سر پر حمد و ثنا کی ٹوپی اور دلوں میں ایک ارفع اعلیٰ ذات کی محبت و اُلفت۔ الحمد للہ مراتب العالمین و



”اسلام جو حق دین ہے۔ اور انسانی دست برد سے پاک ہے۔“

جان ادکے سے انگلستان

اسلام بہترین ضابطہ حیات پیش کرتا ہے

مغربی لوگ کیوں اسلام قبول کرتے ہیں؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ حق کا یوں بالا ہوتا ہے۔ اسلام کے بنیادی اصول ایسے معقول، فطری، مؤثر اور دلکش ہیں کہ ایک مخلص متلاشی حق ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حتمی عقیدہ تو حید کو ہی لیجئے۔ یہ انسان کا وقار کتنا بلند کرتا ہے۔ اور ہمیں تو ہم پرستی کی گرفت سے کس قدر آزاد کرتا ہے۔ یہ عقیدہ فطرتاً انسانی مساوات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی رُو سے کل انسانیت اسی ایک خالق کی مخلوق ہے اور ہم تمام ہی ایک آقا کے غلام ہیں۔ ایمان بانٹہ کا یہ عقیدہ جرمن لوگوں کے لئے خاص طور پر روحانی فیضیان، بے خوف جرات اور سکون و سلامتی کا باعث ہے۔

حیات بعد الموت کا اسلامی عقیدہ زندگی کا حقیقی مقصد واضح کرتا ہے۔ اس سے انسان زندگی کی قدروں سے صحیح طور پر واقف ہو جاتا ہے۔ اور یقین کرتا ہے کہ دنیوی زندگی انسان کا آخری مطمح نظر نہیں ہے اس لئے وہ اس کے حصول کے لئے جدوجہد نہیں کرتا ہے بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی اصلاح کے لئے تنگ و دو کرتا ہے جو اس کی حقیقی اور ابدی زندگی ہے۔ یوم حشر پر ایمان رکھنے سے انسان خود بخود برائیوں سے اجتناب کرتا ہے۔ بڑے کاموں سے وقتی طور پر تو فائدہ پہنچ جاتا ہے مگر صرف اور صرف نیک کام ہی ابدی نجات اور آخری زندگی کے آرام و سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو کوئی یوم الدین پر ایمان رکھتا ہے یعنی اس دن علیم و خبیر، عادل و غیر جانبدار اور حاضر و ناظر بادشاہ کے فیصلہ جہ سزا سے کوئی فرود و بستر بچ نہیں سکتا تو ہر کوئی شخص برائی

کرتیسے پہلے ایک بار ضرور سوچتا ہے کہ کروں یا نہ کروں۔
 عطا پولیس کے مقابلہ میں زیادہ موثر اور مفید ہے۔

دوسری چیز جو دوسروں کو اسلام کی طرف کھینچتی ہے۔ - حرمت اور تحمل ہے۔
 شب و روز کی نمازیں انسان کو باقاعدگی سکھاتی ہیں۔ - ماہ رمضان کے روزے ضبط نفس کا سبق
 دیتے ہیں۔ بلاشبہ یہ دونوں اوصاف یعنی باقاعدگی اور ضبط نفس ایک ٹیک یا ایک بڑے آدمی کے
 نہایت اہم اوصاف ہوا کرتے ہیں۔

اسلام کی کامیابی کا جہاں تک تعلق اس کا باعث صرف وہ نظریہ ہے۔ جو کہ مسلمانوں
 کے اندر بلا بھروا کر اخلاقی قدروں پر سختی سے عامل ہونے کا جذبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔
 کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو خدا تعالیٰ اس کی تمام برکات و سکنت سے بخوبی آگاہ
 ہے۔ اس عقیدہ کی رو سے وہ برائیوں سے بچتا رہتا ہے۔ انسان قدرتی طور پر نیکی کی طرف مائل ہے
 اسلام دل و دماغ کو سکون و قرار بخشتا ہے۔ یہ سکون و قرار مغربی معاشرہ میں کلیتہً مفقود ہے۔
 میں نے مختلف نظام ہائے حیات کے اندر زندگی گزاری ہے اور بہت سے نظریات کے
 مطالعہ کا موقع ملا ہے مگر میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جتنا اسلام کا نظریہ حیات مکمل ہے، اتنا کسی اور مذہب
 یا نظام کا نہیں ہے۔

اشتراکیت بڑی بڑی دھچپیوں کے سامان رکھتی ہے اسی طرح تازی ازم میں بھی بہت
 کشش ہے مگر ان میں سے کوئی بھی ہمارے لئے عز و وقار کی زندگی کا کامل ضابطہ پیش نہیں کرتا صرف
 اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو فطری اور کامل دستور حیات پیش کر سکتا ہے۔ اسی لئے سلیم الفطرت لوگ
 اسے قبول کرتے ہیں۔ اسلام نظریاتی نہیں عملی مذہب ہے اور انسانی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق
 جزوی حیثیت سے نہیں بلکہ زندگی کے نشیب و فراز پر کلیتہً حاوی ہے اور اس کے تحت زندگی کے تقاضے
 منشاء الہی کے مطابق پورے کئے جاتے ہیں۔

تھامس لٹن جی اے۔ کتب

چرخِ غرہ

میرٹھ جاوہر توحید پر گامزن ہونے کا سبب نہ تو قرآن کریم کا بنظر غائر مطالعہ ہے نہ اسلامی لٹریچر کی واقفیت، نہ اسلامی ممالک کا ذاتی تجربہ اور نہ کسی عزیز یا دست کی وساطت و رہنمائی، بلکہ عہد نامہ عتیق کی رہنمائی کے مطابق سن طفولیت میں ہی میرا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب عزوجل کے پیغمبر ہیں۔ اب میرا حافظہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ پہلے پہل میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم مبارک کن حالات میں اور کیسے سنا؟

یسوع مسیح اہل مغرب کے لئے رسولِ ہادی اور رہنما بن کر تشریف لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مشرق کو پیغامِ حق سنایا۔ بدین وجہ مشرق کو مغرب اور مغرب کو مشرق کے پیغمبر تسلیم کرنا اللہ ان کی تعظیم و تکریم کرنا لازمی ہے۔ یہ تھا میرا عقیدہ جس پر میں کایسے تھا اور مجھے یہ بھی یقین تھا، کہ سچا اور حقیقی مذہب صرف اہل مشرق اور مشرق کے قریب درجہ کے لوگوں تک ہی محدود نہیں بلکہ دیگر اقوام جو ایک دوسرے سے دور افتادہ ممالک ہیں پڑھی ہیں۔ یعنی شمالی امریکہ کے لوگ، ہندوستانی، یونانیوں کی مہم ساز اور شجاعت شخصیتیں سہرنی، اسکندریوں اور تاریخ کے ابتدائی دور کے لوگ بھی شامل ہیں۔

مسیحیت میں پرنسٹن ازم کا آغاز ہی تفریق و انتشار کے نموس دور سے ہوا۔ اداس کی وجہ سے دیرینہ روایات اور پارہیز حکایات کی تحقیق و تدبیر ہوتی لہذا اسے بجائے اصلاحی دور کے بحلافی دور کے نام سے موسوم کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔


بادجودان حقائق کے کہ پروٹسٹنٹ ازم کے بانی اور مسیحیت میں اصلاح کے علمبردار۔ لوٹھر کے خیالات اسلامی تعلیم سے اثر پذیر اور اسلامی کتب کے مطالعہ کے سرہون منت تھے اور انہی سے استفادہ کر کے اُس نے مسیحیت کی اصلاح کے لئے کمر بستہ باندھی تھی۔ لیکن وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف محاذ قائم کئے رہا۔ اذرا آنحضرت صلعم کو اس نے کبھی بھی سچائی اور برگزیدہ پیغمبر تسلیم نہیں کیا۔ میں محسوس کرتا تھا، صرف مذہب اسلام ہی نہیں بلکہ اسلامی تہذیب بھی یورپ کی مسیحی تہذیب سے زیادہ برتر و نوبتر ہے اور یورپی عوام میں سے بہت سے لوگ اسلامی تنظیم کو فوقیت دیتے تھے اور یہ کہ وہ اس کی تنقید کرتے تھے

۱۸۳۹ء سے ۱۸۴۰ء تک مجھے بعض مسلمانوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا رہا۔ اور میں یہ دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوا کہ ان کو اپنے مذہب پر پورا بھروسہ اور اعتماد ہے۔ اور نئی یا پرانی، سماجی یا ذہنی، مذہبی یا علمی و فنی گویا پھر ایک قسم کی مشکلات کو حل کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ انہی حالات سے متاثر ہو کر میں نے ۱۸۴۲ء میں آہستہ آہستہ اسلامی کتب کا مطالعہ شروع کیا۔

جول جول میں اسلامی کتب کا مطالعہ کرتا گیا مجھ پر یہ برا اثر افشاں ہوتا گیا۔ کہ اسلام ایقان ایمان بہت ہی وسیع القلب تعلیم شجاعت اور لاولو العزمی کا مذہب ہے اور اپنے اندر ایسی رعایات رکھتا ہے جو دیگر اقوام کی روایات کے لئے مشعل راہ اور سیات و بسختی کا موجب ہیں۔ اور جس نے ہمیشہ حضرت مسیح علیہ السلام کو پیغمبر اسلام تسلیم کیا۔ انہیں کلمۃ اللہ یا روح اللہ کے مقدس ناموں سے یاد کرنے کی تلقین فرمائی۔ جو درحقیقت وہی معنی رکھتا ہے جس کو ادا اہل میں ابن اللہ کا اصطلاح سے عیسائیت نے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ مجھے معلوم ہے کہ ابن اللہ کی اصطلاح مسلمانوں کے کانوں میں گراں گزرتی ہے۔ بہر حال اسلام نے ان اصطلاحوں کے اندر عیسائی تصویبین کے لئے کافی گنجائش چھوڑی ہے۔ ان حالات میں مسیحی اقوام کو اسلام میں داخل ہونے پر کیا اعتراض یا عذر ہو سکتا ہے؟

اسلام کے ابتدائی اصولوں میں سب سے بڑا اصول تو مساوات اور اخوت نسل انسانی ہے۔ انہی حقائق کو انسان اسلام سے دور رہ کر بھی نمایاں طور پر دیکھ سکتا ہے۔ ماہ اکتوبر ۱۹۴۳ء میں مجھے امام صاحب مسجد وکنگ سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اور میں ہی ملاقاتوں میں مجھ پر واضح ہو گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ چنانچہ عید الفصحی کی مبارک تقریب

پہلے مورخہ ۸ دسمبر ۱۹۵۳ء کو میں نے ثنایت کو خیر باد کہنے اور توحید کے صراطِ مستقیم پر گامزن ہونے کا اعلان کر دیا



”ایک پادری کی حیثیت سے مجھے دوسروں کو ان باتوں کی تعلیم دینا پڑتی تھی جن کو میں خود نہ سمجھتا تھا۔ اور میں دوسروں کو ان باتوں کی ترغیب دیتا تھا جنہیں میں خود دل سے تسلیم کرتا تھا۔ اس کشمکش کے ماحول میں میرے ضمیر نے مجھے تحقیق و تجسس پر ابھارا اور دیگر مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد آخر کار میں نے اسلام میں تمام حقائق پائے اور مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ اسلام کامل مذہب ہے۔“

جیمز مرشی (انگلینڈ)

”میں اپنے آبا و اجداد کے مذہب جیسا بت پر تھا جب میں سن شعور کو پہنچا تو مجھے مذہب کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اسی دوران مجھے اسلام اور دیگر مذاہب کے مطالعہ کا موقع بھی ملا۔ اسلام کی خوبیوں نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اسلام کی سن عقیدت اور صداقت ہیں ان ہی سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کیا ہے۔“ ایچ۔ جی۔ نیو

اسلام میں عالمگیر مساوات

میرے دل پر سچپن ہی سے اسلامی تمدن بالخصوص مسلمانوں کی شاعری اور ان کے فن تعمیر کا بیدار اثر تھا اور میں اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ جس قوم نے تہذیب و شائستگی کے ہر پہلو کو اس قدر اہمیت دی اور دنیا کے سامنے حسن و جمال کا ایک وسیع منظر پیش کیا ہے ضرور ہے کہ فلسفہ اور مذہب میں بھی اس کا درجہ نہایت بلند ہو۔

اسلام کے شوق میں میں نے جدید و قدیم مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ پھر ان کا ایک دوسرے سے مقابلہ اور تنقید و تمحیص کے بعد رفتہ رفتہ میرے دل میں یہ خیال جاگزیں ہونے لگا کہ اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے اور قرآن کریم میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی انسان کو اپنے روحانی ارتقاء کے لئے ضرورت رہتی ہے۔ بد قسمتی سے میں نے قرآن پاک کا مطالعہ ترجموں کے ذریعہ کیا ہے۔ لیکن مجھے اس بات کا خوب حساس ہے کہ عربی میں اس کا انداز بیان انتہائی حسین اور واضح ہوگا۔

تیسری پیدائش اگرچہ ایک کیتھولک گھر میں ہوئی تھی۔ لیکن اپنے والد کے زیر تربیت کیتھولک مذہب کے پیچھے اور سوسطائیر توہمات کو کبھی قبول نہیں کیا۔ جناب مسیح نے اخوت انسانی کی پیشگوئی کی تھی اور کہا ہے کہ خدا کی نظر میں ہم سب انسان خواہ امیر ہوں یا غریب بلا تفریق و امتیاز یکساں درجہ رکھتے ہیں لیکن جہاں آپ نے کسی کیتھولک گرجے میں قدم رکھا آپ دیکھیں گے کہ امیر و غریب کے درمیان کس قدر امتیازات قائم کئے گئے ہیں امر صرف اول میں قربان ہی کے قریب کھڑے عملیں گدوں پر چھکتے ہیں غریب

بہت دور پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے لئے لکڑی کے سخت تختوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص کارڈنیل سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کیلئے ضروری ہوگا کہ اپنی درخواست لکھ کر پیش کرے۔ بالعموم ان درخواستوں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ کارڈنیل اپنے آپ کو کلیسا کے شہزادے تصور کرتے ہیں۔ جبلا یسوع مسیح نے جس انجوت اور سادگی کی تعلیم دی ہے اس سے اس کا کیا تعلق ہے ؟

یسوع مسیح کے ماننے والے سیدھے سارے اور غریب لوگ تھے مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت وہ پھر دنیا میں آجائیں اور جو لوگ بظاہر اس کے نام لیا ہیں ان کے غرور اور شان امارت کے خلاف غظ کہنا شروع کر دیں تو وہ بلا تامل ان کو صلیب یا اس قسم کی کسی نئی ایجاد پر کھینچ دیں گے !

پاپائے روم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں مسیح کا جانشین ہے۔ حالانکہ اس کی زندگی انتہائی امارت میں بسر ہوتی ہے۔ اور خوانی مخلص، ریشم لیبوں اور سمور میں بلبوس۔ سر پر جو اہرات کا ایک چمکتا ہوا تاج زیب کئے جناب پوپ ایک زریں تخت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ ارد گرد چمکیلی دروہیاں پہنے ان کے محافظین کھڑے ہیں ایک ساتھ ہی پادریوں کی جماعت شاندار کپڑے پہنے صاف بستہ ہے۔ ہر شخص مودباہ ان کے سامنے جھکتا ہے وہیں نے کبھی سر اور راق خم نہیں کیا، معطر ہوئیں ہر طرف سے آرہی ہیں۔ یہ سب منظر بلاشبہ نہایت حسین اور ایک تماشے کی سی شان و شوکت رکھتے ہیں۔ لیکن ناممکن ہے کہ اس سے کوئی روحانی اثر مرتب ہو

کیونکہ رسم کے مطابق پوپ کی دست بوسی بلکہ بعض دفعہ پا بوسی بھی کی جاتی ہے۔ کیا غرور و نخوت کی اس سے بدتر مثال اور مل سکتی ہے کیا روما کے قدیم شہنشاہوں کی یہ تقلید جن کو خدائی کا دعویٰ تھا۔ غریب یسوع سے کوئی مشابہت رکھتی ہے۔ جو ایک موٹی قمیض اور معمولی چادر اوڑھے برہنہ پا گھوما کرتا تھا۔ اس شرمناک تضاد کے متعلق ایک ذہین و ہمیم انسان کیارائے قائم کرے گا۔

روما کے کلیسائے سینٹ پیٹر میں کسی ولی کے انزاز میں کوئی تقریب یا اس قسم کا کوئی اور تہوار قائم ہو اور آپ اس میں شریک ہونا چاہیں تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ اول آپ کے لئے ٹکٹ حاصل کریں۔ پھر آپ کے ٹکٹ کا جو نمبر ہے اسی نمبر کی نشست آپ کو دی جائے گی۔ بعینہ جیسے تھیٹر میں انتظام ہوتا ہے علیٰ ہذا اگر جس کے اندر آپ کو متعدد ڈگریاں ملیں گی جو رسوا اور ارباب

سیاست اور دوسرے معززین کے لئے مخصوص ہوتی ہیں،

اس کے برعکس کسی مسجد کی سادگی اور خوبصورتی کا تصور کیجئے۔ ہمکے منظرہ کا حج اپنے اندر کس قدر شہرت رکھتا ہے۔ یہاں نہ غریب کا امتیاز ہے نہ دولت مند کا۔ خدا کے حضور سب برابر ہیں۔

اب میری انتہائی آرزو یہ ہے کہ میں کسی طرح نیا کعبہ سے مشرف ہوں۔ میں اپنے لطیف خیالات میں اکثر تنہا صحرائے عرب میں کھڑا ہوتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ریت کا یہ سمندر ہر طرف میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اور میں ہوں کہ بارگاہ الہی میں اکیلا حاضر ہوں۔ اس وقت میری مثال ایک ذہ بیگ کی سی تھی ہے اور گویا دنیا کی تمام مکروہات مجھ سے لقمہ میں، گو اکب کی دنیا میرے سامنے ہے۔ تنہائی کا اثر میری ذات پر غالب آ رہا ہے اور میرا دل قدرت خداوند کے لاغناہی کرشموں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہونے لگتا ہے۔ اس وقت میری طبیعت بار بار اس خیال کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ جوں جوں علم و حکمت کے تعجب انگیز اور زبردست قوانین معلوم ہوتے جائیں گے۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قوت آشکارا ہوتی جائے گی۔ وہ ان کیسا ہوگا جب میں بغیر کسی تفریق و امتیاز کے اپنے مختلف اللوں مسلمان بھائیوں کے ساتھ خوش خوش کھڑا ہوں گا اور پھر ان کی سعیت میں مجھے بھی طواف کعبہ کی سعادت حاصل ہوگی!

اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قسم کے انسان پیدا کئے ہیں، اور ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنے اپنے حال میں مطمئن رہے۔ مجھے سیاہ اور بھوری جلد پسند ہے۔ جوں جوں آدمی اُدپر کی طرف جاتا ہے بالوں کا رنگ کھل جاتا ہے اور جلد زرد ہونے لگتی ہے۔ خط استوا کی طرف بڑھتے جائیے تو جلد کا رنگ بھورا اور سیاہ ہونے لگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رنگ بعض آفتاب کی شعاعوں کو جذب کرنے کا ہے۔ برف موت کی علامت ہے اور سورج زندگی کی۔ مجھے آفتاب سے محبت ہے۔ برف سے میں دور بھاگتا ہوں۔ انسان میں چپاک کر نیکی چیز ہے وہ اس کا ظاہر نہیں باطن ہے کیا صرف کا رنگ بھورا نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر سے چمکتا ہوا سفید موتی برآمد ہوتا ہے۔ میرے نزدیک روح کی وہی مثال ہے جو موتی کی۔ میں بھورے اور سیاہ رنگ انسانوں کی تصویروں سے بہت لطف اندوز ہوتا ہوں۔ اگر میری جلد کی رنگت بھی سیاہ ہوتی تو میں خوش ہوتا۔ یہ رنگ انسان کے لئے زیادہ موزوں ہے اور اگر ایک

دفعہ مجھے گر مائی مالک کی طرف جانے کا موقع ملا جیسا کہ مجھے امید ہے کہ ضرور ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری رنگت بھی بھوری ہو جائے گی۔ بھوری بھوری جلدوں پر سفید لکڑیاں کستور نوشہا معلوم ہوتی ہیں۔ جب میں حاجی بن گیا اور میری جلد نے آفتاب کا اثر قبول کر لیا تو میں ایک نئی شبیہ تیار کرادوں“

میرے مسلمان بھائی میرے اندازہ تحریر کو معاف فرمائیں۔ اس لئے کہ مصوری میرا مشغلہ حیات ہے۔ بہر کیف میں اپنے اصلی موضوع کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ مجھے دن بدن یقین ہوتا گیا کہ دنیا کا کوئی مذہب دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس کو جبریلؑ نے حضرت محمد صلعم کی طرف وحی کیا تھا۔ لیکن ایسا مذہب قبول کرنے سے پہلے جو اس کے آبائی اور اس کے احباب اور اہل وطن کے مذہب سے مختلف ہو اپنے آپ پر پورا قابو رکھنا ضروری حسرت کہ طبیعت خود بخود توفیق پا کر اس کے اعلان پر مجبور ہو جائے جب تک مراقبت کی روشنی سے ہمالا دل متور نہ ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی برہ نہیں مل سکتا۔ میں اسی موقعہ کا منتظر تھا۔

آخر وہ وقت بھی آ گیا۔ جب میں اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا۔ ایک رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اور دفعتاً بیدار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک متلاطم سمندر میں اپنی جان بچانے کے لئے موجوں سے لڑ رہا ہوں۔ اور بڑی مہیلتوں کے ساتھ ساحل تک پہنچا ہوں اس وقت میں نے ایک آواز سنی جو سمندر کے شور سے بھی زیادہ میتر تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا۔ ”تجھ کو غرق ہونے سے کس نے بچایا! تجھے اپنے ایمان کے قرار سے کیوں تامل ہے؟“ اس کے تصور ہی دیر کے بعد میں حاجی علی رضا صاحب کے پاس گیا اور ان کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ حاجی صاحب نے حسب معمول نہایت خلوص اور وسعت قلب سے مجھے نماز اور بعض دوسرے مسائل سکھائے۔ اس طرح میں باقاعدہ مسلمان بن گیا۔

اب مجھے اس کا مطلق خدشہ نہیں کہ میرے کیتھولک دوست مجھ سے الگ ہو جائیں گے جیسا کہ ان میں سے بعض نے کیا ہے۔ اس لئے کہ ان کو کھو کر مجھے ایک ایک کیتھولک دوست کی بجائے دس دس مسلمان دوست ملیں گے۔

جب سے میں نے اسلامی مصلحتوں میں شریک ہونا شروع کیا ہے مجھے محسوس ہونے لگا کہ اگر میں نے اسلام قبول

کر لیا تو اس کے نتائج کیا ہونگے۔ اب جو میں نے علامتیں اس امر کا اقرار کر لیا ہے اور مسجد دوکنگ سے واپس آیا ہوں۔ تو بہر طرف سے میری مخالفت شروع ہے کہ مسجد دوکنگ میں ادائیگی نماز کے بہت لمبے وقتوں سے دنوں بعد مجھے موت کی دھمکی دی گئی۔ لیکن میں ایسی دھمکی پر ہنستا ہوں۔ اس لئے کہ حبیب میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا ہوں۔ تو مجھے یقین ہے کہ دنیا کی کوئی قوت میرا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ مجھے توقع ہے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک میرا یہی عمل رہے گا۔ اور اس وقت بھی اس کی بے شمار نعمتوں کا شکر یہ اور بالخصوص اس جمال پسند طبیعت کا جو اس نے مجھے عطا کی ہے میری زبان پر ہوگا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ قدرت الہی کا لاثانی حسن میرے سامنے ہے اور میرا موقلم ہر اس چیز کی تعریف پر آمادہ ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال شفقت سے اس لئے پیدا کی ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان کی روح جذبہ مسرت سے لبریز ہو جائے۔

مجھے امید ہے کہ توفیق الہی سے مجھے عنقریب یہ مسرت بھی حاصل ہوگی کہ میری آنکھیں لندن کے عین وسط میں اس مسجد کو دیکھ سکیں۔ جس کا نقشہ ہمارے نوجوان دوست شیخ عبدالحمید صاحب نے تیار کیا ہے۔ یہ ایک خالص اسلامی روح کا ہی کام تھا۔ کہ اس قسم کے نقشے کا تصور شیخ صاحب کے ذہن میں قائم ہوتا۔ اور اس کی تعمیر کا حق بھی مسلمانوں ہی کو پہنچتا ہے۔

تعریف ہے اللہ کی بادشاہوں کے بادشاہ اور ہر شے کے خالق کی :



”السلام کی عالی طرف اعلیٰ بات قرآن کریم کے بغور مطالعہ کا باعث ہوئیں اور انہیں فطری اور عقلی پاک میں نے اسلام قبول کر لیا“

جے۔ غم۔ لیٹر

اسلام کی فکری اور عملی تعلیم

دس سال کے طویل عرصہ تک میں شکوک و شبہات اور یاس و ناامیدی کے دیوانہ میں بھٹکتا رہا۔ آخر کار میں نے اسلام کی حقیقی راحت و روشنی کو پایا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مجھے عظیم الشان اسلامی برادری کا رکن بننے کا فخر حاصل ہوا ہے۔ اسلام عالمگیر مذہب ہے جس نے اپنے ان بلند نظریوں کو جو اخوت و مساوات انسانی سے تعلق رکھتے ہیں تیرہ سو سال سے زائد عرصہ تک تحمل میں رکھا۔ ان کی صداقت کو واضح کر دیا۔ بجا ایک دوسرے مذہب کے پیروں نے صرف نظریاتی تعلیم ہی ہے۔ اور انہیں عمل میں لانے کی تکلیف گوارا نہیں کی۔ علاوہ ازیں وہ سادہ ایمان جو اسلام میں خدائے واحد و احد اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پایا جاتا ہے۔ اسی کے ذریعے پاک تعلیم جو نیک انسان کی اخلاقی و مادی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے تمام سامان اپنے اندر رکھتی ہے۔ تمام دوسرے مذاہب انسانی تعلیمات سے بلند تر دیکھ رہی ہے۔

میں جزائر غرب الہند کے شہر باربارس میں پیدا ہوا اور ایک مذہبی خاندان میں میری تربیت ہوئی۔ میں بائبل کے مطالعے کا بہت شوقین تھا۔ اسکول کا طالب علم تھا۔ اپنے والدین کی خواہش پوری کرنے کے لئے میں نے مقامی و اعظم بننے کے لئے تعلیم حاصل کی اور اوقات انجیل پر مجھے تقریر بھی کرنا پڑتی تھی۔ لیکن جب میرے اسکول کی تعلیم کا زمانہ ختم ہونے والا تھا تو میں طرد ہو گیا اور مسیحیت کی تعلیم سے بالکل متنفر ہو گیا۔ اگرچہ جن اصول و عقائد کی تعلیم مسیح نے دی ہے وہ فی الحقیقت بہت بلند درجہ رکھتے تھے اور مجھے متاثر کرنے والے تھے۔ لیکن جس چیز نے مجھے متنفر کیا وہ تھا بڑا اسکول جو رنگارنگ اقوام کی خاطر ہی کھلا رکھا جاتا تھا۔ میں حیران تھا کہ آیا یسوع مسیح دنیا کی صرف سفید اقوام کی خاطر ہی صلیب پر قربان ہوئے

ہیں۔ شکوک و شبہات اور مایوسی کا شکار ہو کر میں نے اسکول چھوڑ دیا اور لارڈ ڈگیلین کے جہاز میں ملازمت اختیار کر کے دنیا کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ اسی طریق پر مختلف اقوام سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اور ان کے حالات اور معتقدات کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔

چنانچہ مجھے ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا۔ سوئیڈن کے ایک باشندہ سے یونیورسٹی میں میری ملاقات ہوئی۔ جتنا اس نے مجھے متاثر کیا اور کسی دوسرے شخص نے اتنا اثر نہیں ڈالا۔ وہ چھبیس سالہ خوبصورت نوجوان تھا۔ ایک دن ہمارے عملہ جہاز کے آدمی بندرگاہ پر باہر سیر کر رہے تھے اس دلچسپ آدمی نے جس کے متعلق مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ وہ ایک جہاز کا جو بندرگاہ میں کھڑا ہے چیف افسر ہے، ان پر اے الفاظ میں ہمیں مخاطب کیا "لوگو کیا حال ہے؟ اس آدمی کی شخصیت اور دلی محبت و پیار نے ہمیں یہاں تک گرویدہ کیا کہ ہم ٹھہر گئے اور باہمی تعارف کے بعد اس کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو گئے۔ اس نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور جب ہم اس کے کہیں کے پاس پہنچے تو اس نے دروازہ کھول کر کہا "بھائی اندر آ جاؤ"

ہم سب کے سب اس کے برادرانہ سلوک پر حیرت زدہ تھے اور میں نے سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے انتظار کیا کہ بڑے پہلے قدم اٹھائیں چونکہ دوسرے بظاہر بہت ہی شرمیلے تھے۔ اس لئے جو بات کی اور اپنے میزبان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ دوسرے سفید لوگوں سے جن سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا ہے بہت ہی مختلف طبیعت رکھتے ہیں۔ اس نے پیار سے جواب دیا۔ ہاں میرے بچے! میں دوسروں سے مختلف طبیعت رکھتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق سب سے بڑی برادری سے ہے۔" وہ کونسی برادری ہے؟ میں نے دریافت کیا اس نے کہا۔ "یہ ایک اور صرف ایک ہی برادری ہے جو خدا کی تمام مخلوقات کو ایک ہی عظیم الشان عالمگیر خاندان سے متعلق سمجھتی ہے اور ذات نسل اور رنگ وغیرہ کا کوئی امتیاز روا نہیں رکھتی یہ ایک ایسی برادری ہے جو دوسروں کو اپراٹھانے اور پیغمبر خدا کی صحیح تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کرتی ہے۔" "ابو" میں نے کہا۔ "آپ کس پیغمبر کو مانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا۔ "ہاں، اور اسی دن تم بھی مان جاؤ گے" یہ کس طرح آپ کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا "تمہارا خیر اس مادہ سے بنایا گیا ہے اور بہت سوالوں کے بعد تم مجھے یاد کرو گے۔" پھر میرے ساتھیوں سے متوجہ ہو کر اس نے کہا۔ "بچو اور کچھ کھا پی لیں، چنانچہ ہم قہوہ اور کیک سے

محظوظ ہوئے اور نہایت گرمجوشی سے اُسے الوداع کہہ کر چلے آئے۔ دوسرے دن صبح ہی ان کا جہاز نیویارک روانہ ہو گیا اور اس کے بعد مجھے اس شخص کی ملاقات بھی نصیب نہیں ہوئی لیکن اس خوشگوار اثر اور دلچسپ گفتگو کو کبھی مٹا نہیں سکتا، اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔

مختلف ممالک کے سفر میں نے مختلف لوگوں اور ان کے مذاہب کا مطالعہ جاری رکھا۔ اور جب مشرق میں گیا تو مجھے بڑے بڑے مذاہب کا براہ راست مقابلہ مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ اور سب سے پہلی چیز جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ نام نہاد مسیحی کلیساؤں کی جھوٹی وجاہت اور ان کی دوسرے لوگوں سے نفرت تھی۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بہت سے کلیساؤں میں مقابلتا بہت تھوڑے ایسے راہبین ہیں جو صرف وعظ ہی نہیں کرتے بلکہ مسیح کی تعلیمات پر فی الحقیقت عامل بھی ہیں لیکن اس کے برعکس ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو شرفاء کے اخلاقی خصائص نہیں رکھتے۔ اس لاپرواہی اور ہمدردی کے فقدان نے لکھو کھو لوگوں کو مسیحی کلیسا سے برگشتہ کر دیا ہے کیونکہ جب وہ روٹی مانگتے ہیں تو انہیں پتھر دیئے جاتے ہیں اور اس کے بالکل برعکس پیغمبر اسلام صلعم کی تعلیمات ہیں۔ آپ اس جگہ بادشاہ اور دہقان کو پہلو بہ پہلو ہوتا ہوا اور ملکر اللہ تعالیٰ کے حضور میں عبادت کرتا ہوا پائیں گے۔ اس جگہ نسل یا رنگ کا کوئی فرق نہیں اور جن لوگوں کو مکہ کا حج کرنے یا اس کے حالات کا مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ وہ یقیناً اس حقیقت کے معترف ہیں صرف اس جگہ ہی عالمگیر برادری کا عملی رنگ پایا جاتا ہے۔ انسان وہاں گورے، کالے اور زرد رنگ کی تمام اقوام کے لوگوں کو پہلو بہ پہلو کھڑا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ سب کے سب اس ایک ایمان کی زنجیر سے جکڑے ہوتے ہیں جو اسلام کے عظیم الشان عقیدہ کا لازمہ ہے۔ اتحاد اسلامی ایک مسلم اور ناقابل انکار حقیقت ہے۔ انسان کو معصوم اور ایک دوسرے کے برابر سپرد کیا گیا اس لئے کوئی ایسی وجہ مجھے نظر نہیں آتی کہ کوئی ایک قوم ہی سر خدا کی برگزیدہ اور محبوب ہو۔ اور باقی تمام لوگ ان کے خادم ہوں۔ امیر یا غریب، اعلیٰ یا ادنیٰ اور گورا اور کالا ہونا محض ایک اتفاقی امر جو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب ایک اور برابر ہیں۔

مگر اب جبکہ میں ان زنجیروں کو توڑ چکا ہوں جو بغض و تعصب اور نا فہمی کی سخت ترین روایات سے تیار ہوئی ہیں اسلام کی شاندار برادری کا ایک ممبر بن چکا ہوں میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ پیغمبر اسلام

کی تعلیمات کی خوبیوں اور محاسن کو دنیا میں پھیلاؤں۔ ان لوگوں سے جو شوک و شبہات اور ایسی ہی باتوں میں مبتلا ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اسلام کے مطالعہ پر کچھ وقت اور توجہ صرف کریں۔ اس سے آپ دنیا کو ایک ایسی روشنی سے منور پائیں گے جو اس سے قبل آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی تھی۔ اور توحید الہی اور نسل انسانی کی منادات پر ایمان لا کر آپ اس راحت اور امن و اطمینان کو حاصل کئے بغیر نہیں رہ سکتے جو اسلام کے اندر مضمر ہے اور مسیحی تعلیم کے برخلاف اسلام میں اصول اور عمل دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں اور یہی ایک بات ہے جو اس کی شان و شوکت کو بلند کرنے والی ہے۔



”اسلام کے تصور میں اتنی وسعت ہے جتنی کہ بذات خود انسانیت میں۔ اور یہ کفارہ یا شقاوت اور نجات ایسے عقائد سے، جو مسیحی مذہب کی بنیاد ہیں، پاک و مترہ ہے۔ میں نے بہت سے اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے۔ اولاً اسے اپنے رفق اور اصحاب کو دیتا رہا تا کہ وہ اس حق و صداقت کو اپنا سکیں جو بڑی دیر سے ان میں پوشیدہ تھا۔“

_____ عمر علی ڈین (انگلستان)

مس افی حلیمہ شیورڈاز اسٹریلیا

اسلام میں سلاہتی ہے

آسٹریلیا میں جہاں کسی مسلمان سے شادی میں ملاقات میرا سہکتی ہوئی میں اپنے آپ کو نہایت ہی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے جناب محمد عالم صاحب ماہر ادویات جیسے قابل شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا، جناب محمد عالم صاحب کو وہ تمام اہل آسٹریلیا معجز نما انسان سمجھتی ہیں جن کو کوئی دوسرا صاحب موصوف کے دستِ کرم سے شفا ہوئی ہے۔

یوٹھرن کلیسا میں نے نشوونما پائی۔ میں چودہ برس کی ہوئی تو انگلستان کے کلیسا کے ایک پادری صاحب نے مجھے مسیحی کلیسا میں شریک کیا۔ بائیس برس کی عمر میں مسیحی کلیسا میں مجھے اور طبائع سے رنگین فرمایا اور دو سال تک میں برابر مسیحی کلیسا کے دعائیہ نغمہ آرائیوں کی محفل میں حصہ لیتی رہی اس عرصہ میں مجھے یہ خیال دامنیبر رہا کہ یہ مذہب میری نجات کا موجب نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ ایک عرصہ کے بعد یہ مذہب محض مضحکہ خیز ثابت ہوا۔ میں اس سے متنفر ہو گئی اور کلیسا میں آنا جانا مطلقاً ترک کر دیا۔ میری سہیلیوں نے میرے اس اقدام کو غلطی پر معمول کیا، یہ احساس میرے دل میں اٹھوں پہر کھٹکتا تھا کہ میری زندگی کو کسی چیز کی ضرورت ضرورت ہے۔

میرا سابقہ زندگی کے دند نے یہ امر مجھ پر ثابت کر دیا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت پر ایمان اور نبی کامل ہیں۔

میرے تمام کے تمام دوست احباب، میری قبولیت اسلام پر تسخر کرتے ہیں گو وہ جی بھر کہ مجھ پر پھبتیاں لگائیں لیکن مجھے ایمان کامل ہے کہ میں سراطِ مستقیم پر گامزن ہوں۔

خدا کے واحد کی پرستار ہوں، اور اسی کے راہِ خواب کی اتباع کر رہی ہوں اس لئے اُن کی اتہزاک میں شتمہ بھری بھی پرواہ نہیں کرتی۔

مجھے مسلمہ ہونے پر ناز ہے اور اس نعمت عظمیٰ کے لئے میں سجدہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت اور برکت سے نوازا۔ میرا ایمان بالقرآن مجید کبھی بھی متزلزل نہ ہوگا۔ میری حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔ میں رسالہ اسلامک ریویو کے مطالعہ سے ہمیشہ لطف اندوز ہوتی ہوں، یہ رسالہ ہر بار مجھ پر معارف قرآنی کا انکشاف کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت میرا ہر روز کا مشغلہ ہے۔

”میں نے بڑی کاوش اور جستجو سے اسلام کا مطالعہ کیا اس کی تعلیمات کا دوسرے مذاہب کی تعلیمات سے مقابلہ کیا۔ اور انجام کار اس نتیجہ خیز پر پہنچا کہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دین ہے جو الہیات کا مظہر ہے اور جو اہل علم و دانش طبقہ اناس کے روحانی جذبات کو تسکین دیتا ہے۔“


ابوبکر بیہانت بچمن (ٹریٹیڈ اڈ)

اسلامی تمدن اور معاشرت

ایک سلمان دوست کی مہربانی سے کچھ عرصہ سے میں اسلام پر لکھی ہوئی مقبول عام کتابوں کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ سید امیر علی صاحب پٹیل، لیدر اور کارلائل وغیرہم کی کتب سے میں نے بہت ہی استفادہ حاصل کیا ہے۔

میرے بغور مطالعہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ عظیم الشان عادی اور پیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حریت پسند مذہب کی حد درجہ کی قدر و منزلت میرے دل میں پیدا ہو گئی اور اب میں اس مذہب کو قبول کرتے ہوئے بڑی تسلی اور خوشی محسوس کر رہی ہوں۔

میں مانتی ہوں کہ اصلاح شدہ مسیحیت ایک بڑے مذہب کا درجہ رکھتی ہے۔ مگر یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ اسلام نہ صرف اس مذہب کے بہترین اصولوں کی تعلیم دیتا ہے بلکہ اپنے فلسفیانہ اور روحانی خیالات اور اصولوں کے لحاظ سے جو بہترین تمدن اور اعلیٰ درجہ کی معاشرت کے ضامن ہیں۔ اسے بلاشبہ عیسویت پر فوقیت حاصل ہے۔



ہیں اسلام کی اس لئے تعریف کرتا ہوں کہ یہ کسی خاص ملک و ملت کا نہیں بلکہ ہمہ گیر اور عالمگیر مذہب ہے
(آر۔ ایف۔ ایڈورڈز۔ انگلستان)

اسلام کی سادہ اور معقول تعلیم

سنہ ۱۹۱۹ء میں ۲۲ اگست کا دن میری زندگی کے نہایت ہی مسرت آمیز لمحوں میں سے تھا۔ یہ وہ حرکت تھی جو قابل یادگار دن ہے جبکہ میں مشرف بہ اسلام ہوا۔ قریباً ایک سال کے عرصہ تک اس معاملہ پر نہایت ہی بخیلیگی سے غور و تدبیر کر رہا تھا۔ اور اسی اثنا میں نے مذہب اسلام کا اچھی طرح مطالعہ کر لیا۔

سب سے پہلی بات جو میرے دل میں جاگزیں ہوئی۔ وہ عظیم الشان مذہب اسلام کی سادہ و معقول تعلیم ہے جس پر اس مذہب کی بنیاد ہے۔ ایک رات میں مصر کے دربار کے کنارے گھوڑی پر سواری کر رہا تھا۔ اٹار سواری میں میں مسلمانوں کو نماز ادا کرتے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کے طرز عبادت کی توصیف و ستائش دل ہی دل میں کرنے لگا کسی نائر کو ایسے لوگوں کی طرز عبادت دیکھ کر حیرانی ہو جاتی ہے۔ جن کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہے اور درمیان میں کسی وساطت کی انہیں ضرورت نہیں

آخر الامر مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس عقیدہ پر ہرگز کسی صورت میں بھی نہیں رہ سکتا۔ اور وہ میرے اطمینان قلب کا موجب ہی نہیں ہو سکتا جس کے گوشہ عاطفت میں میں نے پرورش پائی ہے۔



اسلام ایک تاریخی مذہب ہے

قبول اسلام کی وجہ معلوم کرنے کی غرض سے مجھے بہت سی جگہوں سے التفسارات وصول ہوئے ہیں ان سطور میں اس فرمائش کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔

اسلام بے نظیر خوبیوں کا مالک ہے یہ تاریخی مذہب ہے اور اس کے پیشوا حضرت اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی شخصیت مالک ہیں دیگر مذاہب کی ابتدائی تعلیمات کے متعلق ہمیں بہت تھوری معلومات حاصل ہیں۔ چند پند و نصائح پر مشتمل کچھ غیر منضبط قسم کی تفصیلات ملتی ہیں تو ان کی حقیقت اور صحت سلمہ طور پر شبہ اور قابل اعتراض ہے، آج کل تقریباً دوسرے تمام پیشوایان مذاہب کی زندگیاں قصے کہانیاں اور حسیان بن کر رہ گئی ہیں۔ اگر ہم ان پیشوایان کے اعمال و افعال کی روشنی میں ان کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہیں تو ہمیں کچھ بھی پلے نہیں پڑتا جہاں تک مذاہب اسلام کا تعلق ہے۔ اس کے آثار و اسناد کی صحت پر کوئی بھی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ اس دین کی کتاب قرآن پاک آج بھی وہی ہے جو آج سے چوں سو سال پہلے حضرت رسالت مآب کے وقت میں تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال جن سب میں الہی تعلیمات کی تمہیل تکمیل نظر آتی ہے، اپنی حقیقی اور عملی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں۔ میں جو کچھ ان سطور میں بیان کر رہا ہوں وہ محض ان تعلیمات کا مفہوم ہے جو کہ میں نے قرآن کریم اور احادیث نبویؐ میں پائی ہیں۔ ان تعلیمات سے مجھے نہ اطمینان قلب اور روح کی تسکین میسر آئی ہے۔ جسے حاصل کرنے کی میں ادھر ادھر بے سود کوشش کرتا رہا۔ میں سادہ اور عملی مذہب کا متلاشی تھا۔۔۔ ایسے مذہب کا جو کلمہ کی عقائد کے گھور گھور دھندوں سے بے بہرہ محض ہو۔ کیونکہ عقائد اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنانے کے لئے عقل و فہم کو کلیسا کی عینیت پر ماننا پڑتا ہے لہذا میں ایک عقلی اور فطرتی مذہب کی تلاش میں

تھاجیں کا تعلق ہماری عقل و شعور سے براہ راست ہو۔ حقوق اللہ، اور حقوق العباد ہی بلاشبہ کسی مذہبی نظام کا اہل مقصد ہوتے ہیں اور ہونا چاہئیں۔ چنانچہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو فطرت کے ان تقاضوں پر پورا اترتا ہے اور احکام و ہدایات کو عملی صورت میں پیش کرتا ہے ہمیں اپنی زندگی کی راہوں میں حادثات اور ناگہانی حالات سے بچنے کے لئے پند و نصائح کے ساتھ ساتھ عملی نمونوں کی ضرورت پڑتی ہے اور مشکلوں کے وقت رہنمائی بھی درکار ہے چنانچہ اسلام جہاں عملی نمونے پیش کرتا ہے وہاں رہنمائی کے دروازے بھی داکرتا ہے۔



”میں نے اسلام جیسا اور کوئی دوسرا جمہوری مذہب نہیں پایا۔ جو مکمل، اکمل اور جو صلہ اقرا ہو۔ اور اسلام کے سوا اور کوئی ایسا راستہ نظر آتا ہے، جو اطمینان قلب اور تسکین حیات کا باعث ہو اور اس کے ساتھ ساتھ حیات اُخروی کے لئے مواعینہ حسنہ کا حامل ہو۔“

مس مسعودہ سیبہن۔ چرمنی

اسلام اور سائنس

اسلام اور اس کی بے نظیر تعلیمات کے مطالعہ کی دلی خواہش، مجھے بچپن ہی میں ہوئی اور تفسیر قرآن کے ایک قدیمی نسخے کا بڑا محتاط اور مبلغ مطالعہ کیا یہ نسخہ میں نے اپنے شہر کی ایک لائبریری سے نکلوا یا تھا۔ جو سنہ ۱۹۵۰ء کا طبع شدہ ہے یہ وہ نسخہ ہے جس کے مطالعہ سے گوئیٹے نے اسلام سے آگاہی حاصل کی تھی۔ قرآن کریم کی سراسر عقلی اور اثر آفرین تعلیمات حسنہ نے مجھے بہت متاثر کیا ان کے زیر اثر جو عظیم الشان روحانی انقلاب اس وقت کی اسلامی مملکتوں میں رونما ہوا تھا اس نے بھی مجھ پر بہت گہرا اثر کیا۔

بعد ازاں مجھے برلن میں مسلمانوں کے ساتھ اشتراک کار کا موقع ملا اس دوران میں ہجرین مسلم شن اور یونین مسجد کے بانی مہمانی حضرت مولانا صدر الدین صاحب کے پراز حکمت و موثر درس قرآن کو بھی سننے کا فخر حاصل ہوا اس ممتاز شخصیت کی سالہا سال کی شفیق ہجرت اور آپ کے روحانی فیض کے طفیل مجھے صراط مستقیم نظر آ گیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام نے بنی نوع انسان کے متعلق جو عجیب تصور قائم کئے ہیں قطعاً کسی دوسرے مذہب نے پیش نہیں کئے۔ ان تصورات نے میرے خیالات کو وسیع تر کر دیا۔

ایمان باللہ مذہب اسلام کا ایک اہم اور اہل رکن ہے۔ اسلام ایسے عقائد نہیں رکھتا جو جدید سائنس کے قوانین کے قبائل اور تضاد ہوں اس لئے اسلام اور سائنس میں کوئی آئینہ نش یا کوئی تضاد نہیں پایا جاتا جس شخص نے سائنٹیفک تحقیقات اپنی بھرپور صلاحیت کے ساتھ کی ہوں قدرتا اس کے لئے یہ امر واقعہ ایک بے نظیر اور عظیم ترین اہمیت رکھتا ہے۔

دوسری نصیبت یہ ہے کہ اسلام کوئی ایسی فکری تعلیم کا نام نہیں جو زندگی کے ہر مقام پر حاوی نہ ہو۔ بلکہ اسلام ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے جو فی الحقیقت انسانی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ اسلامی آئین جبری قانون نہیں کہ جن سے شخصی آزادی سلب ہو کر رہ جائے بلکہ پسند و نفاق اور ہدایت و رہنمائی کی صورت میں اور صحیح اور سچی آزادی کے ضامن میں۔

میں نے ساہا سال بڑی خاطر جمعی سے اس بات کا بار بار مطالعہ کیا ہے کہ اسلام انفرادیت اور اشتراکیت کے مابین اوسط خیر الامور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ان دونوں میں رشتہ اتحاد پیدا کرنے کا موجب ہے۔ چونکہ بیرونی مقل اور غیر متعصب دین ہے اس لئے جہاں اسے نیکی اور بھلائی نظر آتی ہے ہمیشہ اسے امتحان کی نظر سے دیکھتا ہے۔



”اسلام میں ہمیں شفاعت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا خدا رحمن و رحیم خدا ہے۔ ہم پیدا ہونے سے گناہگار نہیں ہیں۔ بلکہ اس دنیا میں سفید و شفاف برف کی طرح پاک و موزکی روح لے کر آئے ہیں ہمیں خدا کی یاد شاہت میں داخل ہونے کے مواقع حاصل ہیں۔ مگر مسیحی عقائد کی رو سے ہم اس وقت تک خدائی یاد شاہت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک پتھرا نہیں لیں“۔ مس تیر سپہ گورڈن۔ انگلستان

اسلام — دینِ فطرت ہے

آپ یہ سنکر متعجب ہونگے کہ میں نے جو نہیں ہوشِ سنبھالی اور سنڈھے سکول میں جانا شروع کیا تو اسی وقت سے مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ عیسائیت جس امر کا دعویٰ کرتی ہے۔ درحقیقت وہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اور نہ یہ قطعی طور پر خدا کی رضا کی رائیں دکھا سکتی ہے میں بلا ناغہ سنڈھے سکول میں جاتا جو لازمی مذہبی تعلیم وہاں دی جاتی حاصل کرتا یہ تعلیم اگرچہ بہت دلچسپ تھی۔ مگر میں محسوس کرتا تھا کہ جتنا وسیع جو درحقیقت ایک انسان تھے۔ اگر اس وقت زندہ ہوتے تو وہ ہرگز ایسی تعلیم نہ دیتے۔

تقریباً چھ سات سال تک آریچ بشپ کی ماتحتی میں کلیسائے انگلستان نے مجھے تعلیم دی کہ مجھے کیا کچھ بگڑنا ہے۔ خیر ان رسمی تکلفات کے بعد مجھے مستقل طور پر چرچ کا ممبر بنا دیا گیا اس کے بعد میں ایک پکا امریکن بن گیا۔ مذہب میں دلچسپی لینا مجھ سے بالکل ترک ہو گیا اس عمر میں جبکہ بگڑا خدا کی راہوں پر چلنے کا خیال کرتے ہیں۔ میں بہت سی لاطینی باتوں میں لگا ہوا تھا۔ مذہب کی طرف سے ایک کافی لمبے عرصے تک مجھ پر ایک جمود کی حالت طاری رہی۔

ایک دن مجھے — نیا انکشاف ہوا مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ انکشاف میری ساری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دن ایک دوست کی لائبریری سے مجھے سبیل کا ترجمہ قرآن ہاتھ لگ گیا میں وہیں بیٹھ گیا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کو میں خدائی تعریف کہوں گا کہ میرے دماغ میں مذہبی روشنی کی شمع فریض ہو گئی۔ باوجود سبیل کے معاندانہ تنقید و تبصرہ کے جو اس نے اسلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ہے اور باوجود اس ناپاک تعصب کے جو اس نے ظاہر کیا ہے میں ایسا محسوس کرنے لگا کہ گویا خدا کا نام میرے دل و دماغ کی گہرائیوں میں تڑپا

کر رہا ہے۔ اس واقعہ نے راحت اور روشنی کی ایک نئی دنیا اور فضا کے الہی کی معرفت ایک نورانی راہ مجھ پر کھول دی
 نیل کے ترجمہ کے مطالعہ سے مجھے اسلام کے متعلق کچھ علم حاصل ہو گیا۔ مگر میں اسی پر قانع نہ ہوا۔ جو لٹریچر مجھے اسلام
 کے متعلق مل سکا میں اس کو بغور پڑھتا رہا اور اس میں دلچسپی لیتا رہا۔ اگرچہ وہ سب کتابیں جو میرے مطالعہ سے گذریں دلچسپ تھیں
 لیکن میں نے ندوان مطالعہ میں چند ایک امور ضرور محسوس کئے۔ مثلاً یہ کہ اگرچہ ان کتابوں میں بہت کچھ صداقت بھی تھی۔ مگر ان
 میں زیادہ تر جھوٹ اور غلط فہمی کا رنگ غالب تھا۔ دوسرے یہ کہ ان کتابوں کے معتنقین نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اسلام سے محبت
 کریں اور اس کو سمجھیں۔ بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس سے متنفر ہوں۔ بہر حال اسلام کے متفق میری محبت پہلے سے زیادہ ہو
 گئی۔ اور مجھے مطالعہ کا اشتیاق بڑھتا گیا۔

۱۹۴۶ء کے موسم گرما میں مجھے بمقام مونسین واقعہ فرانس میں ہوائے سکاؤٹ جمہوری میں شرکت کا موقع ملا۔
 جمہوری میں ... سکاؤٹس نے شمولیت کی تھی۔ ۴۴ مختلف اقوام کے نمائندے تھے۔ اس جمہوری میں مجھے انجیریا سے آئے
 ہوئے ایک سکاؤٹ سے ملنے کا اتفاق ہوا وہ مسلمان تھا۔ میں آج تک اس کو اپنا نہایت عزیز دوست سمجھتا ہوں۔ دو سال
 سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ ... صحیح معنوں میں مسلمان
 اور بحیثیت ایک انسان وہ ہم سب کے لئے ایک نمونہ تھا۔ میں اپنے اوقات کا بیشتر حصہ اس کی صحبت میں گزارتا تھا۔
 ایک دوسرے کی زبان کی معائرت جس قدر اجازت دیتی تھی۔ میں اس سے اسلام کا علم حاصل کرتا تھا۔ اس وقت تک مجھے
 عربی زبان سے کچھ بھی واقفیت نہ تھی۔

جمہوری میں مجھے سچے پیروان اسلام کے اعمال و افعال کو دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا۔ یہ وہ موقع تھا کہ اسلام کے
 صحیح تصورات کے نقوش میرے دل و دماغ پر منقش ہونے شروع ہو گئے اور میں نے محسوس کیا کہ اب مجھے خدا پر مفسوط ایسا
 پیدا کرنے کے لئے مذہب اسلام قبول کرنا ضروری ہے

گھر واپس آکر اسلام کے متعلق زیادہ واضح اور زیادہ صحیح علم حاصل کرنے کے لئے مجھے بیرونی ممالک
 کے ٹریپیجری کی تلاش کا شوق ہوا۔ ٹریپیجری کی اس تلاش میں مجھے احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا ایڈریس مل گیا۔ چنانچہ متعدد کتابوں
 سے مجھے مذہب اسلام کے متعلق صحیح صحیح معلومات حاصل ہو گئیں اس کے بعد ٹریپیجری مشیر عزیز مشنری ریاستہائے متحدہ امریکہ

سے خدا کو ثابت تشریح کی۔ اسلام کے اس عملی نمونہ کی وساطت سے مجھے یقین کامل ہو گیا۔ کہ خدا کے پیغام کا اصل حال مذہب اسلام ہے۔ ولا تغیر

سطور بالا میں نے یہ بیان کیا ہے کہ میں مسلمان کس طرح ہوا؛ اب اس امر کی تشریح کے لئے کہ میں کیوں مسلمان ہوا مجھے اسلام کے اصول اور اس کی عملی تعلیم پر کچھ روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ یہ امر سمجھ لینے کے بعد کہ اسلام درحقیقت ہے کیا یہ جاننا کچھ مشکل نہیں کہ ایک شخص کو اس کے اندر داخل کیوں ہونا چاہیے۔ ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کے معنی میں خدا کی رضا کے سامنے سر جھکا دینا۔ یا اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا۔ اس لئے جب ہم پیدا ہوتے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہیں۔ البتہ پیدا ہونے کے بعد ہم خدا کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرے راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ جن کے نصب العین کا کچھ علم نہیں ہوتا۔

اسلام دینِ فطرت ہے۔ اور ہر ایک بچہ جب تک کہ وہ اس قدر بڑا نہ ہو جائے کہ کوئی اس کو خدا کی اصل منشا کے علاوہ کسی اور پر ایمان لانے کیلئے مجبور کرے وہ سچا مسلمان ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑ اور درخت مسلمان ہیں۔ کیونکہ وہ بڑی شدت سے تو انہیں الہی کی اتباع کرتے ہیں۔

ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں داخل ہونا خدا کے قانونِ قدرت میں دخل اندازی کرنا ہے۔ قرآن مجید خدا کا کلام ہے۔ اسلام ہی انسان کا فطری مذہب ہے اور خدا کی پیدا کردہ فطرت کے صحیح علم پر مبنی ہے۔ تعلیماتِ اسلامی کی ہر فرع ایسی معقول اور مائل ہے جیسے جو میری کے مسائل، اسلامی تعلیمات کے تضابطہ میں کوئی چیز ایسی نہیں جو غیر مائل ہو یا جس میں کوئی روحانی امر نہ ہو۔

اسلام کی ہر تعلیم ایک نمونہ ہے۔ جو خدا نے لوگوں کی ہدایت کے لئے عطا کی تاکہ ان کی آست و کی زندگی انصاف و اکرام سے مستمتع ہو

مجھ پر یہ امر واضح ہوا ہے کہ اسلام میں نماز کا اہتمام اس لئے کیا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی خدا کی عبادت اور فرمانبرداری میں گزارے۔ سبت کا دن مناسبت کے بجائے مسلمانوں کے لئے ہر روز پانچ دفعہ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز وہ چیز ہے جس کے ذریعہ ہم خدا سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں اور اس سے ہدایت طلب کر سکتے ہیں۔ اور اس کی نظروں میں معزز اور محترم

ہو سکتے ہیں۔

روزہ بھی بڑی معقول وجوہ پر مبنی ہے۔ روزہ میں ہم ان لذائذ سے مجتنب رہتے ہیں جن سے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں عام طور پر محفوظ رہتے ہیں۔ دنیوی ترقی کے بجائے روزہ کے ذریعہ ہم روحانی ترقی کرتے ہیں۔

روزہ میں اس بات کا ایک سائنٹفک ثبوت ملتا ہے کہ اگر ہم کچھ عرصہ کیلے کچھ نہ کھائیں تو ہمارے جسم میں زیادہ صاف اور تیز ہو جاتے ہیں کیونکہ بھوکا رہنے میں ہمارے دماغ میں زیادہ خون بھر جاتا ہے جو کھانے کی حالت میں معدہ میں ہاضمہ کرنے کے لئے صرف آتا ہے اس طرح ہم خدا کی طرف زیادہ توجہ دے سکتے ہیں۔

اسلام کا نظام زکوٰۃ بھی بے مثل ہے۔ یہ زکوٰۃ ان غریبوں کا حق ہے جو خود کمانے کے قابل نہیں۔ اکثر ممالک میں لوگ اپنی مرضی سے ایسے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ مگر اسلام میں اس کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ جو اس کی ایک خصوصیت ہے۔ بندوں پر رحم کرنے سے ہم خدا کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔

میں نے اسلام اس لئے قبول کیا ہے کہ اس کی تعلیم صداقت پر مبنی ہے۔ خدا خود صداقت ہے۔ کیونکہ اس کے احکام رحم اور نیکی کے حامل ہیں۔ اس کے اصول سچے اور خدا کا کلام ہیں کہ میں نے اسلام اس لئے بھی قبول کیا۔ کہ اس کے ذریعہ انسان اس فطرت کی آبیاری کر سکتا ہے جو وہ لے کر آیا ہے۔ آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے۔ جو خدا کا آخری اور مکمل دین ہے اور اسی کے ذریعے انسان خدا کے انعامات کا وارث بن سکتا ہے۔ دلائل غیر۔



”میں نے بڑے عرصہ تک اسلام کا مطالعہ کیا ہے۔ جو روحانی اور اخلاق خوشی و مسرت اور اطمینان قلب مجھے یہاں میسر آیا ہے کسی اور مذہب میں نہیں آیا“

حائشہ خاتون مورل سمیٹھ
انگلستان

اسلام ایک سچا اور حقیقی مذہب ہے

”میں گذشتہ دو تین سال سے اسلام کا نہایت ہی غور و تحقیق سے مطالعہ کرتا رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اسلام ہی ایک سچا اور حقیقی مذہب ہے اسے اختیار کر کے انسان تمام اخلاقی کمزوریوں اور گناہوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے میں ان سے اسلام قبول کرتا ہوں اور اس کے اصولوں سے کما حقہ اسکا ہی حاصل کرنے کا متمنی ہوں تاکہ ان پر عمل پیرا ہو کر میں نجاتِ آخری حاصل کر سکوں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام پر چلنے کی استقامت بخشے۔ اور اس کا بھی اظہار کر دینا چاہتا ہوں کہ میں حضرت نبی کریم صلعم کا ایک سچا پیرو ہوں۔ کیونکہ یہ امر مجھ پر تحقیق ہو چکا ہے کہ اسلام ہی صرف وہ مذہب ہے جو حق و صداقت کا علمبردار ہے۔“



”میں ہمیشہ سے ایسے امن و امان کا متمنی رہا ہوں۔ جو بالآخر مجھے گوشہ اسلام میں میسر آئی یہ سراسر فطرتی اور رحمت و راستی کا مذہب ہے۔“ _____ دیسی ولکنز انگلستان

اسلام عقلی دین ہے

اسلام کی ایک عظمت اور بزرگی یہ ہے کہ اس کی بنا عقل و دلیل پر ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو مذہب و عقائد کے معاملہ میں دماغ کی اہم صلاحیت سے احتراز برتنے کی ہرگز تلقین نہیں کرتا، برخلاف اس کے دیگر مذاہب ایسی تلقینیں کو آزادانہ تحقیق و دریافت کے بغیر عقائد قبول کر کے پھر مجبور کرتے ہیں عیسائی حکمت کو بلا سوچے سمجھے بہر صورت ماننا پڑتا ہے۔ مگر اسلام تحقیق و دریافت کی تلقین کرتا ہے اور مسلمان ہونے سے پہلے تبصیر کو تحقیق مطالعہ کی ہدایت دیتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سے بڑھ کر کوئی چیز پیدا نہیں کی اور نہ کوئی اور ہی شے اس سے زیادہ کامل تر اور حسین تر ہے۔

رحیم و کریم خدا کے عطا کردہ فیوض و برکات سب کے سب عقل و دانش کے حرمون منت ہیں۔ ایک اور موقع پر حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص بیچ وقتہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، زلیفہ حج ادا کرے اور دوسرے نیک عمل کرے ان کا اجر اس کو نہیں ملے گا۔ مگر اس معیار پر کہ اس شخص نے اعمال و افعال کی کارکردگی میں خدا کی عطا کردہ عقل و فہم سے کیسے اور کیونکر کام لیا ہے۔ گویا اعمال کے اجر کا مدار عقل کے استعمال پر ہے۔ یہی ہے حضرت علیؑ علیہ السلام کا اس بارے میں ایک پر حکمت قول ہے۔ اسلامی تعلیمات اس قول کے عین مطابق ہیں۔ وہ قول یہ ہے کہ "عقل سے کام لو اور خیر کو پتے ہاندھو"۔ ایسے لوگ جو کسی معاملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ فہم و ادراک سے کام نہیں لیتے وہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی رو سے کتابوں سے لڑے ہوئے گدھے کی مثال ہیں۔

واجب التعلیم خلیفہ الرسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم فاضل ہستی کے مالک ہیں آپ کا ایک قول ہے دنیا ظلمت ہے اور علم نور ہے علم بلا صداقت عمل ہے۔

مسلمان مانتے ہیں کہ حق، اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اور آسان آفتاب اسلام کی درخشاں روشنی میں علم و عقل سے کام لے کر حاصل حق ہو سکتا ہے۔ مگر تحصیل علم اور علم کے ذریعہ حق تک پہنچنے کے لئے ذہنی صلاحیتوں سے کام لینا نہایت ضروری ہے

حضور انور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ ہی دنوں پہلے اس موضوع پر بصیرت افروز ارشاد تلقین فرمایا تھا۔

خدا کے غزوجل نے اپنی ابدی رحمت و شفقت کے تحت جن علیل القلوب ہستیوں کو حق و صداقت، اور نیکی و راستی سے بہرہ ور کر کے دنیا کی رہبری کے لئے مبعوث فرمایا تھا۔ ان میں کی انہری اور عظیم ترین ہستی رسالت مآب، اپنا سر مقدس حضرت عائشہ کے گھٹنے مبارک پر رکھے ہوئے تھی، مومنین مدینہ پیر و جوان، مرد و زن، بچے بچیاں سب کے سب دردمندی اور دل سوزی کی تصویر بنے۔ شمع رسالت کی چٹائی کے گرد مثل پروانہ جمع ہو گئے تھے۔ ان سب کا سراپا رو رہا تھا ان کی آنکھیں نمسدا رہیں۔ رنج و غم کا یہ ظالم تھا کہ اسلام کے شجاع و دلیر مجاہدوں کی آنکھیں جو آنسوؤں کے نام تک سے نا آشنا تھیں۔ اب فرزند انوہا رہی تھیں، رخسار شہر ابور تھے۔ آج ان کا تامل ان کا محبوب مرشد، ان کا مددگار پشوا، ان کا مخلص حبیب اور محبوب رسول، ان کو بچھوڑ کر تنہا جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان کی روح تڑپ رہی تھی کہ آج ان کا وہ محسن راجع مفارقت دیکھے جو ہے جس ان کو جہالت کی گھٹاؤپ تاریکی سے اور توہمات کی رنج فرسا ظلمت سے حق و صداقت کا نور دکھلا کر اسلام کی پڑامن راوی میں لے آیا تھا۔ جہاں ان کے لئے عافیت ہی عافیت تھی کوئی تعجب نہیں کہ آج ان احسان مندوں کی آنکھیں ٹسکبار تھیں۔ اصالت دل انسروہ اور یاس و تلاش کی آماجگاہ تھے۔

رنج و غم، یاس و تلاش کے پیر ہول عالم میں ایک شیدائی بھرائی ہوئی آواز میں بول اٹھا۔ یا رسول اللہ! آپ تو بیمار ہیں رحلت فرما جائیں تو ہمارا کیا ہو۔ ہم کدھر جائیں، کیا کریں

”تمہارے پاس قرآن موجود ہے“ — ارشاد ہوا۔

یا رسول اللہ بجا ارشاد، مگر پیارے حبیب، قرآن کریم کے ہوتے ہوئے بھی ہم اکثر پیشتر جناب آپ کے فرمان و ہدایت اور ارشاد و نصیحت کے محتاج رہے ہیں۔ اگر آپ ہم سے جدا ہو گئے۔ تو پھر ہمارا راہبر، حامی اور ناصح کون ہوگا؟

”میرے بعد میری سنت پر عمل کرنا“ حضور نے تلقین فرمائی

اور اگر یا رسول اللہ، آپ کی رحلت کے بعد ایسے واقعات اور حالات پیش ہوں جو آپ حضور کی حیات طیبہ میں ظہور پذیر نہ ہوئے ہوں تو پھر؟ ایسی صورت میں ہم اور ہمارے متبعین کے لئے کون سا طریق عمل ہوگا؟

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ آپ کے چہرے مبارک پر فرست رشتا تھی۔ آپ کی آنکھوں میں روحانی نور جلوہ گر تھا۔ آپ پر الہامی کیفیت طاری ہو گئی اور یوں گیا پوٹھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر فرد بشر کو ضمیر عطا کیا ہے جو اس کا تہیہ ہے۔ عقل رہبری و رہنمائی کے لئے دی ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر میری پروردگار نے عقل و ضمیر سے کام لوانا کے ذریعہ تم راہ صراط پر گامزن رہو گے اور کبھی نہیں بھٹکو گے۔



”میں مسلمان ہونے پر بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں۔ قوان حکیم نے مذہب اسلام کی جو تعلیمات دی ہیں ان کو بہت واضح و قطرت کے عین مطابق اور پوری طرح قابل عمل پاتا ہوں۔ مذہب اسلام میں خاص طور پر خواتین کو معزز درجہ دیا گیا ہے وہ عورتوں کے حق میں مساوات کا اس حد تک حاجی ہے کہ اس کی مثال دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی“

مسٹر ڈودی ایڈی۔ انگلینڈ

اسلام اور جدید طرز فکر

میں ڈاکٹر ہوں اور فرانسیسی کیتھولک خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے پیشہ کے صحیح انتخاب ہی نے مجھ میں کٹھن سائنٹیفک ذہنی ترقی پیدا کی ہے اس لیے مجھ میں متصرفانہ زندگی کا کوئی رنگ پیدا نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ میرا خدایا ایمان نہ تھا غریبوی عقیدوں اور اورسوں نے بالعموم اور کیتھولک تعلیمات نے بالخصوص مجھ میں خدا کی موجودگی کا احساس پیدا ہونے نہیں دیا۔ پس خدا کے متعلق جو احسانی تجسس نے مجھے اٹلیٹ کے عقیدہ کو اور اس سبب سے یسوع مسیح کی الہیت کو ماننے سے روک رکھا۔

اسلام کو نہ جاننے کے باوجود میں کلمہ طیبہ کے جزو اول لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور قرآن کریم کی سورہ اخلاص قل هو اللہ احدہ اللہ الصمدہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احدہ پر پہلے سے ایمان رکھتا تھا۔ چنانچہ پہلے پہل میں اس الہیاتی تصور کی باہمی موافقت کی وجہ سے اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ دیگر وجوہ نے بھی مجھے قبولیت اسلام پر آمادہ کیا۔

مثلاً میرا کیتھولک پادریوں کو ماننے سے انکار۔ وہ کم پیش دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کے بجائے وہ خود انسانی گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں مزید میں کیتھولک کی رسم و عشاے ربانی کو بہرہ قبول نہیں کر سکا اس میں پاک رسول کو یسوع مسیح کی نقش سمجھ کر کھایا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسم قدیم وحشی لوگوں کے ڈٹم عقیدہ (اس کی رسم سے مظاہر فطرت میں سے کوئی چیز خصوصاً کسی جانور یا پودا کو باطنی تعلق کے اعتقاد کی بنا پر زندہ بنایا جاتا ہے) کی رسم سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں سے ایک رسم اور رسم تحریم تھی۔ کہ ڈٹم کے وجود کو لوگ بڑا

مقدس، مطہر اور باحرمت گردانتے تھے اس کے مرنے کے بعد اس کی شخصیت کو اپنے اندر متماثل کرنے کی غرض سے اس کے گوشت پوست ہڈیوں اور خون کو کھاپی جا یا کرتے تھے۔ - عسائے ربانی کی رسم بھی اسی سے ملتی جلتی ہے دوسری بات جس کی وجہ سے میں عیسائیت سے دل برداشتہ ہوا وہ اس کی بدنی لہارت خصوصاً عبادت سے پہلے جسم کے پاک و صاف ہونے کے بارے میں بالکل ہی خاموشی ہے۔ اسے میں نے ہمیشہ خدا کی بڑی توہین اور بے حرمتی خیال کیا ہے کیونکہ اس خالق مالک ہستی نے ہمیں گوشت پوست کا جسم دیا ہے۔ روح کی لطافتیں بھی بخشی ہیں جنہیں ہم کسی بھی طور نظر انداز نہیں کر سکتے طبعی نوع انسان کی عضو یا قی زندگی بھارت دیا بگڑگی کی منتقلی ہے۔ اس معاملہ میں صرف اسلام ہی ایک مذہب نظر آتا ہے جو انسانی فطرت کے مطابق ہے میرے رجوع بہ اسلام ہونے کا بنیادی اور غالب باعث قرآن تھا۔ میں نے مسلمان ہوتے سے پہلے تنقیدی رنگ میں مغربی انداز فکر کے ساتھ اس کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ مسٹر ملک جینائی کی ایک عظیم الشان کتاب (LEPHENOMENECORANIQUE) پڑھ کر میں قرآن کے منجانب اللہ الہامی ہونے کا قائل تھا۔ اس کے چند صفحات میں خصوصاً ایک باب جس کا عنوان مولف موصوف نے ... (COINCIDENCES) میں بعض آیات کریمہ کو سامنے رکھ کر واضح کیا ہے کہ جس تعلیم کو آج کے ذہن محقق پیش کرتے ہیں۔ وہی تعلیم آج سے تیرہ سو سال قبل اسلام نے پیش کی ہے یہ امر میرے لئے احمق طور پر وجہ جواز بن گیا اور میں کلمہ طیبہ کے دوسرے حصہ محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا۔

۲۰ فروری ۱۹۵۳ء کو میں پیرس کی ایک مسجد میں جا کر مسلمان ہو گیا۔ اس مسجد کے مفتی صاحب نے میرا نام علی سلمان رکھ کر اپنے رجسٹر میں درج کر لیا۔

میں اس نئے مذہب کو پا کر بڑا مسرور ہوں۔ اور ایک بار پھر اعلان کرتا ہوں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ۔



اسلام ایک سچا مذہب ہے

۱۹۲۸ء میں ایک دن میرے بیٹے نے مدتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میں اب عیسائی رہنا نہیں چاہتا مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ امی جان! آپ بھی میرے ساتھ اس نئے مذہب میں شامل ہو جائیں اس دن پہلی دفعہ احساس ہوا کہ مجھے اسلام سے تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ کئی سال پہلے میری ملاقات برلن مسجد کے امام ڈاکٹر ابیں ایم عبداللہ سے ہوئی تھی انہوں نے مجھے اسلام سے روشناس کروایا تھا اور مجھ پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔

جب میری بیس سال کی نوجوان عمر تھی۔ اس وقت بھی عیسوی عقیدہ تثلیث کو میں غلط خیال کہتی تھی اور میرا اس پر ایمان نہیں تھا، اسلام کے مطالعہ کے بعد رسم اعتراف پوپ کا تقیس اور اس کے اعلیٰ اختیار کا اقبال اور پتھر وغیرہم عقائد کو بھی ترک کر دیا اور مسلمان ہو گئی۔

میرے آبا و اجداد بڑے مخلص ایاندار اور پاک منش لوگ تھے۔ میری پرورش خانقاہ میں ہوئی تھی اس لئے مجھے زندگی کے بارے میں مذہبی نکتے نظر درشتہ میں ملا تھا۔ اس کا تقاضہ تھا کہ میں کسی مذہبی نظام کو اختیار کر لو فی الحقیقہ میں بڑی خوش قسمت اور مطمئن تھی کہ میں نے مذہب اسلام میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ آج میں ایک سرور اور خوش و خرم دادی ہوں اور میرا ذرا سے بھی ایک پیکشی مسلمان ہے۔ فالحمد للہ
وہدیہ من یشاء الی صراط مستقیم ہ
وہ خدا جسے چاہے نیکی کے راستے کی ہدایت کرتا ہے..... د قرآن کریم

اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے

کلکتہ کی مشہور نو مسلم خاتون محترمہ جاوید بانو بیگم صاحبہ بنگال کے ایک ہندو راجہ کی صاحبزادی ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کی حامل ہیں۔ آپ نے کامل تحقیق کے بعد اسلام قبول کیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں بہت سی تکلیفیں برداشت کیں ہیں۔

برطان اسلام و مشیرگان دین میں ایک نو مسلمہ ہونے اور میں ایک سچے اور عالمگیر مذہب اسلام کو پاکر بہت ہی خوش ہوئی ہیں۔ میرا دل حقیقی خوشی سے لبریز ہے اور میری دلی آرزو ہے کہ میں ہر انسان سے جس تک میری رسائی ہو۔ اپنے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور تعلیمات کا ذکر کروں۔

شاید آپ میرے تجربات کا مختصر خلاصہ جو مجھے تحقیقات مذاہب کے سلسلہ میں پیش آئے۔ سیکرٹری ہو گئے ہیں ہندو والدین کے گھر پیدا ہوئی مگر ہماری پرورش عیسائی اثر کے ماتحت ہوئی۔ ہندو مذہب کی مطلقاً کوئی واقفیت نہ تھی۔

میں نے ۱۹۳۲ء میں مذہب اور فلسفہ کا وسیع طور پر مطالعہ شروع کیا۔ میں ان کا مطالعہ عالم فاضل بننے کے لئے نہ کرتی تھی، بلکہ تحقیق حق میرا نشا تھا میرے دل میں خدا تعالیٰ کے ایک مخلص اور صادق انسان کی طرح عبادت کرنے کی تڑپ پیدا ہوتی تھی۔ میں نے بد مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی کا سامنا ہوا۔ عیسائیت کی طرف جھکتے ہیں نہایت سیدھی سادھی معلوم ہوئی رجوع کیا۔ اس سلسلہ میں میں نے عیسائی پادریوں سے تعلق پیدا کیا۔ تاہم مجھے کوئی ایسا رستہ نہ ملا جس میں دور حاضرہ میں عیسائیت کی ایک مخلص اور صادق نوع بن سکوں۔ گویا بڑے بڑے دلائل میری

پیش کئے جاتے تھے۔ لیکن میں عیسائی گرجوں کی لاتعداد فرقہ بندیوں میں ذاتی اعتراض اور شخصی مطالب براری کے سوا اور کچھ نہ دیکھ سکی اور بالکل ناامید ہو کر دوبارہ ہندو مذہب اختیار کر لیا۔ کیونکہ ویدوں کا فلسفہ ایک ایسے وطن کے لئے جو مذاہب کی کمزوریوں سے مضطرب اور متنفر ہو چکا ہو۔ ایک کافی دانی سہارا تھا، لیکن ویدوں کی فلاسفی جہلاً ہندو کے لئے کیسے مفید ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جہاں تک عملی زندگی اور حقائق کا تعلق ہے۔ ہندو منوجی مہاراج کے زمانہ سے یکے آج ویدانت سے اتنے ہی دور ہیں جتنا کہ ان فرنی مخلوق سے دور ہے۔ جس کا پانڈنیں ہوتا عام طور پر خیال کیا جاتا ہے۔ ویدوں کی پیروی کے لئے ایک ہندو پر لازم ہے کہ یا تو وہ موجودہ ہندو مذہب سے کنارہ کش ہو جائے یا تمدنی مصلح بن کر ان بے شمار فرقوں میں ایک اور فرقہ کا اضافہ کرے جس کے اندر زمانہ حال میں ہندوستان ڈوبا جا رہا ہے۔ ہندوؤں کی حالت قابلِ رحم ہے۔ بڑی بڑی خامیاں اور نقائص روز افزوں ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ ان پر دوسرے مذاہب کے پیر و تبصرہ نہیں کرتے بلکہ ہندو خود ان کو آشکارا کرتے رہتے ہیں۔ گاندھی مہاراج ہر سبکوں کے لئے اپنی زندگی کو مہلک خطروں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ مجلس قوانین کے ذریعہ بیوگان کی شادی کو ناجائز کیوں قرار دیا گیا ہے؟ سلطنت برطانیہ کے ایک قانون کے تحت رسم سستی کو کیوں روکا گیا؟ تمام تمدنی اصلاحات کو مجالس قوانین ساز کے ذریعہ کیوں دائرہ عمل میں لایا جاتا ہے؟ اس مذہب کا فائدہ ہی کیا۔ جو دماغی نشور نما اور تمدنی اصلاحات کو دوسری تمام برائیوں سے محفوظ رکھنے سے عاجز ہے۔

مندرجہ بالا حقائق نے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجھے سچے مذہب اسلام کو قبول کرنے میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی! اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں جس کے عقائد کو اس کے پیرو۔ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ صحیح تسلیم کرتے ہوں۔ سزا کار میں نے صداقت کو پایا ہے۔ میں بہت ہی خوش ہوں اور میری روح مطمئن ہے۔ کیا ہم آج کسی ایسی مذہبی یا تمدنی اصلاح کے دہانے میں ہیں جن کی تائید قرآن پاک سے نہیں ہو سکتی؟ کیا ہمارے آقا نادر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام روحانی رہنماؤں میں کی ایک ایسی شخصیت نہیں جنہوں نے آزادی اخوت و مساوات ایسے ندریں احوال بتائے ہیں جس کا ذریعہ ہم صراطِ مستقیم پر چل کر نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف اسلام ہی دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارا سچا رہنما ہو سکتا۔ کیا دنیا میں ہوا

اسلام کے کوئی ایسا مذہب ہے جس میں خدا کا نام عالمی زبان میں ہو۔ اللہ کا لفظ تمام مسلمانوں کے لئے خواہ وہ
چینی یا ہندی یکساں ہے۔ السلام علیکم تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی ہونے کا سبق دیتا ہے۔ خواہ وہ کسی قومیت اور کسی
ملک کے ہوں اور ان کی کوئی زبان ہو۔

کیا دنیا میں کسی مذہب کی الہامی کتاب اپنی نرا عقل اور فیاضی پر بنا کر لکھی جاسکتی ہے، سورۃ ہمارے قرآن کریم کے
جس میں ہر ایک مسلمان کو کہا گیا ہے کہ ان کے لئے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے
صرف اسلام ہی انصاف و انسانیت اور آزادی کا مذہب ہے جس کی مثال اور کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا
ہم کو اسلامی اصولوں کے ماتحت جائداد پر قابض ہونے کے لئے کونسل و قانون کے دروازے کھٹکھٹانے کی چنداں ضرورت
نہیں۔ وہ تمام قوانین جو اب سے ۱۳ سو سال قبل ہم مسلمانوں کے لئے اتارے گئے تھے آج بھی ویسے ہی مفید ہونے
کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اس زمانہ میں رکھتے تھے۔ آج کل مذاہب عالم جس مقصد کو اپنا نصب العین بنا
کر اخلاقی اور تمدنی معاشرتی فوائد کے لئے سرگرداں ہیں۔ وہ تمام فوائد مسلمانوں کے لئے جس دن سے قرآن مجید نازل ہوا
موجود ہیں۔

میرے لئے یہ بالکل ناممکن تھا کہ میں کسی ایسے مذہب میں رہتی جو ہماری موجودہ اندرونی زندگی
سے کوئی دوڑ ہو۔ میں کس طرح ایک مخلص ہندو یا عیسائی ہو سکتی تھی۔ جبکہ انسانی اصول اور تہذیب مجھے ان مذاہب
کی تعلیمات کے بالکل مخالف کھٹے لگتے ہیں؛ اگر کوئی مذہب ہم کو روزمرہ کی زندگی میں تسکین نہیں دے سکتا تو کیوں اس مذہب
کو مذہب کے نام سے موسوم کیا جائے۔ یقیناً ایسے تمام مذاہب ناکمل ہیں۔ اگر ان میں ذرا بھر بھی صداقت
موجود ہوتی۔ تو وہ بھی اب زمانہ سے مفقود ہوتی جاتی ہے میں نے اس صورت حال کو محسوس کیا اور اس پر غور کیا تو
میرے لئے اسلام قبول کرنا ضروری ہو گیا کیونکہ میں نے اس میں تمام صداقتیں دیکھی ہیں اسلام میں وہ ہر ایک بات
پائی جاتی ہے۔ جس کے دوسرے تمام مذاہب کے پیروں میں تلاش نہیں ہو سکتی۔ وہ سب کچھ موجود ہے جو کچھ وہ کرتے
ہیں۔ یا کرنا چاہتے ہیں۔ میں یقین واثق سے کہتی ہوں کہ کوئی دوسرا مذہب اس صلاح اور خوشی کا موجب نہیں ہو
سکتا۔ سورۃ اسلام کے جو الفاظ سچی محبت انسانیت کی سچی الفت اور سخاوت پر مبنی ہے۔ اسلام کو کسی

قسم کی اصلاح کی ضرورت نہیں۔ اسلام اپنے بنیادی اصول و حرانیت، حقانیت اور اخوت و مساوات پر
موقوف موثر مفید اور خطری ہیں۔



”جو شخص بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے
جلیل القدر پیغمبر کی حیات بمقدستہ آپ کے عظیم
کردار اور عمل کا مطالعہ کرتا ہے، یہ جانتا
ہے کہ پیغمبر اسلام نے کس طرح اپنی دعوت کو پیش کیا
اور کس طرح اپنی پاکیزہ زندگی بسر کی۔ اس کے لئے اس کے
بغیر چارہ ہی نہیں کہ وہ اس عظیم اور جلیل پیغمبر کی عظمت اور
عزت اپنے دل میں محسوس کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسولوں میں بڑی
ہی عزت والے رسول تھے۔ میں جو کچھ آپ کے سامنے
پیش کر رہی ہوں آپ میں سے اکثر اصحاب شاید اس
سے واقف بھی ہوں۔ لیکن میری تو یہ حالت ہے کہ
میں جب بھی آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتی ہوں تو میرے
دل میں عرب کے اس عظیم اور لائق نبی کی نبی عظمت اُجاگر
ہو جاتی ہے“

مسز زین بیٹ

زندہ جاوید مذہب

مجھے اپنے والدین کے حکم سے چرچ آف انگلینڈ کے قواعد کی سختی سے پابندی کرنا پڑتی تھی۔ سات سال تک میں گویا بنا رہا۔ ہمارا پادری ایک ایسا شخص تھا۔ جسکی میں اب بھی ہر طرح عزت کرتا ہوں۔ وہ راستباز، متحمل مزاج، خطا بخش، چشم پوشش اور صادق الوجد تھا۔ وہ کہیں کے زمانہ میں مذہب کی طرف سے مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچا۔ میری عبادت گویا خود کارانہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے بعد مجھے دنیا کی مصروفیات نے آن گھیرا اور بالکل نئے علاقے سے واسطہ پڑا۔ میرے بچپن کے ساتھی دہریہ اور رومن کیتھولک عیسائی تھے۔ اس لئے میرے اوران کے درمیان روزمرہ مباشرت کا سلسلہ گرم رہتا۔ ان مباشرتوں میں پہلی دفعہ میرے عقائد پر حملہ ہوا۔ چونکہ اس میں بہت حد تک متزلزل ہو گیا تھا۔ اس لئے میں اپنے عقائد کے اعتراضات کو رد کرنے کے لئے... تحقیق و دریافت کرنی قسم کھالی۔

اس تردد اور پریشانی کی حالت میں میں نے پڑھنا اور مسیحی درسوں میں جانا شروع کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں کئی ایک بیان کردہ اقوال پر ایمان نہیں رکھتا، میں نے روم عیسائیت کی کتب کا مطالعہ کیا جس سے میرا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ میں مقدر معبر تمام مذہبی فرقوں میں جا کر ان کا مطالعہ کرتا۔ اور ان سب کی تواریخ اور تعلیمات پر غور کرتا رہا۔ اس جدوجہد میں صرف ایک فرقہ نے میری توجہ کو مبذول کیا۔ یہ یونیورسٹی چرچ کا فرقہ تھا۔ تاہم میں تعیث کا پہلے سے معتقد ہونے کے باعث ضد اور مٹ کی وجہ سے ابھی تک نہایت شوق، استعدادی بلکہ سرگرمی سے اسی آئندوں میں مطالعہ کرتا رہا کہ مجھے پختہ یقین ہو جائے کہ عیسائیت ہی ایک سچا مذہب ہے اور دوسرے مذاہب باطل ہیں۔ میں

ابھی تک دوسرے مذاہب اور فرقوں کے بالکل خلاف تھا اور میرے اس مطالعہ میں تنگ دل، کم ظرفی اور خشک مزاجی کا رنگ غالب تھا یا آخر میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ وہ مذہب جسے میں نے اپنی فطرت اور عقل کے مطابق ہونے کی وجہ سے اپنے دل میں جگہ دے رکھی ہے، عیسائی گروہوں کی تعلیم سے مختلف ہے۔ سب سے پہلے میں نے محسوس کیا کہ گروہوں نے مجھے تعلیم دی ہے کہ میں گناہ کی وجہ سے حمل میں آیا ہوں اور یوں انہوں نے میرے قریب ترین اور سب سے زیادہ پیارے رشتہ دار والدین کی سخت توہین کی ہے۔ میں نے پڑھا کہ وہ دونوں میری پیدائش کی خاطر ایک گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ بھلا میں اس بات کو مان کر ان کا بیٹا کہلا سکتا تھا؟ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ میں خود فطرتاً گنہگار ہوں۔ اور میں گناہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لئے میں اپنی فطرت کے لحاظ سے اپنی بہت اور طاقت کے مطابق بہت زیادہ گناہ کر کے اور ایک بہت بڑا گناہ گوارا بن کر خدا تعالیٰ کی رضا کا موجب ہوں گا۔ کیونکہ اس نے گناہ کو میری فطرت اور خلقت کا ایک لازمی جزو بنایا ہے۔ انسانی سرشت کا یہ نقشہ کس قدر اچھا، بھیاں تک اور مضحکہ خیز ہے، اور اس انداز فکر میں خالق حقیقی کی تدبیروں کی کیسی تحقیر و توہین کی گئی ہے؟ نیز خود اللہ تعالیٰ پر کتنا برا افترا اور کفر باندھا گیا ہے علاوہ ازیں مجھے یہ بھی بتلایا گیا کہ میں گناہ گار ہونے کی وجہ سے تاحل و دوزخ کا کُند ہوں جس کی تصویر اس میں کھولتا ہوا پانی اور گندھک کی وجہ سے، بڑی صیبا اور ڈراؤنی ہے۔ اگر میں پتھر لے کر بغیر مر جائوں تو میرے بچاؤ کی خواہ میں معصوم بچہ ہی کیوں نہ ہوں۔ کوئی صورت نہ ہوگی۔ اور میری روح فنا کر دی جائے گی۔ یہ عقیدہ اسلام کی اس تعلیم کے کس قدر خلاف ہے جو بعد میں مجھے معلوم ہوئی کہ تمام بچے فطرتاً مذہب کے خواہوں نے پیدا ہوتے ہیں پھر ان کے ماننا پانہیں عیسائی، یہودی ہندو یا مسلمان بنا لیتے ہیں“

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے عیسائیوں کے متذکرہ صدمہ اعتقاد کی کافی تردید ہو جاتی ہے۔
 مجھے بائبل کی مختلف آیات سے معلوم ہوا کہ خداوند خدا، رحیم و کریم خالق نہیں بلکہ ایک خونخوار دیو ہے جس نے ایک ادنیٰ اور حقیر انسان کی عامہ خواہشات کو پورا کرنے کے لئے تمام انسانیت کو تباہ کر دینا چاہا۔ مجھے یہ اعتقاد رکھنے کی تلقین کی گئی کہ خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کرنے کے بعد یہاں تک اس کام کو بگاڑا کہ اس نے یہودیوں کے سوائے تمام دوسری قوموں کو تباہ کر دینا چاہا۔ اسی خیال کی بنا پر یہ فرضی حکم بھی اس کی پاک ذات

کی طرف منسوب کیا گیا۔ جو گویا اس نے یہودیوں کی برگزیدہ قوم کو دیا۔ اور ان کو کہا کہ نبی نوح انسان میں سے ہر ایک فرد کو قتل کر دو۔ اور ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ رہنے دو۔ کیا میں اس بات پر ایمان لا سکتا تھا؟ برگزیدہ نہیں، کبھی نہیں! خدا ان لوگوں کو معاف کرے جو اس کی طرح سچو کرتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار خمیر دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجے مگر انسان جنسی واقع ہوا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبی نوح انسان کو ابدی جہنم میں دھکیل دیا چاہا جس سے نجات کی صرف ایک ہی شرط تھی جو وہاں لڑائی کی منتقلی کفر کفر نبی اللہ خداوند کے اکلوتے بیٹے نے نسل انسانی کی حمایت کی اور خداوند باپ اس پر فرما دیا کہ اس کا بیٹا بطور قربانی ہلاک ہو جائے اور اس کے معصوم کن حصوں پر تمام دنیا کے گناہوں کا بوجھ لاد دیا جائے۔ اس عقیدہ سے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ خداوند اپنے انسانیت پرست بے قصور بیٹے کے قتل کا مجرم ہے مگر اس نے اس جرم کا ارتکاب کیوں کیا؟ صرف اپنے اندھا دھند غصے و غضب کی آگ کو مستعد کرتے کے لئے!

اس عقیدہ کے بانیوں نے خدا کو ظالم قاتل کی صورت میں پیش کیا ہے۔ وہ نہایت سخت کفر کے مرتکب ہوئے ہیں۔ پھر یہ عقیدہ کس قدر جہالت پر مبنی ہے کہ خداوند خدا کا اکلوتا فرزند یسوع مسیح اس شرط پر کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا کہ وہ اس کے نجات دہندہ خون پر ایمان لائے، اور اس وقت یہ گیت گایا جاتا ہے کہ برہ کے خون سے پاک کیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی پادری یا کسی کفارہ کے معتقد نے کسی مقتول میں جا کر خون سے غسل کیا ہو۔ اور پھر وہ پاک ہو گیا ہو۔ یہ بہت ہی قابل نفرت خیال ہے اور جہالت کی یادگار جو بیسیوں صدی کے دل و دماغ کے نمایاں نشان نہیں ہیں۔ سمجھ سکتا کہ آج کا پڑھا لکھا انسان اس پر کیوں کر ایمان لا سکتا ہے۔ پھر یہ عقیدہ کہ باری تعالیٰ نے کوئی بیٹا اپنا متبی بنایا۔ اور اس کو انسانی خواہشات عطا کیں۔ یہ بھی میرے خیال میں ایک کلمہ کفر ہے۔ یہ کہ اگر کوئی شخص اس بناوٹی عقیدہ پر ایمان نہ لائے تو اسے مورد تعزیر خیال کیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ خدا کی ذات اقدس کا یہ تصور کس قدر ہولناک ہے! حالانکہ آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہی کہا گیا ہے۔ مگر عیاشی ہم سے ہی منوانا چاہتے ہیں۔ کہ یسوع ہی اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ان اعتقادات کی رو سے خدا تعالیٰ کو یا نعوذ باللہ اپنے بیٹے اور نسل انسانی کا سخت ترین دشمن ٹھہرتا ہے۔ انسان کو فطرتاً گنہگار پیدا کرنا خود اسے بھی ہوا اور موس کا ہی شکار ثابت کرتا ہے

اور وہ تو ایک ایسا سخت سببِ نظر ثابت ہوتا ہے جو انسان کو بھی کبھی ہی میسر آئی ہوگی۔ کیونکہ ایسا کون باپ ہوگا جو اپنے عقیدہ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے جان بوجھ کر اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دے۔ میں نے دیکھا کہ جس وقت عیسائی مذہب بڑے عروج پر تھا۔ تو ہر شخص کو جو اپنی تسلی اور اطمینان کی خاطر ان عقائد پر جرح قدح کرنا..... یا تو اسے ناسک نذر کر دیا جاتا۔ یا قید کر دیا جاتا۔ بائبل کی تاریخ اور واقعات تدوین سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ نامعلوم الہام مصنفین کا مجموعہ ہے۔ متی، مرقس، لوقا اور یوحنا وغیرہ ان اناجیل کے مصنف نہیں جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بائبل میں بہت کچھ دستبرد اور تحریف و تبدیل ان چند سالوں میں بھی عمل میں آیا ہے۔ مزید برآں عیسائی مذہب کبھی بھی تحمل بردباری اور برداشت کا..... مذہب ثابت نہیں ہوا۔ جو نہی شہنشاہِ فلسطین نے اس مذہب کو قبول کیا اس وقت سے ہم دیکھتے ہیں کہ تثلیث پرستیوں نے غیر سچوں کو نہایت بے رحمی سے دکھ دینے شروع کر دیئے۔ الغرض جب کبھی اس مذہب کو عروج حاصل ہوا ہے تو جس کسی نے اس کے ساتھ اختلاف رائے کے اظہار کی جرأت کی تو اسے سخت مصائب کے ٹکڑے میں کھینچا گیا ہے۔

متذکرہ بالا تمام باتوں نے میرے ذہن میں یہ بات بھڑادی کہ کلیسا کو پیشتر اس کے کہ وہ یسوع اور اس کی تعلیم پر کچھ بتائے۔ بائبل کے ان اصلی نسخوں کو تلاش کرنا چاہیے جو فی الحقیقت ان ایام کے پیغمبروں اور مرسلین کے تصنیف کردہ ہیں۔ ورنہ عیسائیت ایک نامعلوم اور غیر معتبر کتاب کو یسوع کے مشن کی شہادت میں پیش کرنے کی وجہ سے ایک غلط مذہب ثابت ہوتا ہے چنانچہ یہ مذہب اسلام سے کس قدر متخالف ہے جس کی پاک کتاب قرآن مجید انسانی دستبرد سے محفوظ ہے اور ابھی تک اپنی معجزاتی صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ قائم ہے۔

مجھے ڈبلیو سٹوارٹ راس جیسے زبردست مصنف سے جو صلاح الدین غازی اسلام کا اس قدر ملاح ہے کہ اس نے اپنا تالیفی نام بھی صلاح الدین رکھا۔ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اہل نے بیان کیا کہ اگر خدا موجود ہے تو وہ اس تصور سے جو عیسائیت نے پیش کیا ہے۔ بلند تر اٹلے تر ہے۔ اور اگر اس عالم میں کسی اعلیٰ طاقت (خداوند تعالیٰ) کی ہستی ممکن ہے (انہ میں اس سے کبھی منکر نہیں ہوا، تو وہ ان عاجزانہ اور غریبانہ تصویروں سے کہیں بڑھ کر ہوگی جو کہ بائبل نے پیش کی ہیں۔ پھر اگر خدا تعالیٰ کی شکل و صورت کے عین مطابق اس کا صحیح انعکاس

ہماری فطرت میں ہے تو وہ اعلیٰ نقشہ اسلام نے ہی ہمارے آگے پیش کیا ہے " اس زبردست اہل قلم کے فدیہ میں نے بد مذہب کا بھی مطالعہ کیا۔ مگر وہ مذہب مذہب نہیں بلکہ نرا خشک فلسفہ ہے، ایک شخص جو کنگول ہاتھ میں سے کو بدھ مت کے تنک کی طرح در بدر میسک مانگتا پھرے۔ یا یسوع کی طرح بیاح نوروی میں زندگی بسر کرے تو آج کا کون انسان اس پر عامل ہوگا۔ اگر یسوع دوبارہ دنیا میں آئے اور ویسے ہی ایک بھکاری کی زندگی اختیار کرے تو کیا دنیا اسے قبول کرے گی نہیں آج اسلام ایسے مذہب کی ضرورت ہے جو انسان کو زندگی کی ممتاز اور معزز راہیں دکھائے۔

مجھے ایک ایسے مذہب کی ضرورت تھی جو قابل عمل ہو۔ نئے فلسفہ، محض خیالات اور صرف خوابوں کا نڈ نہ ہو۔ نہ ہی اس کو اپنا کر دوسرے لوگوں سے قطع تعلق کو تا پڑے اور مجھے ایک ایسے دستور العمل کی ضرورت تھی جس پر عمل کر میں ہر آن دوسروں کے لئے اور نیز اپنے لئے مثل نمونہ بن جاؤں۔ میں نے اس غرض کو پورا کرنے کے لئے دوسرے مذہب کا بغور مطالعہ کیا۔ بالآخر مجھے معلوم ہوا کہ میرے اپنے خیالات جو ایک عقیدہ کی صورت میرے ذہن نشین ہو گئے تھے۔ ہو ہو اسلام میں پائے جاتے ہیں۔ میں اس نتیجہ پر اس وقت پہنچا تھا جبکہ ابھی تک میں نے کسی مسلمان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب پڑھی تھی۔ تب کسی مسلمان سے ملاقات کا موقعہ پیش آیا تھا۔ میں نے اسلام پر عیسائی مصنفین کے متواتر حملوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے سوال کے کہ میرے لوگ اسلام سے اتنے خائف کیوں ہیں؟ اسلام نے وہ کوئی تعظیم دی ہے جس کی وجہ سے وہ کلیسا کا ایک زبردست دشمن ٹھہرا ہے " میں نے جہاں تک ہو سکا تمام کتابیں چھتیا لیں۔ مگر وہ سب کچھ سب عیسائی محققین کی لکھی ہوئی تھیں۔ انہی کتابوں سے اپنے دل میں اصل معاملہ کو جان کر لینے کے بعد، دس سال قبل اس حقیقت پر پہنچ گیا کہ اسلام برحق دین ہے اور پہلا مسلمان جس سے مجھے ملنے کا شرف حاصل ہوا، ڈاکٹر عبداللہ المامون بہروردی اس نے خود بھی عیسائیت سے توبہ تائب ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے ساتھ گفتگو کرنے اور نہایت تحقیق و تدقیق کے بعد میرے تمام شکوک رفع ہو گئے اور میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔

اسلام عروج اور ترقی کی طرف لے جانے والا مذہب ہے۔ اس لئے دنیا کو بھی اس عروج کی طرف جانا اور روشن ضمیر ہونا چاہیے تا وہ پاک و صاف اہل عالمے کو داری ملک جا، دوسری طرف عیسائیت کا جہاں تک

تعلق ہے اس نے ہمیشہ لوگوں کے فہم و ادراک کو کھینچنے اور دبانے کی کوشش کی ہے اور اسے آگے بڑھتے نہیں دیا۔ یسوع کی زندگی کا بھی ہمیں کوئی حال معلوم نہیں اس لئے وہ ہرگز ہمارا رہبر و رہنما نہیں ہو سکتے مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک دن کا سال ہم پر پورے طور پر منکشف ہے۔ تیرہ برس تک آپ کو طرح طرح کے دکھ اور امتیہن دی گئیں آپ نے صبر و استقلال اور برداشت کی عمدہ مثال قائم کی، پھر غالب اگر بھی ایسی حالت میں جبکہ آپ کے دشمن آپ کے قدموں میں پڑے تھے اور آپ کو اپنا انتقام لینے اور ان کو تباہ و برباد کر دینے کا پورا پورا اختیار حاصل تھا آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ کوئی شخص رحم دل اس وقت کہلا سکتا ہے جب اسے انتقام لینے کا پورا موقعہ اور طاقت میسر ہو۔ تو وہ معاف کرنے سے ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غرور کا احساس تک بھی نہ تھا۔ کیونکہ آپ بادشاہت کی حالت میں بھی خود اپنے گھر میں جھاڑو دیتے اور خود اپنی جوئیاں کو گانٹھتے تھے۔ آپ نے اپنا تمام مال و دولت محتاجوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں صرف کر دی اور آپ کی زندگی پیدائش سے لے کر مرنے تک دنیا کے لئے نمونہ تھی۔ اسلام نے ہمیں ایثار اور نیک کاموں کی ہدایت کی ہے۔ یہی وہ پاکیزہ شعارہ ہیں جو ہمیں بہشت کا وارث بنا سکتے ہیں۔ نازبانی ایمان اور اقرار کسی کام کا نہیں۔ اگر اس کے ساتھ نیک اعمال نہ ہوں۔ خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور تمام انسانوں کی باہمی اخوت و برادری، اسلام کے ہمہ گیر بے نظیر اصول ہیں۔ یہ ایسا اصول ہے جس پر مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے مجھے مسلمان ہونے پر کبھی بھی کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اور نہ ہی میں خدا اور اپنے پاک رسول صلعم کا دامن پکڑنے پر کبھی شرمندہ ہونگا

اشھدان کا اللہ الا اللہ دا شھدان محمد رسول اللہ



اسلامی عبادت و ریاضت میں انتہائی خضوع و خشوع اور سادگی و خلوص کو دیکھ کر مجھ میں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ اسلام دنیا کا اعلیٰ ترین مذاہب ہے۔


مسٹر ایچر بیچنسن۔ ہملٹن۔ انگلستان

عقل اور سری دین

ابتداءً یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں اسلام سے متعارف نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی مبادیات کے مطابق ایک مسلمان کی حیثیت سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں مسلمان ہونے لگی ہوں۔ میں احوال عمری میں کثیر وجہ کی بنا پر عیسوی عقیدوں کو چھوڑ چکی تھی۔ غالب وجہ یہ تھی کہ ان عقیدوں کے سمجھنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ جب کبھی میں بڑے سے بڑے نام نہاد روحانی پیشوا سے لیکر عامی شخص سے ان عقیدوں کا جواز اور عمل طلب کرتی۔ تو مجھے یہی ایک جواب ملتا کہ عقائد دین پر جرح قرح جائز نہیں۔ مذہب کو عقل کے ناقص سپانوں پر مانپنا گناہ ہے محض ان پر ایمان لانا ہی کافی ہے۔ اس وقت مجھ میں یہ کہنے کی جرات نہیں تھی کہ وہ باتیں جو عقل کے سرسرخ خلاف ہوں کیسے تسلیم کی جائیں

میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں، اس قسم کے خلاف عقل معتقدات کو نہیں مانتے۔ یہی وجہ تھی کہ میں رومن کیتھولک چرچ اور اس کے عقائد کو چھوڑ کر ایک خدائے برحق پر ایمان لے آئی اس خدا پر جس کو ماننا کلیسا کے تین خداؤں کو ماننے کی نسبت آسان تر ہے۔ زندگی کے باقی میں مسیحی مذہب کے معتقدات کی تعلیمات کے مقابلہ میں میرے نقطہ ہائے نظر وسیع تر ہو گئے تھے اور میری زندگی کلیسائی تحکیمات ایسی قید و بند سے آزاد ہو گئی تھی جہاں کہیں میری نظر اٹھتی تو ہر جگہ قادر مطلق کی قدرت نمائی کا انکشاف ہوتا۔ پھیل پھیلوں، درختوں جانوروں کے تخلیقی عجائبات و غرائب دیکھ دیکھ کر محو حیرت رہتی۔ مسیحی تعلیمات کے برعکس اب میرے نزدیک تو زامیڈ بچہ ایک حسن، و اعجاز کی حیثیت رکھتا تھا مجھے

یا وہ ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی اور نوزائیدہ بچوں کو بغور تعمق دیکھتی اور سوچتی تھی کہ یہ سب بچے شرا و سب یاہ کاریوں کا مجسمہ ہیں مگر اب میرے لئے یہ پاکی اور پاکیزگی کے گہوارے ہیں۔ زندگی معصومیت کا نام ہے۔ ایک دن میری لڑکی ایک اسلامی کتاب گھر لے آئی۔ یہ بڑی دلچسپ تھی۔ بعد ازاں ہم نے اسلام کا مطالعہ کیا بہت سی کتابیں پڑھیں اور بہت جلد ہم پر یہ بات آشکارہ ہو گئی کہ فی الحقیقت اسلامی تعلیمات ہی ہمارے نظریات کے عین مطابق ہیں۔ جب میں عیسائی عقائد رکھتی تھی تو ہمیں یہ سمجھایا گیا تھا کہ اسلام بڑا مفسدہ کنجیر ہے۔ مگر اس کے مطالعہ کے بعد مجھے اکتفا ہوا کہ یہ مذہب بڑا ہی سنجیدہ معقول اور فطرتی ہے۔ اور مقورے عرصہ بعد میں نے مسلمانوں سے رابطہ پیدا کر لیا۔ جو جو مذہبی باتیں میری مسجد میں نہیں آیا کرتی تھیں۔ ان سے ان کے بارے میں گفت و شنید سے عملی طور پر مجھے بڑا فائدہ حاصل ہوا۔ اور مجھے اپنے سوالوں کے کافی ثنائی جواب مل گئے۔ یہی لوگوں سے سوال و جواب کرتے وقت مجھے جس محررہ اندیشگی سے واسطہ پڑتا تھا، وہ صورت حال یہاں نہیں تھی۔ اسلام کے بغور مطالعہ اور تحقیق طبع کے بعد ہم دونوں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنا نام محمودہ اور میری لڑکی نے رشیدہ رکھ لیا جب مجھ سے سوال کیا جاتا کہ اسلام کی کونسی چیز نے مجھے متاثر کیا ہے تو میرا جواب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تاثیر آفریں چیز اسلامی دعائیں ہیں۔ کیونکہ عیسائی مذہب میں بوسیدہ مسیح۔ اللہ سے اس لئے دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ دنیاوی نعمتیں راحتیں اور وظائف و لطائف میسر ہوں۔ مگر اسلام میں قادر مطلق کے حضور اس کی عطا کردہ فیض و برکات کے اظہار و تشکر میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ کیونکہ وہ خدا عظیم و خیر ہے ہماری منفعت کے لوازمات سے ہر کئی باخبر ہے اور وہ بن مانگے ہمیں اپنی ضروریات سے متمتع فرماتا ہے۔



اسلام کی رو سے مرد اور عورت بلا واسطہ مساوی طور پر قوب خداوندی حاصل کر سکتے ہیں۔ فطرت کا یہی تقاضا ہے۔
 مسزجے۔ سی۔ پیرا۔ سیلون

اسلام مادران مذہب کے

میں آٹھ جنوری سن ۱۹۰۰ء کو کوکرکو دپولینڈ میں پولستان کے ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوا میرے والد صاحب دہریہ تھے۔ مگر وہ رواداری کے قائل تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کو رومن کیتھولک مذہب میں تعلیم دلوانا پسند نہ کیا۔ پولستانی لوگوں کی اکثریت بالعموم اسی مذہب کی پیرو ہے میری والدہ بھی اسی مذہب کی قائل ہیں۔ اس طرح بچپن میں میرے دل میں مذہب کی حقیقی قدر و منزلت پیدا ہو گئی۔ اور میرے نزدیک انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔

میرے والدین کے گھر کا دوسرا نمایاں پہلو اس کا وسیع الشرب ماحول تھا۔ میرے والد اگرچہ ایک شاہی خاندان کے فرد تھے۔ مگر وہ عیاش طبع طبقہ کو برا سمجھتے۔ مطلق العنانی اور مشد بہ ارجحیت سے متفرق تھے اور امن عامہ کے لئے شرانگیز انقلاب پسند نہیں کرتے تھے جس ترقی کی بنیاد ماضی کی وراثتی روایات پر مبنی ہوں اس کی وہ بڑی تعریف کرتے تھے۔ وہ ایک میانہ روش انسان کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ اسی وجہ سے مجھ میں آزاد منش طبیعت پیدا ہو گئی۔ میں نے باطنی معاشرتی مسائل میں بڑی دلچسپی لی۔ معاشرتی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی زندگی کی مختلف الجھنوں کے حل تلاش کرنے کے لئے میں نے ہمیشہ میانہ روی سے کام لیا۔ میں نے یہ بات ہمیشہ محسوس کی ہے کہ انتہا پسندی مبنی نوع انسانی کی اکثریت کی فطرت کے خلاف ہے اور یہ کہ بالآخر صرف مصالحت اور میانہ روی ہی انسانیت کی حفاظت کر سکتی ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہ ایمان تھا کہ انسانی معاشرہ کی تنظیم ایک باضابطہ آزادی کے تحت قائم ہونا چاہیے۔ دوسرے معنوں میں تنظیم ایسے ضابطہ پر قائم ہو جو آزادی کی قدر کے مزید بڑی روایت اور ترقی میں ایک بن تعلق کا ہونا یعنی یہ کہ واقعی امور میں

روایات کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ کوئی تعجب نہیں ہے کہ میانہ روی کے جذبہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب میں ایک میانہ روش انسان بن گیا ہوں اور مجھے ترقی پسند منقول پرست آدمی کہا جاسکتا ہے۔ سولہ سالہ نوجوان کی حیثیت سے میں پاک معصوم رومن کیتھولک چرچ کے تعلیم کردہ عقائد کو حتمی طور پر چھوڑ بیٹھا تھا، تثلیث، اتحاد عسائی خدا اور بندے کے درمیان پادریوں کے توسل، پوپ کا تقدس اور طلسمی لفظوں اور اشارتوں کی تاثیر پر میں ایمان نہیں لاسکتا تھا۔ اپنے آپ کو حضرت مریم، اولیوں، آثاروں، تصویروں، مجسموں اور دوسری چیزوں کی پرستش کے قابل نہ بنا سکا۔ بالآخر میں نے اپنا مادری مذہب چھوڑ دیا۔ اور مذہبی دنیا سے کنارہ کش ہو گیا۔

دوسری جنگ عظیم مجھ میں مذہبی نشاۃ ثانیہ کا باعث ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں کھیل دیں۔ میں نے محسوس کیا کہ انسانیت کو نصب العین کی ضرورت ہے اگر بربادی اور استیصال سے اپنا بچاؤ منظور ہے۔ تو نصب العین کو کسی صورت چھوڑا نہیں جاسکتا۔ ایک طرف مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ صرف مذہب کا ہے جو دنیا کو کوئی نصب العین عطا کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ جس مذہب کے عقائد اور رسوم عقل کے خلاف ہوں ان سے عصر حاضر کا انسان ہرگز ہرگز مطمئن نہیں ہو سکتا۔


علاوہ ازیں میں نے محسوس کیا کہ انسانیت کی رہنمائی صرف ہی مذہب کر سکتا ہے جو شخصی اور اجتماعی زندگی کا کامل اور مکمل ضابطہ پیش کرتا ہو۔ سچائی کی تلاش اور اپنے روحانی مقام کی پہچان کے لئے میں نے مختلف مذاہب کے نقطہ ہائے نظریات کا مطالعہ کیا۔ کیکریت، فرقہ خالی، یونیورسٹیز، بدھ مت اور بھائی مذہب کی تاریخ اور اصول کا بااختصاص مطالعہ کیا۔ مگر کوئی مذہب مجھے اچھی طرح مطمئن نہ کر سکا۔

فی الآخر میں نے اسلام کا مطالعہ کیا۔ مجھے ایک چھوٹا سا کتابچہ ISLAMU ESPERAN TISTE

RIGAR DATA نامی ملا۔ جسے ایک انگریز مسلمان سٹوڈنٹ کون ایونمنٹ نے جگت بجا میں لکھا تھا۔ ۱۹۴۵ء کی فردی میں اس کتابچے کو پڑھ کر میرے کان صدائے حق کے لئے دا ہو گئے۔ پھر مجھے دار تبلیغ اسلام قاہرہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا کتابچہ (ISLAMU CHIES RELIGIO) اور جوائنٹ میگزین احمدیہ انجمن اٹلی

اصلام لاہور پاکستان کی طرف سے مولانا محمد علی صاحب کی بعض کتب و تفسیر قرآن انگریزی۔ وی وی پیمن آف اسلام، دی
یونگ تھالس آف پرافٹ محمد اور دی نیو ورلڈ آرڈر، ریویل ہوئیں۔

میں نے مذہب اسلام کو اپنی عقل اور ان خیالات کے مطابق پایا۔ جن کے زیر اثر میں نے بچپن سے تعلیم پائی
تھی۔ میں نے اسلام کو کامل اور مکمل ضابطہ حیات پایا۔ اس دنیا میں خدا کی حاکمیت اور بادشاہت کی طرف رہنمائی کرتا
ہے اور اس میں اتنی لچک ہے کہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق باسانی دھل جاتا ہے۔ ثقافت اور عمل
کے تھیوریٹکس ماہر کی حیثیت سے اسلام کے سماجی اصولوں خصوصاً مسئلہ زکوٰۃ، قانون وراثت، عورتوں
کا حاکمانہ جنگوں کی ممانعت، خلیفہ حج اور تعدد ازواج کے اصول وغیرہ سے میں بہت ہی متاثر ہوا ہوں۔ یہ اصول اشتراکی
اور سرمایہ داری نظامت کے مابین الامور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حکومتوں کے باہمی تنازعات کے معقول
حل پیش کرتی ہیں نظریہ امن پسندی کو تقویت دیتے، اور دنیا جہان کے تمام مسلمانوں میں خواہ وہ کسی حسب و نسب کی قوم
یا کسی ملک کے تمدنی اور معاشرتی طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں برادرانہ اتحاد و اتفاق کا باعث ہیں۔ عالمی قوانین
بڑے منظم اور حیاتیاتی و معاشرتی لحاظ سے قطعی مسلمہ ہیں۔ اور مغربی لوگوں کے جھوٹے اور سطحی اصول یک زدگی سے زیادہ
پائیدار اور حقیقی ہیں۔ اس اعلان اعتراف کے بعد خدا کی مہربانی کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت
فرمائی۔ فاسلمہ اللہ علی ذالک۔



”قرآن کریم بلاشبہ خدا نے بزرگ و بڑی طرف سے نسل انسانی
کی رہنمائی کے لئے نازل ہوا ہے۔“
ڈیوڈ عمر نکلسن

نیکی کا راستہ

بہت سے سال ہو گئے غالباً ربع صدی بیت گئی ہوگی کہ برما کے دریائوں میں چینی کشتی کے ذریعہ سفر کرنا میری روزانہ زندگی کا معمول تھا۔ اس کشتی کا مالک ایک مسلمان تھا۔ اس کا نام شیخ علی تھا وہ چٹاگانگ کا رہنے والا تھا۔ وہ اعلیٰ درجہ کا تیراک اور اپنے مذہب کے اصول درموم کا سختی سے پابند تھا۔ جس انتقامت کے ساتھ وہ عبادت و ریاضت کیا کرتا اور جو ظاہری اخلاص و اخلاق اس کے معمولات میں نظر آتے ان سب سے نہ شرمیری نظر میں اسکی عز و منزلت بڑھ گئی۔ بلکہ مجھے بھی اس مذہب کا شوق چڑایا جس کی نیک غلامی کا شرف اس جیسے انسان کو حاصل تھا۔ ہمارے ارگن برمی لوگ آباد تھے جو بد صورت کے پیرو تھے ان کو تقویٰ طہارت کا بڑا دعویٰ تھا جہاں تک میرا علم ہے غالباً وہ دنیا میں محیر ترین لوگ ہیں۔ مگر ان کے مذہبی آئین اور آداب میں کچھ نقص پایا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ مندروں میں جایا کرتے تھے۔ اور وہاں پر بڑی عمر کے لوگوں کو الٹی پالٹی مارے عقیدہ کے مطابق بھجن گاتے بھی دیکھا ہے ان کے عقائد جامہ و بے جان تھے اور شیخ علی اپنے عقیدوں سے بالکل مختلف تھے جب ہم دریا کی تنگ گز سگاہوں میں کشتی پیٹھے ہوتے تو میں شیخ علی سے باتیں کیا کرتا۔ کچھ کہتا کچھ سنتا۔ جس چیز نے اس کو پاکیزہ مذاق عطا کیا تھا اور اسے پاک باطن اور پاک باز بنا دیا تھا۔ وہ اس کا اظہار دوسروں کے سامنے کھل کر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا وجود اسلام کی الہامی قوت کا پرتی تھا

میں نے اسلامی تعلیم و تار و پود کی کچھ کتب خریدیں۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور

آپ کے کارہائے نمایاں کا مطالعہ کیا۔ بعض اوقات اپنے مسلمان دوست سے بھی تبادلہ خیالات کرتا اور مذہبی امور پر بحث کی جاتی۔ پھر پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ میں دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح انڈین آرمی میں بھرتی ہو کر عراق عرب چلا گیا اور بدصورتوں کی دھرتی سے کوسوں دوران عربوں کی کہتی میں آ گیا۔ جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مسخوڑ ہوا۔ اور جن کی زبان مبارک میں قرآن کریم کا نزول ہوا تھا ان لوگوں کو کتنی بلوغت تھی۔ انھوں نے اسلام کی تعلیم و تحقیق کا اشتیاق بڑھ گیا۔ میں نے عربی زبان پڑھی اور ان لوگوں سے قریبی تعلق قائم کیا۔ جنہیں خدا تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں اتھار حاصل تھی۔ شکہ مجھے اچھی طرح علم ہو گیا کہ خدا کی ذات واقعی واحد اور برحق ہے۔ بچپن میں میری تربیت عقیدہ تثلیث پر ہوئی تھی۔ لیکن اب میرا نسخ عقیدہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ خدا تین نہیں بلکہ ایک۔ میں مسلمان ہونے کے لئے تیار ہو گیا۔ اس وقت میں نے گرجہ جانا بالکل بند کر دیا۔ اور مسجد میں کبھی کبھی جایا کرتا تھا۔ سرکاری طور پر پولیس آفیسر کی حیثیت سے بھی جانا پڑتا تھا۔ ۱۹۳۶ء اور ۱۹۴۲ء کے دوران میں فلسطین میں تھا۔ تو کھلے بندوں اسلام جو عرصہ سے میرا من پسند مذہب تھا قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔

یہ ایک بڑا ہی اہم دن تھا جب میں نے میرے وطن شہر کے محکمہ شریعت میں مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ میں اس وقت جرنل رٹاف آفیسر کے عہدہ پر متعین تھا۔ اس اعلان سے میری اقتصادی زندگی میں خوشگوار رد عمل پیدا ہوا۔ اس وقت سے پاکستان میں مقیم ہوں اور بفضلہ تعالیٰ اسلام کا پابند ہوں۔ اسلام پچاس کروڑ افراد کی عظیم ترین برادری ہے۔ اس سے تعلق رکھنا گویا خدا سے تعلق رکھنا ہے۔ موجودہ سالوں میں اگر میں اسلام کی سقا کا اعلان اپنے وجود اور اپنے قلم کے ذریعہ کرنے کے قابل ہو ہوں تو اس نیک اور سیدھے سادھے شیخ علی کی وجہ سے جس کا تقدیری اور طہارت مجھے خدا اور اسلام کی طرف لے آیا۔ دراصل ہم سب مسلمان پیدا ہوئے ہیں مگر میں انسانی کمزوری کی وجہ سے سیدھے سادھے راستے سے بھٹک گیا تھا۔ میرے وجود اور قلم کی نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس پاک طینت انسان کا نام بھی زندہ رہے گا۔

میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آج میں عظیم انسان اسلامی برادری کا دکن ہوں۔ جب میں خدا کے حضور دعا کرتا ہوں تو ہمیشہ اس غریب ملاح کی سعید روح کی مغفرت کے لئے بھی التجا کیا کرتا ہوں جس کے نفس قدسی نے

اس کے سچے دین کے سرشبیہ یعنی خدا تعالیٰ کو پانے کی مجھے تڑپ دی

اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی معبود نہیں

وہ زندہ خدا ہے ازللی ابدی خدا ہے۔

زائے تکان ہوتی ہے نہ اس پر زینر غالب آتی ہے۔

جنت اور دوزخ میں جو کچھ بھی ہے اس ایک خدا کی ملکیت ہے۔

تمام معیروں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں

جو کچھ زمین میں ہے، ہوا اور پانی میں ہے اس کو دیکھنے والا ہے

بہاروں کا ماخذ ہے اور ہواؤں کا چلانے والا ہے

سمندر کی موجیں حباب اور لہریں اس کے علم میں ہے۔



”میں نے قدیم و جدید تمام مذاہب کا مطالعہ کیا۔ ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ ان

پر گہری تنقید کی۔ اور آہستہ آہستہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ اسلام برحق دین ہے

اور کہ قرآن کریم میں روح کی نشوونما، تہذیب و تربیت اور ارتقاء کے لئے

سب کچھ موجود ہے۔ مسجد کنتی حسین و سادہ ہوتی ہے۔ حج بیت اللہ کی تقریب

کتنی عملی ہوتی ہے۔ جہاں کوئی امیر، امیر ہوتا ہے نہ کوئی غریب غریب بلکہ بارگاہ

ایرادی میں سب کے سب برابر ہوتے ہیں رنگ و نسل، ذات پانت اور

ملک و ملت کا کوئی امتیاز نہیں۔ فطری دین کی ان قطری باتوں نے مجھے اپنی

طرف کھینچ لیا ہے“ کاؤنٹ ایڈورڈ گیو جا (اٹلی)

اعلانِ حق

محترم خواتین و حضرات! آج کا دن میری زندگی کی سب سے بڑی مسرت کا دن ہے۔ کہ میں یوم میلادِ نبی صلعم کی تقریب کے موقع پر قبولِ اسلام کے اعلان کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور آپ کے سامنے تمام تر عقل و شعور، سنجیدگی، اتنا نت اور خوشی و مسرت سے کہ رہا ہوں یہ محسوس کرتے ہوئے کہ آج میں دنیا جہان کے ہر رنگ و نسل کے لاکھوں انسانوں کی تنظیم برادری میں شامل ہو رہا ہوں۔ ان انسانوں کی برادری میں جو خدا سے واحد کی عبادت کرتے اور یکساں طور پر تمام انبیاء علیہم السلام کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔

میری پرورش ایک کٹر عیسائی گھرانے میں ہوئی میرے والد صاحب مقامی و اعظا اور والدہ صاحبہ کلیسا کی ایک سرگرم رکن تھیں۔ میں نے عقائد کے لحاظ سے ان کی عزت و توقیر ہمیشہ ملحوظ رکھی۔ اگرچہ میں جناب یسوع کی پند و نصائح سے متفق ہوں لیکن نظریہ تثلیث کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہو سکتا تھا۔ میرا یہ تردد مسیحی مذہب سے انحراف کا موجب ہوا اور مجھے اس سے انجمن اور تشویش پیدا ہو گئی۔

یہ پچھلی جنگِ عظیم سے کھوڑے دن پہلے ایک بزرگ شخص سے میری ملاقات ہوئی جن کی میں نے بڑی عزت کی۔ انہوں نے مذہب کی حقیقت مجھ پر واضح کی تفصیل و وضاحت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تفہیم اور شناسائی عطا کی۔ میں سپر پوسٹ پریچ میں شامل ہو گیا۔ کیونکہ یہاں ہی نوع انسان کو عالمگیر برادری کی تعلیم دی جاتی اور تمام رنگ و نسل اور مذہب کے لوگوں

کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہ تحریک مجھے زیادہ موزوں اور بہتر نظر آئی۔ دوکنگ میں
 رہائش اختیار کرنے سے میں وہاں کے سپر چولسٹ چرچ کا صدر بن گیا۔ اور اس
 بات پر زور دیتا رہا کہ وحدتِ نسل انسانی کی تعلیم جو تمام انبیاء علیہم السلام ہر زمانہ میں دیتے
 رہے ہیں کلیسا کی تعلیم کا جزو ہے۔ اسی دوران میں شاہجہان مسجد دوکنگ کے امام مسٹر
 ایس ایم طفیل سے ملاقات کا موقع ملا۔ ان سے درخواست کی کہ کلیسا کے ایک
 اجلاس میں اسلام پر تقریر کریں۔ انہوں نے میری دعوت کو بخوشی منظور کیا۔ تمام لوگ جنہوں
 نے ان کی تقریر سنی بے حد محظوظ ہوئے۔ اس وقت سے میں نے مسجد کی نمازوں میں کافی
 پابندی سے حاضری دی۔ مجھے بہت بڑے فوائد حاصل ہوئے۔ نمازوں کے
 علاوہ میں سوشل اجتماعات میں بھی شامل ہوتا رہا وہاں بہت سے دلچسپ اور دلکش لوگوں
 ملاقات ہوتی ہیں۔ مسٹر اور مسز طفیل بڑے ہی ہریان اور انتھک میزبان ہیں۔ وہ میرے
 مخلص اور ذاتی دوست بن گئے ہیں۔ میں نے ان سے مذہب سے متعلق پریشان کن
 سوالات کئے۔ مگر وہ ہمیشہ تحمل و برداشت اور عزت و تکریم سے پیش آتے رہے۔
 آپ بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں میری شمولیت جلد بازی کا فیصلہ نہیں
 بلکہ میں نے اس معاملہ میں ایک لمبے عرصہ تک بڑی متانت اور سنجیدگی سے غور و فکر کیا ہے۔ اور
 اس فیصلہ پر پہنچنے کے بعد میں نے قبولِ اسلام کا اعلان اپنے محترم دوست ڈاکٹر ایم ڈبلیو
 اے قریشی صاحب کی موجودگی میں کرنا پسند کیا۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سمجھایا اور محبت
 کا اظہار کیا ہے۔ میں انہیں اپنا حقیقی اور مخلص بھائی سمجھتا ہوں، ایسا ہی میرا خیال ہمارے میزبان
 ڈاکٹر ایس ایم جان صاحب کے متعلق ہے۔ وہ بڑے ہریان دوست ہیں۔
 میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں حتی الامکان کسی نہ کسی طریقے سے اسلام
 کی خدمت کروں اگر میں کسی خدمت دین کے کام آسکوں تو میرے لئے باعثِ فخر ہوگا۔

تلاشِ حق

جب لوگ اپنے پیدائشی مذہب کے بجائے کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ان کے رجحانات تموماً جذباتیت، فلسفیانہ خیالات یا معاشرتی امور پر مبنی ہوتے ہیں۔ میرا مزاج ایک ایسے مذہب کا مقتضی تھا جو فلسفیانہ اور معاشرتی تقاضوں کو پورا کر سکے۔ اس غرض کے پیش نظر میں نے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے دعاوی۔ ان کی کتب مقدسہ اور ان کے پیدار کردہ نمتاح کا دقیق نظر سے مطالعہ کرنے کا ہیتم کیا۔

میں یہودی اور کلیتوںک ماں باپ کے گھر پیدا ہوا۔ اور کلیساٹے انگلستان کی روایات میں تربیت حاصل کی۔ ان کا پورا تجربہ مجھے انگلش پبلک سکول کے روزانہ معمول کے مطابق ساہا سال کلیسا کی عبادت میں شرکت سے ہوا۔ میں نے جلد ہی یہودیت اور مسیحیت کے عقائد و رسمیا کا تقابل مطالعہ شروع کر دیا۔ میرے وجدان نے مجھے مسیح کے خدائی اوتار ہونے کو اور کفارہ کے عقائد کو رد کرنے پر مجبور کیا۔ اور میری عقل بائبل کے بہت سے پوچھوں مسائل سے تسلی پاسی۔ نہ اس رسمی و تقلیدی طرز استدلال میں جو خدا کے بارہ میں کلیساٹے انگلستان سے تعلق رکھنے والے عام عیساٹیوں میں میں نے دیکھے، ایک زندہ مذہب کی عدم موجودگی مجھے مطمئن کر سکی۔

یہودیت میں میں نے خدا تعالیٰ کا تصور کچھ وضاحت سے مگر متضاد و مختلف پایا ہے یہ ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنی اصلیت کو بہت حد تک قائم رکھا ہے۔ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور بہت سی باتوں کو مسترد کیا۔ اس مذہب کے تمام

انکان و آداب اور رسوم و رواج کی بجائے آدمی کے بعد و ترویج کا رویہ کے لئے کوئی وقت ہی نہیں ملتا۔ اس کے لائق ہی رسوم و آداب کے لئے دل و دماغ کو ہمہ تن متوجہ رکھنا پڑتا ہے۔ اور بس سے بڑی ترقی یہ ہے کہ یہ اقلیت کا مذہب ہے اور مختلف معاشرتی طبقات میں خلیج پیدا کرنے کا موجب ہے۔

میں نے کلیساٹے انگلستان اور یہودی مسیحوں کی عبادتوں کو دیکھا اور ان میں عملی حصہ بھی لیا ہے مگر ان کو قبول نہیں کیا۔ رو میں کیتھولک مذہب میں میں نے سمجھوئے دعاوی اور انسانی حکومت کی محکومی بہت زیادہ دیکھی۔ جن سے بالبداہت ایسی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو ان تم خدائی دعاوی سے مطابقت نہیں رکھتیں جو پوپ اور اس کے معتمدین کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ پھر ہندو فلسفی خصوصاً اپنشد اور ویدانت کی بت پرستانہ تعلیمات کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں بھی میں نے بہت کچھ دیکھا۔ بہت سی باتیں پسند کیں اور بہت سی باتوں کو رد کیا۔ معاشرتی برائیوں کا کوئی حل نہیں کیا گیا۔ پنڈتوں کی نسل کی بہت حمایت اور عزت کی جاتی ہے اور انہیں بیشمار حقوق و مراعات حاصل ہیں۔ لیکن غریب پنج اقوام کی طرف امداد کا ہاتھ کوئی نہیں بڑھاتا۔ ہندو فلسفہ کے مطابق اگر وہ عزت و بیچارگی اور دکھ و تکلیف کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرے۔ تو آئندہ زندگی میں ان کی حالت کچھ بہتر ہو جائے گی یہ لوگوں کو محکوم رکھنے کا آسان طریق ہے۔ معدوم ہوتا ہے۔ کہ یہ مذہب مطلق العنان پر مبنی نظام کو ختم دینا چاہتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ یہ نظام الہی نظام ہے۔

بڑھمت نے مجھے انسانی قلب اور اس کے اصول و قوانین کے متعلق بہت کچھ سکھایا۔ اور کائنات کے فلسفہ کو سمجھنے کا ایسا سیدھا سادہ طریق بتایا جیسا کہ کیمیائی تجربہ اس تفہیم کے لئے ضروری ہے کہ میں وہ قربانیاں کروں جو اس کے لئے ضروری ہیں، اس مذہب میں فانیات پات کے خلاف رد عمل پایا جاتا ہے۔

بُدھ مت میں ہندو مذہب کی طرح، میں نے کوئی اخلاقی تعلیم نہیں دیکھی۔ وہاں میں نے یہ سیکھا کہ
 فوق البشر قوی کس طرح حاصل کئے جاسکتے ہیں اور لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں تاہم میں بہت جلد سمجھ گیا کہ ان
 قوی کا ہوتا روحانیت کا کوئی ثبوت نہیں۔ بلکہ ان سے صرف کسی علم پر حاوی ہونے کی اہلیت ظاہر ہوتی
 ہے۔ عام کھیلوں سے بڑھکر اعلیٰ سطح پر دینی رنگ میں حصول تفریح کا مشغلہ ہے۔ اور
 جذبات کشی ضبط نفس اور تمام خواہشات پر قابو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا
 فلسفیوں نے بھی اسی قسم کے ذرائع اختیار کئے تھے۔ اس مذہب میں بھی
 موجودات عالم کے موجد و خالق کا کوئی نام نہیں۔ صرف انسان کو اپنی نجات کا ایک راستہ بتایا گیا ہے
 سالانہ بدھ کا نظریہ یہ تھا کہ دوسروں کی نجات کے لئے اپنی نجات قربان کر دو۔ اس نظریہ میں صرف
 حیوانی اور فطری قوی پر قابو پانا ہی نہ تھا بلکہ روحانیت بھی اس میں مضمر تھی۔ بدھ مت دنیا کو نظریاتی طور پر ہی
 بچانکتا تھا۔ جس طرح نالسمائی کی وہ بنیادی مستحیت جو بنگال میں مسیح کے اصل الفاظ پر مبنی ہے۔ اور جو
 الحاق اور غلط فہمیوں سے میرا ہے۔

تاہم اگر یہ عقائد نظری طور سے دنیا کو بچا سکتے تھے۔ تو عملی طور پر کیوں نہ بچا سکے۔ جو اب
 یہی ہے کہ یہ عقائد بھور کے لئے نہیں بلکہ چند لوگوں کے لئے ہیں۔ مسیحیت اور بدھ مت دونوں پر
 اگر ان کے بائبلوں کی تعلیم کے مطابق مڑ کر کیا جائے تو انہوں نے معاشرتی مسائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کہ
 انہیں ان مسائل میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یسوع اور ہما تبا بدھ دونوں نے خدا تعالیٰ کی جستجو اور تلاش کے لئے
 تمام مال و املاک کو ترک کرنے اور اپنی نفسانیت کو کھینچنے کی تعلیم دی تھی۔ براہی کا مقابلہ کرو۔ کل کی فکر
 نہ کرو، یا کاسہ گداٹی سے کام لو۔ میں ایسے لوگوں کا بہت ہی مداح ہوں۔ ایسی تعلیم کی پیروی کر سکتے ہیں
 مجھے یقین ہے۔ کہ یہ راہ انہیں خدا تک پہنچا سکتی ہو۔ مگر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ بھور اس راہ پر چل
 سکتے۔ نہ یہ کسی جاہل کسان کی قسمت بنا سکتی ہے اس لئے تمدن اور معاشرتی لحاظ سے
 اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک غیر معمولی طاقت رکھنے والے روحانی آدمی کے لئے تو یہ شہناز

راہ ہے مگر جمہور انسانیت کے لئے غیر مفید ہے

عرب ممالک میں رہتے ہوئے میں نے اسلام کو ہمیشہ
سطحی نظروں سے دیکھا۔ کبھی اس کا ایسا دقیق مطالعہ نہ کیا جیسا دوسرے مذہب کا کیا تھا۔
تاہم جب میں غور کرتا ہوں کہ اس مذہب سے میرا پہلا تعارف رادویل کے ترجمہ قرآن کے مطالعہ
یک ہی محدود درجہ تا اس مذہب کے متعلق زیادہ پُر جوش نہ ہونا چنداں حیرانی کا موجب نہیں۔
پچھلے دنوں لندن کے مشہور مشنری سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے بعد میں
محسوس کیا کہ بہت سے عرب ممالک میں غیر مسلموں میں اسلام کے متعلق دلچسپی پیدا کرنے اور
اس کی تعلیمات پھیلانے کے لئے کوئی کوشش نہیں کی جاتی جس سے انہیں اپنے ترات مل سکتے
عام طور پر اجنبیوں سے ایسا بے اعتمادی کا برتاؤ کیا جاتا ہے کہ نشر و اشاعت کے بجائے خفیہ
لکھنے کی مشرقی پالیسی کی حمایت صورت پر نظر آتی ہے۔

عقلندانہ رہنمائی کے تحت مجھے ایک مسلمان کا ترجمہ اور تفسیر قرآن اور بہت سال لڑ پھر
ہیسا کیا گیا۔ اس سے اسلام کی صحیح تصویر مجھے نظر آگئی۔ چنانچہ مجھے اس چیز کے حاصل کرنے میں کوئی
دیر نہ لگی جس کا میں ساہا سال سے متلاشی تھا۔

۱۹۴۵ء میں ایک دن نماز عید دیکھنے اور اس کے بعد کھانے میں شرکت کرنے سے مسجد
دوکنگ میں مسلمانوں کے ایک بین الاقوامی اجتماع کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہاں کوئی عرب گروہ
تھا۔ نہ کوئی قومیت تھی۔ بلکہ تمام دنیا کی اقوام اور باہمی میل جول لکھنے والی جماعتیں اور بیشتر رنگ
نسل کے لوگوں کا ایک نمایندہ اجتماع تھا۔ یہاں میری ملاقات ایک ترکی شہزادہ سے ہوئی۔ اور ان ہی
جو اتہائی غریب اور بے کس تھے۔ ان تمام لوگوں نے اکتھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کسی امیر کے طرز عمل
میں کمتر لوگوں کے ساتھ کوئی چھپی ہوئی بیزاری کا برتاؤ نہ تھا۔ مساوات کے احساس میں کوئی ایسی منافقت
نہیں پائی جاتی تھی۔ جو ادنیٰ درجہ کے آدمیوں کی بیزاری کا موجب ہو، جیسی کہ سفید رنگ کے لوگوں کے طرز

جمل میں ہمسایہ جلیشیوں سے بات چیت کرتے ہوئے نظر آتی ہے اس مجمع سے انگلی کی کسی گوشہ نشین کی اور کوئی ایسی ناواجب امارت پرستی نہ کی گئی۔ جس میں ریاکارانہ نیکی کے کھلیں میں غیر مذہب نہایت پائی جائے یہاں زندگی کے ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی گنجائش نہیں جن کے متعلق اسلامی تعلیمات میں مجھے ایسا کافی ثباتی جواب ملا جو کسی اور مذہب میں موجود نہیں ہے تاہم اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ کافی قوت و قرض سے دنیا کے ہر مذہب کا مطالعہ کرنے کے بعد اور انہیں قبول کرنے کا فیصلہ کئے بغیر اس اہم مذہب اسلام میں شامل ہو گیا۔

مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ مجھے مسلمان ہونے پر کیوں فخر ہے، یہ احساس تو صرف وقت اور تجربہ کے بعد ہی پیدا ہوتا تھا۔ میں نے ایک انگلش یونیورسٹی میں اسلامی ثقافت کا مطالعہ کیا اور پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ یہی اسلامی ثقافت تھی جس نے یورپ کو قرون مظلمہ سے نکالا تھا۔ تاریخ سے مجھے معلوم ہوا کہ دنیا کی کئی ہی بڑی بڑی اسلامی مملکتیں تھیں جو پورے سائنس کا کتب خانہ اور حصہ ایسا ہے جس کے اسلام کا ورثہ ہونے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ جب لوگ میرے پاس یہ بتانے کیلئے آتے کہ میں نے قدم نیچھے کی طرف ہٹایا ہے تو میں ان کی جہالت پر مسکرا دیا کرتا کیا دنیا اسلام کو صرف اس ایک ہی بات پر تولتی ہے کہ بالکل خارجی حالات اس کے انحطاط کا باعث ہوئے ہیں۔

کی مسیحیت کو ازمنہ وسطی کے محنتیوں اور سپانوزی مظالم کی وجہ سے ویشیانہ اور خون آشام مذہب کہنا چاہیے؟ کیا یہ صحیح ہے۔ کہ ہر زمانہ کے بڑے بڑے اعلیٰ پایہ کے لوگ اسلامی ثقافت کی قدر و منزلت محسوس کرتے رہے ہیں جس کے بہتے آبدار موتی مغرب کی نظروں سے اٹک اٹھتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے ممالک کا سفر کرنے کے بعد مجھے یہ دیکھنے کا اچھا موقع ملا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے پیروکار جینیوں کی جہان نواری اور بے لوث خدمت میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے معاشی لحاظ سے اسلامی ممالک نے ہی اپنی مغرب کی طرح غلبہ کر دیا کہ کوئی معاشی تھادم اور آدیش نہیں ہونے پاتی جو ہو کہ شریعت مسلمان ممالک میں اپنا سر نہیں اٹھا سکتی۔

اسلام — ازلی ابدی مذہب ہے

میں نے اپنی بیشتر زندگی رائل نیوی میں گزاری ہے۔ اور پہلی اور دوسری جنگ عظیم دونوں میں حصہ لیا ہے۔ آپ بیسویں صدی کے مضبوط اور مستعد اسلحہ جات کی مدد سے بھی سمندر میں قدرت کی بے انتہا قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہہ اور بکری طوفان ان قوتوں کے ادٹنے سے نمونے ہیں۔

دوران جنگ میں تو اور بھی بہت سے ضمنی خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئٹیز ریگولیشن اینڈ

ماریٹی انشورنس نامی کتاب ہمیشہ ہمارے زیر مطالعہ رہتی ہے۔ اس کتاب میں ہر صاحب و جوان کے فرائض

درج ہوتے ہیں۔ اس میں ترقیوں، چال چلن کے انعام، تنخواہ اور گڈارہ وغیرہ کی تمام تفصیلات درج ہوتی ہیں

نیوی مقابلہ کے خلاف کٹے گئے جرائم کی زیادہ سے زیادہ سزاؤں کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ ملازمت کی زندگی کے

ہر پہلو کے متعلق احکام و قواعد لکھے ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں مندرجہ ہدایات پر عمل کرنیکی وجہ سے مستعد و منضبط

خدمت کو سرانجام دینے کی بناء پر بہت سے لوگوں کو ایک کر دیا گیا ہے۔ نشاخی اور بے ادبی نہ ہوتے ہیں

کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کریم بھی اسی طرح کی ایک کتاب ہے۔ مگر اس کی سطح معیار بہت سی بلند ہے۔ اس میں

خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا پہان کے مرد، عورت اور بچہ ہر فرد بشر کے لئے احکام و ہدایات درج ہیں۔

میں نے گذشتہ گیارہ سال مالی کام کیا ہے۔ یہ کام بھی پہلے کام کی طرح ایسا ہی ہے اور یہاں بھی

توکل علی اللہ کا مظاہرہ ہوتا ہے جس طرح سمندر میں انسان خدائی قوتوں کے آگے مجبور محض ہے اسی

طرح پھروں۔ پھلوں کی نشوونما میں بھی انسان کی محض اپنی عقلی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہاں بھی خدا پر بھروسہ کرنا پڑتا

ہے۔ آپ اگر قوانین خداوندی کے مطابق کام کرتے ہیں تو خدا آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کے پھل پھول پھولتے پھلتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کے قوانین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں تو نتیجتاً پودے مرجھ جاتے ہیں گل مڑ جاتے ہیں اور مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں۔

مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قرآن کریم سچا کلام الہی ہے۔ اس کلام کو ساری دنیا تک پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے۔ اسلام کی دیوبی زندگی سے کامل مطابقت ہے۔ یہ سیدھا سادا کھرا اور سچا مذہب ہے اور ناقابل ایمان تفصیلات سے میرا ہے۔ جو کوئی عیسائی ملک کے عیسائی گھرانہ میں بحیثیت عیسائی پیدا ہوا اور بڑا ہوا ہو اس کے اندر عیسائی عقائد و آداب اس قدر گھر کر لیتے ہیں کہ اگر وہ شخص ان کو پھوڑنا چاہے تو اس کے لئے بڑی ترغیب و تحریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر اس معاملہ میں مجھے یہ واضح کر دینا چاہیے کہ میرے باطن میں بھی یہ ترغیب و تحریک پیدا ہوئی ہے۔ اگرچہ مجھے اپنے سوالوں کے جواب ملتے رہے لیکن کبھی بھی کسی شخص نے مجھے یہ مشورہ نہیں دیا تھا کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔

اسلام اور عیسائیت دونوں کے بنیادی عقائد ایک ہی ہیں۔ ہمیں آگے بھی ان کی تفصیلات دیکھنی چاہئیں۔ مارٹن لوتھر کا ایمان تھا کہ عیسائی کلیسا نے سچے لوگوں کی بہت سی رسوم و عقائد اپنالے ہیں۔ چنانچہ اس لحاظ سے اس نے عیسائی کلیسا کے خلاف بغاوت کر دی جس کے نتیجہ میں ریفرمیشن (تحریک اچھے دین) کا ناز ہوا اور پروٹسٹنٹ کلیسا کی بنیاد پڑی۔ جب ملکہ الزبتھا اول کے ملک کو ہسپانوی رومن کیتھولکوں نے دھکی دی اور پھر قدم پذیر اور ٹومن حکومت نے مرکزی یورپ کو لٹکا لٹکایا تو اس وقت ملکہ نے اسلام اور پروٹسٹنٹ مذہب کو ان دونوں کی بت پرستی کے خلاف مشترکہ دشمنی کی بنا پر ایک ہی خیال کیا تھا:

یہ غلط ہے کہ مارٹن لوتھر اس حقیقت سے بے خبر یا لاعلم تھا۔ تقریباً نو صدیوں پہلے الہی ارشاد ہدایت کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عیسائی مذہب کی بلکہ تمام اہل حجاز کی تجدید کی ان کو پاک اور مکمل کیا۔ مارٹن لوتھر قرآن پڑھا مواتھا اور تجدید و احیاء دین کے طریق کا تمام نقشہ اس کے سامنے تھا باوجود اس کے ریفرمیشن عیسائیت سے غیر معقول رسوم و عقائد منہم کرنے میں کامیاب نہ ہوئی اس کا اثر یہ ہوا کہ ظلم و ستم

اور عدم رواداری کے دور کا آغاز ہو گیا ہے آج بھی کسی حد تک موجود ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جب مسلمانوں کی عدالت نے انہیں دکھ دے دی تو اس وقت اسلام نے اپنی رواداری کا مظاہرہ کیا اور ترکوں نے تمہیں یہودیوں کو سپین میں پناہ دی۔

حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو کوہ سینا پر جو وہی احکام خدا کی طرف سے ملے تھے ہمیں ان کی اتباع کرنا ہے۔ پہلا حکم تھا کہ :-

”میں خداوند تیرا خدا ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا“

کفارہ کا عقیدہ اس حکم کے ذیل میں ہے۔ عیسائیت میں خداوند خدا کی رواداری کی نسبت یسوع مسیح سے رواداری کو گراں بہا سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ یوم حساب کو یسوع مسیح ہی شفاعت کریں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یسوع مسیح مجسم خدا ہیں، خدا کے متعلق میرا تصور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ بے حد ہرمان ہے۔ غصہ پرورد ہے۔ رحیم ہے اور عادل و منصف ہے۔ اس طرح انسان کامل یقین رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ مکمل برتاؤ ہوگا۔ اور کہ اس کی سزا کو کم کرنے کے لئے حالات و واقعات کو پیش نظر رکھا جائے گا۔

اس دنیا میں آپ کے اعمال و افعال کا ذمہ دار خود آپ کو خیال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی جگہ محتسب ہیں اور اپنے کسی ملازم کے حساب کتاب کا اندراج کر لیتے تو آپ کو قید خانہ بھیج دیا جاوے گا اور اگر آپ خمدار اور پھسلتی برک پر اپنی گاڑی کو بہت تیز چلائیں تو کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ اور اس حادثہ کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اور آپ ہی خود تادیب و تعزیر کے مورد ٹھہریں گے۔ اپنی غلط کاریوں پر کسی اور شخص کو ملزم ٹھہرانا بزدلی ہے۔ میں نہیں مانتا کہ ہم حقیر گناہگار کی حیثیت میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ کہ کچھ دار لوگ بجز اس صورت کے کہ انہیں کوئی غیر پسندیدہ شخص نہ مل جائے دوسروں کو خوش رکھنا پسند کرتے ہیں۔ بچے اپنے والدین اور مدرسہ کے اساتذہ کی پزد نصائح کی قدر کرتے ہیں۔ بالغ لوگوں کی جہاں اس کے ساتھی عزت و احترام کرتے ہیں وہاں وہ خود بھی اپنے افسر اعلیٰ کی ذمہ داریوں کے پیش نظر ان کی عزت و توقیر کرتے ہیں۔ وہ اپنے پڑوسیوں کی مدد کے خوش ہوتے ہیں۔

دوسری مثال منظم کھیلوں کی ہے۔ اگر کوئی کھلاڑی کھیل کی قانون شکنی کرتا ہے تو یقینی اس کو پینلٹی یعنی سزا دیتا ہے۔ ان امور کے پیش نظر کفارہ کا اصول بعید از عقل ہے جسے عام عقل انسانی تسلیم نہیں کر سکتی۔

دوسرا حکم یہ ہے کہ —

” تم اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا “

اور پھر کہا کہ —

” تو ان کے آگے سجدہ نہ کرتا اور نہ ان کی عبادت کرتا “

گرجوں اور کلیڈرل میں دیکھا جائے تو دماغ مورتیاں اور بت رکھے ہوئے ہیں جن کے سامنے بعض لوگ سچ سچ سجدہ کرتے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک سپیکر (دنیاوی) تاریخ کا تعلق ہے اس میں یسوع مسیح کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مجھے اسکول میں بائبل کا صرف متن ہی پڑھایا گیا تھا۔

نبی کریم ﷺ کی تاریخ اور کامیابی اور ہجرت انگریز سرحدت رفتار میں ہی اسلام پھیلاؤ اسکول

میں پڑھایا جاتا تھا۔ مگر اسلام کے روحانی پہلوؤں کی طرف کوئی نظر نہیں کی جاتی تھی۔

۱۹۱۹ء اور ۱۹۲۳ء کے درمیان میں نے ترکی کے بحری جہازوں میں ملازمت کرنی کہاں

تھیں اسلام سے کچھ دلچسپی ہو گئی۔ میں نے اسلام کے متعلق کچھ کتابیں خریدیں۔ بیشتر کتابوں میں اسلام کے خلاف

تعصب اور بغض بھرا ہوا تھا۔ گذشتہ تین صدیوں کے دوران خلفاء کا سلوک اور ترکی سیاستدانوں

اور سرکاری اہلکاروں کی دھاندلیوں اور بد عنوانیوں نے اسلام پر ناحوش گوارا اثر ڈالا۔ یہ دیکھ کر

مجھ پر خاص اثر ہوا اور میں نے اہمیت اہمیت اس معاملہ کو ختم ہی کر دیا۔ میں خدا پر پکا ایمان رکھتا تھا۔ مگر یہ

حرگت نہیں تھا ساکن اور جامد تھا۔

تقریباً ایک سال کا عرصہ ہوا کہ میں نے اس معاملہ میں دوبارہ تحقیق و دریافت شروع کی۔ میں

نے دو کنگ مسلم مشن کو خط لکھا۔ وہاں سے مجھے مسلمان مصنفین کی کچھ کتابیں بھیجی گئیں۔ ان کتابوں نے مغربی

لوگوں کی غلط فہمیوں، غلط بیانیوں اور افتراء کو کھول کر بیان کر دیا اور ان سے معلوم ہوا کہ یہ کس طرح پیدا ہو گئی تھیں۔ ان کتابوں کو پڑھ کر معلوم ہوا کہ اب اسلام کا دوبارہ احیاء ہو رہا ہے اور تعمیری تحریکیں موجودہ دور کے سائنٹیفک علم کی روشنی میں جس کے ساتھ اسلام پہلے ہی موافقت رکھتا ہے۔ اسلام کی ابتدائی اصلیت کو بڑی تیزی سے بحال کر رہی ہیں۔

پچھلے دنوں مدبرین اور مصنفین اپنے بیانات کو اخباروں میں شائع کرتے رہے ہیں جی میں انہوں نے اس امر کا اظہار کیا ہے کہ موجودہ مذہب فرسودہ اور بے کار ہے۔ ان رپورٹوں سے لوگوں کی بڑی تعداد کا تشکک ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ تشکک عیسائی مذہب کی روز افزوں پیچیدگیوں اور ابہام کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ دیندار رہنے کی کوشش میں یہ وہی غلطی کر رہے ہیں جو کہ مارٹن لوتھر نے کی تھی۔ اس تشکک اور لاعلمیت کا جواب اسلام اور صرف اسلام میں ہی ملے گا۔

الخبر میں اس لئے مسلمان ہوا ہوں کہ حکمرانی اور دیگر تمام لحاظ سے اسلام ہی ایک سچا اور حقیقی مذہب ہے۔ میرے اندر اس احساس سے تشکوک و خدشات ختم ہو جاتے ہیں کہ اسلام بلاشبہ صراطِ مستقیم ہے ہم خدا تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں یہ وہ راہ ہے کہ ہم اس پر زمانہ کے حوادث اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور نہ انسان کی عقل ناقص اس کی قطع دہریہ کر سکتی ہے یہ ازلی اور ابدی ہے۔



”میں گزشتہ دو تین سال سے اسلام کا نہایت ہی غور و تحقیق سے مطالعہ کرتا رہا ہوں اور مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اسلام ہی ایک سچا اور حقیقی مذہب ہے جسے اختیار کر کے انسان تمام اخلاقی کمزوریوں اور گناہوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔“

ابتدائی اصلیت کو کھول

عالمگیر پیغام

میری دس سال کی عمر تھی اور جیوش سنڈے اسکول میں پڑھتی تھی، یہودیوں اور عربوں کے درمیان تاریخی رشتہ کو جان کر میں بڑی متاثر ہوئی۔ مجھے یہودی کتب سے جو اسکول میں پڑھائی جاتی تھیں معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ کے بھی باپ ہیں اور یہودیوں کے بھی۔ انہی کتابوں میں میں نے پڑھا کہ صدیوں بعد قرونِ وسطیٰ کے یورپ میں جب مسیحی ظلم و ستم نے یہودیوں کی زندگی کا قافیہ تنگ کر دیا تھا تو مسلمانانِ سپین نے یہودیوں کو خوش آمدید کہا۔ اور انہیں پناہ دی۔ اور کہ عرب کی اسلامی تہذیب نے ہی عبرانی تہذیب کو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچایا تھا اس وقت میں صہیونیت کی حقیقی ماہیت سے قطعی بے خبر تھی اور اپنی سادگی کی وجہ سے خیال کرتی تھی۔ کہ یہودی لوگ اپنے سامی اجداد کے ساتھ مذہب اور مذہب کے قریبی رشتہ کو مضبوط کرنے کے لئے ہسپانیہ جا رہے ہیں اور مجھے یقین تھا کہ یہودی اور عرب باہم متحد ہو جائیں گے اور وہ مشرق وسطیٰ میں تہذیب کے ایک اور سنہری باب کی بنیاد ڈالیں گے۔

یہودی تاریخ کے مطالعہ سے گہری انسٹی کے باوجود سنڈے اسکول میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر انتہائی صدمہ ہوتا اور تکلیف پہنچتی کہ میرا کوئی بھی ہم جماعت اپنے مذہب پر بخیرگی سے قائم نہیں ہے۔ یہ یہودی معبد خانوں میں عبادت کے وقت بچوں نے اپنی دعا یہ کتب میں کاغذ کے ٹرنے رکھے ہوئے تھے جن پر مضحکہ خیز باتیں لکھی ہوتیں اور وہ مذہبی رسوم اور عقائد کا مذاق اڑاتے رہتے تھے وہ شور و غوغا اور ہلڑ مچا کرتے اور بد نظمی پیدا کرتے رہتے کہ استادوں کے لئے جماعتوں کا نظم و ضبط کو ناقص بنا کر مشکل ہو جاتا اسی دوران میں ٹیڈ نے انجیل سے حضرت مسیحؑ کی زندگی اور اس کی تعلیمات کا مطالعہ کیا۔ اور پریشان ہو گئی کہ یہودی ایک اتنے بڑے پیغمبر کا جس نے نہایت ہی پاک و صاف زندگی بسر کی کیوں انکار کرتے ہیں جتنا ان لوگوں کو عیسائیت سے بیز اور بغض و حسد تھا۔ اتنا وہ اپنے مذہب سے پیار و اہمیت نہیں رکھتے تھے۔

مذہبی لحاظ سے میرے گھر کی قضا بھی اتنی اچھوتی تھی۔ میرے والدین جیوش ماٹی بولی ڈیڑھ کے موقوفوں پر معبد قائم دیکھنے کے بجائے بچے اور میری بہن کو سیر و تفریح کے لئے باہر لے جاتے۔ جب میں نے اپنے والدین کو بتلایا کہ جیوش سنڈے اسکول میں میری بہت بڑی حالت ہے تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ وہاں کی لا اور یا تنظیم میں جسے "تحریک تہذیب اخلاق" کہتے ہیں داخلہ لوادیا اس تنظیم کی بنیاد تیسویں صدی کے آخر میں فیلکس لارڈ نے رکھی تھی۔ میں نے ایٹھویں کلاس اسکول میں پانچ سال تک تعلیم حاصل کی۔ اس تحریک نے مجھ پر اترو ڈالا اور میں اس کے خیالات سے متعلق ہو گئی۔ جوانی تک میں ہومینٹیک فلسفہ سے متاثر رہی۔ سینڈی اسکول سے گریجویشن کرنے کے بعد یونیورسٹی میں میں نے اسلام میں یہودیت کے کورس میں داخلہ لے لیا۔ میرے ایک پروفیسر رابی صاحب تھے۔ جو اپنے طالب علموں کو جو تمام کے تمام یہودی تھے فائل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اسلام کا منبع اور مخرج یہودی مذہب ہے۔ ہماری نصیاتی کتب میں قرآن کی تقریباً ہر آیت پر بحث کی گئی تھی اور بڑی کاوش اور دیدہ ریزی کے بعد ثابت کیا جاتا کہ یہ آیت توراہ کی تعلیم کی ماخذ اور ملخص ہے۔ تقریروں، فلموں اور ڈیٹیکٹو کے ذریعہ صیہونیت اور اسرائیلی حکومت کی تعریف و ستائش کے پل باندھے جاتے اور اس طرح اگرچہ اس کا مقصد اپنے طلباء کے سامنے اسلام پر یہودیت کی فوقیت ثابت کرنا ہوتا تھا۔ مگر مجھ پر اس کا اتنا اثر ہوا۔

جوہی میں نے توراہ اور قرآن کا بعد مطالعہ کیا تو دونوں میں ایک بین فرق نظر آیا۔ خدا کی محبوب اول و مختص قوم ہونے کے لحاظ سے توراہ کو یہودی قوم کی تاریخ سمجھنا چاہیے اس کے مقابلہ میں اگرچہ قرآن کریم ایک عربی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوا مگر اس کا پیغام عالمگیر اور ہمہ گیر ہے جس میں تمام نسل انسانی کی رشد و ہدایت اور فلاح و نصرت کے سامان موجود ہیں۔ جب میرے پروفیسر صاحب نے بتلایا کہ یہودیوں کا ملک فلسطین قدرتی طور پر ہمیشہ ہی یہودیت کا مرکزی پہلو رہا ہے تو میں نے خدا تعالیٰ کے بارہ میں اس قسم کے تنگ نظریہ کو ذرا چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کو یہ کہتا ہے کہ مشرق اور مغرب سب خدائے سے ہے اور ہر جا اور ہر کہیں وہ موجود ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے

کہ تمام دنیا قبضہ گاہ ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اسلام کا یہ نظریہ اپنے اندر کس قدر وسعت رکھتا ہے۔ یہودیت یہ سکھاتی ہے کہ صرف فلسطین میں ہی ایک یہودی کو چین و قراقرم اور آرام و سکون نصیب ہو سکتا ہے کسی اور جگہ نہیں لڑکھی اور جگہ رہنا قید و بند کی اور دوزخ کی زندگی ہے، یہ نظریہ بھی انسانی عقل شعور کو اپیل نہیں کر سکتا۔ جب میں اس حقیقت پر غور کرتی ہوں کہ حضرت موسیٰ کو مصر میں الہام ہوا۔ اور تاملوہ کے حصص موجودہ اوراق میں رسم کئے گئے ہیں۔ اور کچھ بہترین گیت سپانہ میں لکھے گئے ہیں۔ تو اس وقت پروفیسر صاحب موصوف کا یہ دعوئے باطل نظر آتا ہے کہ یہودی صرف فلسطین میں ہی رہ کر انسانی تمدن و تہذیب کی پروانخت کر سکتے ہیں۔

میں نے تمام بڑے بڑے مذاہب کے عقائد کا مطالعہ کیا ہے میں اس نتیجہ پر پہنچی ہوں کہ تمام بڑے بڑے مذاہب ابتداءً ایک ہی منبع اور مخرج سے نکلے ہیں مگر جوں جوں وقت گذرتا گیا ان میں تغیر و تبدل اور خرابیاں اور برائیاں پیدا ہوتی گئیں۔ اصنام پرستی تشہید کا تصور اور ہندو دھرم میں ذات پات کا نظام بدھ مت کا خصوصی جمود۔ کتیو شمس کی پرستش۔ پیدائشی گناہ کا عقیدہ، تثلیث۔ مسیح کی الوہیت کفارہ مسیح۔ یہودیوں کا خدا کی محبت قوم ہونے کا تصور یہ تمام کچھ انسان کی اپنی اختراع کا نتیجہ ہے۔ ان سے میں کنارہ کش ہوں۔ یہ غیر عقلی عقائد اسلام میں نہیں پائے جاتے میں نے آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ اسلام ہی ابتدائی اور اصلی مذہب ہے اس کی اپنی حقیقت اور اصیبت ایسی کی ویسی ہے۔ دوسرے مذاہب میں بھی قدرے سچائی پائی جاتی ہے مگر صرف اسلام ہی کامل اور سچا مذہب ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام اپنے متبعین کو زندگی کا ایسا جامع راستہ دکھاتا ہے جس کے ذریعہ فرد کا معاشرے اور دینیت کا روحانیت کے ایک ہموار اور یامی تعلق استوار ہو جانا، میں مسلمان ہونا چاہتی تھی مگر میرے خاندان نے میرے اسلام کی طرف مائل نہ ہونے کے لئے بہت کچھ کیا مجھے تینہ کی گئی۔ کہ اسلام میری زندگی کو اُچھا دے گا۔ کیونکہ یہ مذہب امریکی ماہول کے مطابق نہیں مجھے اپنے خاندان سے الگ ہو جانا پڑے گا۔ اس وقت میرا ایمان اتنا پختہ نہیں تھا کہ ان تینہوں اور دھمکیوں کا مقابلہ کر سکتی۔ میں بہت بیمار ہو گئی۔ اور مجھے کالج

چھوڑنا پڑا۔ ایک لمبے عرصہ تک گھر پر پرائیویٹ علاج و معالجہ جاری رہا۔ مگر میری صحت بہتر نہ
 گرتی رہی اس سے میرے والدین کو تشویش ہوئی انہوں نے مجھے ہسپتال بھجوا دیا۔ وہاں دو سال
 سے زیادہ عرصہ تک زیر علاج رہی۔ ہسپتال کی زندگی میں میں نے عہد کر لیا تھا کہ اگر بہتر
 تو میں مسلمان ہو جاؤں گی۔

چنانچہ مجھے صحت ہو گئی اور ہسپتال سے نکل کر میں نے نیویارک شہر میں مسلمانوں سے میل
 ملاپ اور ان سے دوستانہ راہ و رسم پیدا کرنے کے تمام مواقع تلاش کئے۔ بعض نہایت ہی
 اچھے لوگوں سے مل کر بہت ہی خوش ہوئی۔ میں نے مسلم بوائے میں مضامین لکھنا شروع کر دیے۔ اور دنیا
 بھر کے مسلمان رہنماؤں کے ساتھ لمبی چوڑی خط و کتابت شروع کر دی۔

جونہی ماہِ رمضان قریب آیا میری اسلام قبول کرنے کی خواہش اتنی زیادہ بڑھی کہ میں نے پنجوقتہ
 نماز شروع کر دی۔ اور اب میں پہلی دفعہ روزہ رکھ رہی ہوں۔ یہ عمل میں اس پختہ ایمان کے ساتھ کر رہی ہوں
 کہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات پر عمل درآمد کرنے سے تقویٰ و طہارت اور نیکی و پاکیزگی حاصل ہوگی۔
 اور روح کو چین و قرار نصیب ہوگا۔



”میں اسلام کے سچے، سیدھے، سادے، کھرے اور فطری دین میں داخل ہو کر
 خوشی محسوس کرتی ہوں۔ یہ دین حکیمانہ عقائد سے پاک ہے۔ اس میں ملاگری، پروقتائی
 یا پارہیانہ نظام نہیں ہے۔ اس کی عالی ظرفی اور لچکدار اصولوں نے میری عقل و دانش
 کو اپیل کیا ہے۔“

جیسی (آئینہ) ڈیوڈسن۔ انگلستان

روح کی پیاس

الحاج عبد الکریم جرمانوس ہنگری کے رہنے والے ہیں اور بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں۔ آپ کا شمار دنیا کے مشہور مستشرقین میں ہوتا ہے۔ آپ دونوں عالمگیر جنگوں کے درمیانی عرصہ میں ہندوستان تشریف لائے تھے۔ کچھ عرصہ مشہور رنگالی شاہنشاہی یونیورسٹی شانتی نکیتن سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد آپ جامع ملیہ دہلی چلے آئے۔ یہیں آکر آپ نے اسلام قبول کیا۔ اپنے اس مضمون میں ڈاکٹر عبد الکریم نے انتہائی دلائل و براہین پیش کی ہیں۔ ڈاکٹر عبد الکریم ماہر السنہ بھی ہیں اور آپ ترکی زبان اور ترکی ادب کے بارے میں مستند کی حیثیت رکھتے ہیں۔

زندگی میں کئی ماہ و سال آٹے اور گزر گئے۔ ان کے دوران مجھے رنگلانگ واقعات سے سابقہ پڑا۔ مجھے متعدد ممالک کی سیاحت اور علم و دانش سے لبریز کئی اعلیٰ درجہ کی کتب کے مطالعہ کا موقع ملا۔ ان میں ہر واقعہ، سفر یا کتاب نے میری متلاشی آنکھوں کے سامنے ظلم و آگہی کے کئی نئے درتے کھول دیئے۔ میں نے یورپ کے ہر ملک کی سیاحت کی۔ قسطنطنیہ کی یونیورسٹی کا طالب علم بنا اور ایشیائے کوچک و شام کے تاریخی حُسن و جمال کا عرصہ تک مدح سرا رہا۔ میں نے ترکی - فارسی اور عربی زبان کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بالآخر بڈاپسٹ کے شعبہ اسلامیات کا رٹیس مقرر ہوا۔ میں نے صدیوں کے جمع شدہ خشک اور ٹھوس علم کے ذخیرے کو خوب کھنگالا، ضخیم نئی کتابوں کے ہزاروں ورق مشتاق آنکھوں کی راہ سے پی گیا۔ لیکن روح کی پیاس تہ مٹی اور وہ بدستور تہہ رہی۔ فاضلک دہر کی خشک اور بے وس وادیوں میں، میں دو روز تک علم کی ڈور لے کر گھوٹا پھرا لیکن مجھے اس کا سرا نہ ملا اور میرے دل میں بدستور کسی قدری

مذہب کے سدا بہار اور لا ذوال نخلستان میں آباد ہو جانے کی خواہش کو جوں ہی علم کے سمندر میں میرا دہن گویا ناک تک ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن میری دوح بڑی طرح پیاسی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کتابی علم کے سارے بھاری بھر کم دلدار کو پینے آپ سے جھٹک کر پھینک دوں اور ایک مرتبہ اس کے بارے سے سبک سروس کر دوں کہ اندر تہی تجربات کے ذریعے اسے دوبارہ حاصل کروں تاکہ میرا علم ریاضت کی بھٹی میں تپ کر ویسے ہی اعلیٰ واقع ہو جائے جیسے کوئی خام لوہا تپائے جانے کے فوراً بعد ٹھنڈی چوٹ کے ساتھ اعلیٰ قسم کا سخت اور لچکدار فولاد بن جایا کرتا ہے۔

ایک شب مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی ریش مبارک دانا دارہ حنا سے سرخ تھی۔ لباس انتہائی سادہ تھا۔ لیکن بدن مبارک سے نہایت ہی نفیس اور دوح پرور خوشبو پھوٹ رہی تھی اور ان کی آنکھیں ایک مقدس نور سے فروزاں تھیں۔ انہوں نے انتہائی باوقار آواز میں خطاب کیا اور بولے: "اتنے پریشان کیوں ہو صراطِ مستقیم تمہارے سامنے ہے اور روٹے زمین کی مانند محفوظ ہیں۔ ہو کر تمہارے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ قدم اٹھاؤ اور اس پر استقلال اور ایمان کے مضبوط سہارے کے ساتھ چل پڑو۔" ان کی زیارت کے احساس سے میرا سارا جسم پوشش سے تپنے لگا۔ اسی عالم تپش میں میں نے خواب کے اندر عربی زبان میں چلا کر کہا یا رسول اللہ آپ بجا فرماتے ہیں۔ لیکن صراطِ مستقیم پر چلنا آپ کے لئے آسان تھا۔ میرے لئے بہت کٹھن ہے۔ اس کی مشکلات پر عبور حاصل کرنے کے لئے اللہ کی مدد آپ کے شامل حال تھی اور اسی کی توفیق سے آپ نے اپنے دشمنوں پر فتح پائی۔ حتیٰ کہ آپ ایک غنیمت کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ لیکن میں کیا کروں۔ میں نہ آپ جیسا ہوں اور نہ ہی نصرتِ خداوندی کا سہارا مجھے حاصل ہے۔ لہذا میں معذور ہوں۔ میرے لئے ابھی یہی پریشائیاں مقدر ہیں۔ نہ جانے مجھے اس بے کلی اور اضطراب سے کب نجات ملے گی؟

میری یہ بات سن کر انہوں نے مجھے شنگیں لگا ہوں کے ساتھ گھورا۔ پھر وہ سوچ میں ڈوب گئے۔ کھوڑی ہی دیر بعد وہ پھر لب کشا ہوئے۔ اب آپ عربی میں بول رہے تھے اور ان کی آواز اس قدر صاف

کھتی کہ وہ تقرتی گھنٹیوں کی مانند میرے ذہن میں بجنے لگی یہ آواز، یہ ندا، ٹھے پیغمبر اب خدا سے
 عظیم وجہیں کا کلام مجھ پر نازل کر رہی تھی۔ اور اس دو ہر سے پوچھتے میرا دل اور میری روح پسی اور گھٹی جا
 رہی تھی۔ اللہ کے رسولؐ نے اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے فرمایا: "اللہ يجعل الارض مہلداً کیا فرش
 زمین کو ہم نے ایک تخت کی طرح نہیں بچھایا اور اس پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑا۔ کیا ہم نے تمہیں
 جوڑواں نہیں پیدا کیا اور ہم نے آرام کی خاطر تمہیں نیتد کی نعمت عطا نہیں کی؟"
 "مجھے نیتد نہیں آتی۔ میں نے دکھ سے کراہ کر اور چلا کر کہا۔ میں ان پر اسراراً کھنڈوں کو نہیں سلجھا
 سکتا جن پر گہرے اور ڈبیر پر دے اور نقاب پڑے ہوئے ہیں۔ میری ادا دیکھئے یا محمدؐ۔ میری ادا دیکھئے
 یا رسول اللہ۔"

میرے گلے سے ایک تیز اور گلو گیزر جینج نکلی اور میں اس عظیم خواب کے بارگراں تلے بستر پر یوں تڑپنے
 اور کلیلانے لگا جیسے کسی نے میرا گلا دبا رکھا ہو۔ مجھے رسول اللہ کے غصہ سے خوف آنے لگا۔
 مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں گہرے پانیوں میں ڈوبا چلا جا رہا ہوں پھر یکایک میری آنکھ کھل گئی۔ خون کے
 بوش سے میری کنپٹیاں دھڑ دھڑ بچ رہی تھیں۔ میرا سا لہ بدن پینے میں شرا اور کھا اور میرا ہر عضو برمی
 طرح دکھ رہا تھا۔ میرے چاروں طرف موت کا سا سکوت طاری تھا اور میرا دل اندر ہی اندر زبردست
 اداسی اور تنہائی محسوس کر رہا تھا۔

انگلے جمعہ کو جامع مسجد دہلی میں لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا سفید بالوں اور پیلے پیرے والا
 ایک اجنبی چند تندرگوں کی معیت میں مومنین کے ایک عظیم اڈھام میں اپنا راستہ بناتا ہوا صحن مسجد سے منبر
 کی طرف جا رہا تھا۔ اس روز میں نے بندوستانی لباس پہن رکھا تھا۔ میرے سر پر ایک چھوٹی سی رامپوری
 ٹوپی کھتی اور میرے سینے پر وہ تمغے آویزاں تھے جو ترکی کے سابق بادشاہوں نے مجھے عطا کئے
 تھے۔ نمازی میری جانب حیرت و استعجاب سے دیکھ رہے تھے ناگہاں فضا میں اقامت الصلوٰۃ
 کی آواز گونجی۔ صحن مسجد میں جا بجا کھڑے مکبرین نے اس آواز کو مسجد کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا

اور کوئی چار ہزار کے قریب لوگ اس آواز کو سن کر یوں کھڑے ہو گئے جیسے فوج کے سپاہی بھل کی آواز کو سن کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے نزدیک آ کر صفیں آراستہ کیں اور پھر انتہائی محویت کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے۔ میں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ میرے لڑپہ مسر بلندی و سر فراری کا لمحہ تھا۔ عقبہ کے بعد میرے ساتھی عبدالحی نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ منبر تک مجھے لے گئے۔ آخر کار وہ لمحہ عظیم آپہنچا اور میری زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ ظہور پا گیا۔ میں منبر کی سیڑھیوں سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ نمازیوں کے ہجوم میں حرکت سبب پیدا ہو گئی اور ان کے سر پر ہزار ہا رنگ کی پگڑیاں دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی نخلستان میں پھولوں کے ایک وسیع تختے کے سامنے کھڑا ہوں۔ مجھے اپنے اندر ایک غیر معمولی قسم کا احساس ہونے لگا۔ اور میں کسی قسم کی گھبراہٹ اور خوف کے بغیر منبر کی ساتویں سیڑھی پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ منبر کی بلندی سے جب میں نے مجمع کی بے پایاں وسعتوں کا جائزہ لیا تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی جیتے جاگتے امواج سمندر کے کنارے ایستادہ ہوں۔

”ایہا السادات الکرام“ میں نے اپنی تقریر عربی میں شروع کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک دور دراز ملک کا باشندہ ہوں اور آپ سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو مجھے گھر میں میسر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آپ کے ہاں ایمان کی دولت حاصل کرنے آیا تھا اور خدا کا شکر ہے آج مجھے یہ دولت مل گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنی تقریر میں اس عظیم کارنامہ کا ذکر کیا جو اسلام نے دنیا کی تاریخ کو پلٹ کر ادا کیا ہے۔ اس ایجاد نما انقلاب کا ذکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ توفیق الہی دنیا میں ہو پایا۔ پھر میں نے مسلمان قوم کے موجودہ انحطاط کا ذکر کیا اور اس کے وجوہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس زوال کو کس طرح نئے فوج کے روپ میں بدلا جاسکتا ہے۔ اس ضمن میں میں نے مسلمانوں کی عام کہادت کا بھی تجزیہ کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے، مرضی مولا سے ہوتا ہے اس کہادت کے خلاف میں نے قرآن پاک کی یہ آیت پیش کی ”ان اللہ یغیر ما بقوم حتیٰ یغیروا ما بانفسہم“ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اسے اپنی حالت خود بدلنے کا خیال نہ

آئے۔

اپنی تقریر کا تانا بانا میں نے زیادہ تو اسی آیت کی تفسیر کے ساتھ بنا۔ آخر میں تے نیکو کاری اور
اور تقویٰ کی زندگی کی توصیف اور ربانی کثرت کرتے ہوئے حاضرین کو تلقین کی کہ انہیں شرکی طاقتوں
کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرنا چاہیئے۔

اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد میں بیٹھ گیا اور معاً ایک نہایت ہی بلند اور ذوالنعرہ تکبیر
کے ساتھ مسجد کے وسیع و عریض صحن کے در و دیوار کو گونج اٹھے۔ نعروں کی تکرار دیر تک جاری رہی اور
میں لوگوں کی پرتلوں صحت کے سحر میں اسیر ہو کر دیر تک دماغ گم سم بیٹھا رہا۔ ان ہی ایام میں میں نے
اپنے دینی بھائیوں کی محبت شفقت اور خلوص کا اتنا وسیع ذخیرہ اپنے پاس فراہم کر لیا، جو انشاء اللہ
زندگی بھر کے لئے مجھے کافی رہے گا:



اگر دنیا کو کسی زمانہ میں اسلام کی ضرورت تھی وہ آج کا زمانہ ہے۔ جو نور بصیرت اور شمع ہدایت
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لائے۔ اس کے ماتحت اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے مجھے
از حد خوشی ہو رہی ہے اسلام مجھے پستد آیا ہے۔ فی الحقیقت یہ ایک عقلی اور فطری مذہب ہے۔
میری ابتدائی مذہبی تربیت سچے عقائد کے مطابق ہوئی تھی۔ مسیحیت سے متنفر ہو کر میں نے
دوسرے عالمی مذاہب کا مطالعہ شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی عقل
اور فطرت کے مطابق ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ اسلام حصول علم و حکمت کا مویذ اور تفکر و تدبیر کی
حوصلہ افزائی کرتا ہے:

پہری۔ اسی۔ ہینکل۔ یو۔ ایس۔ اے

انسان کا خدا سے براہ راست تعلق

دوسرے کئی لوگوں کی طرح مجھے بھی اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اپنے مذہبی عقائد کو اپنا دل
 اس کا احساس مجھے بہت سے فانی نانو شگوار تجربات کے بعد ہوا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میری والدہ بڑی
 سمجھ دار تھیں۔ (میرے والد میری پیدائش سے تھوڑا سا عرصہ قبل وفات پا چکے تھے) وہ میرے
 خیال کے مطابق ان دنوں راسخ العقیدہ مسیحی تھی اور ان عورتوں کی طرح نہ تھی۔ جو ہر آوارہ کو تو گر جیاجیا کرتی ہیں۔
 مگر اس کے بعد سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ بلکہ وہ ان مسیحی عورتوں میں سے تھی۔ جو یا فائدہ پاتے عقائد کے
 مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ اس ماحول کے باوجود میں اپنے بچپن سے ہی اپنی ماں کی طرح
 راسخ العقیدہ نہ تھی۔ میں بائبل میں بیان کردہ واقعات کو معمولی قسم کے واقعات سمجھا کرتی تھی۔ اور ان میں
 بیشتر کو اب بھی ویسے ہی سمجھتی ہوں تمام بائبل کہ شروع سے آخر تک میرے نہ پڑھ سکنے کی ایک وجہ
 تو یہی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میرا ذہن ان متضاد خیالاتوں اور نقائص کے ہوتے ہوئے اسے خدا کا
 کلام تسلیم نہ کر سکا۔ یہ ایک حقیقت ہے اور اس کا میں بے باک دہل اعتراف کرتی ہوں کہ میں عیسائیت
 اور بائبل کے متعلق عیسائی ہوتے ہوئے جس قدر واقفیت رکھتی تھی۔ اب میں اسلام لانے کے بعد
 اس سے کہیں زیادہ واقفیت رکھتی ہوں۔

جو لوگ میری طرح جنگ عظیم کے دوران لندن میں مقیم تھے وہ جانتے ہیں کہ ان دنوں ہمارے
 زندگی کس قدر تبدیل ہو رہی تھی۔ ۱۹۳۹ء میں میری عمر اڑھیس کی تھی۔ اس عمر میں مختلف اثبات فوری طور پر

نقش پذیر ہوتے ہیں۔ جنگ کی ہولناکیوں سے جو خود دیکھیں یا دوسروں سے سنیں میں اس نتیجہ پر پہنچی کہ اس دنیا کا اگر کوئی خدا ہے تو وہ ایسی تباہ کاریوں کو مکمل طور پر وقوع پذیر نہیں ہونے دے گا۔ یہ عظیم جنگ دو قوتوں کے درمیان نہیں تھی بلکہ تہمتے اور بے بس انسانوں کا سامنا انتہائی تباہ کن ہتھیاروں سے تھا۔

۱۹ برس کی عمر میں ویسٹ انڈیز کے ایک چینی طالب علم سے میری شادی ہو گئی جو ان دنوں ٹاکری کی تعلیم پانچواں تھا۔ دو لڑکیاں بھی پیدا ہوئیں۔ لیکن یہ شادی ناکام رہی ۱۷ سال کے بعد جب کہ میں بٹننگی آنا میں اپنے وطن سے چار ہزار میل دور تھی طلاق ہو گئی۔ پریشان حالات کے باعث اس وقت مجھ پر نہایت پشیمندی اور افسردگی چھا گئی۔

میں نے انگلستان واپس جانے کے لئے کراہی کی رتہ جمع کی۔ لیکن چونکہ انگلستان میں میری ماٹرن گاہ کا تسلی بخش انتظام نہ تھا۔ اس لئے میں نے اپنے دونوں بچوں کو ان کے باپ کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ وہ گورنمنٹ ہسپتال میں ایک سٹیلٹ تھا جسے وہاں بہت سی سہولتیں حاصل تھیں۔

جب کسی کو سخت پریشان کن حالات سے گذرنا پڑے۔ تو وہ طبعی طور پر دنیاوی امور سے منہ موڑ کر کسی بڑے ارفع مقصد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ اگر ہم اپنی من گھڑت باتوں کی تکمیل میں مصروف ہے۔ تو یہ بالکل حقیر سی چیزیں ہیں۔ زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد ہونا چاہیے اس کے لئے ہمیں کسی مذہب پر یقین کرنا ہو گا جو ہمارے اچھے اور برے دونوں میں کام آسکے۔ اور کچھ سچے اصول ہونے چاہئیں جو ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنے میں مدد دے سکیں۔ اس طرح مجھ میں سچے مذہب اور سچے خدا کی جستجو پیدا ہو گئی۔ میں اس کا بخوشی اظہار کرتی ہوں کہ یہ مقصد حاصل کرنے کے لئے مجھے جو سفر طے کرنا تھا وہ زیادہ طویل نہ تھا۔ اس جستجو نے مجھے پہلے پریشانی پرچ سے وابستہ کر دیا جس کی سادگی مجھے پہلے پہل ابھی معلوم ہوئی۔ لیکن پھر اس نے مجھے مایوس کر دیا۔ میرے سوالات کے جوابات میں قطعی خاموشی اختیار کی جاتی تھی یا مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ ایمان کے بارے میں سوال نہیں

کہنا چاہیئے۔ چونکہ جس مقصد کے لئے قائم کیا گیا تھا۔ ان پادریوں کو اس کا بالکل احساس نہ تھا۔ ان میں ایک شخص بھی ایسا اعلیٰ پایہ کا عالم نہ تھا جس کی لوگوں کو توقع ہو سکتی ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری مالی حالت اس قابل نہیں کہ میں ان کے روز روز کے مطالبے پورے کر سکوں تو انہوں نے مجھ میں دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ ان کا یہ خالص مذہبی قسم کا سلوک مسیح کی تعلیم کے اس قدر خلاف تھا کہ میں پریشان تھی کہ اب میں کدھر جاؤں۔

اس کے بعد ایک دن میں نے اسلام پر ایک مسلمان عالم کو گفتگو کرتے سنا ہر دعویٰ کی معقول دلیل اور ان کی سنجیدہ گفتگو نے مجھے بہت متاثر کیا وہ بڑے موثر انداز سے گفتگو کر رہے تھے اس سے صاف واضح تھا کہ محض ان کی تقریر ہی نہیں بلکہ ان کا دل و دماغ معین کو اس سچائی کا یقین دلانے کی انتھک جدوجہد کر رہا ہے۔ جس پر وہ خود علیٰ وجہ البصیرت یقین رکھتے ہیں۔ جو حقائق انہوں نے بیان کئے اگرچہ وہ میرے لئے بالکل نئے تھے۔ لیکن جس قدر میں ان پر مزید غور کرتی رہی۔ مجھے زیادہ دلائل دکھائی دینے لگے۔

ان میں سے ایک زیر بحث مسئلہ صلیب پر مسیح کی موت تھا۔ مجھے اس سے پہلے مسیح کی جانی قربانی پر کوئی شک نہ تھا لیکن اس کے متعلق اسلامی نظریہ معلوم کرنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بات قابل قبول ہے کہ خدا کا یہ ارادہ ہو گیا تھا کہ مسیح قربانی کی موت مرے۔ پھر مجھے یہ معلوم کر کے کہ مسیح حادثہ صلیب کے بعد زندہ رہے تا وہ اپنے مشن کی تکمیل کر سکیں اور بھی زیادہ تعجب

ہوا۔

اللہ کا نام نے میرے دل و دماغ پر نہایت خوشگوار اثر ڈالا اور میں نے محسوس کر لیا کہ اسلام تمام دوسرے مذاہب سے زیادہ مکمل مذہب ہے جو انسانیت کی بہبودی کے لئے بہترین حل پیش کرتا ہے۔ قرآن شریف کے بار بار مطالعہ اور ہر مرتبہ زیادہ سے زیادہ لطیف اندازوں میں اس کتاب کے

اس دعوت سے متفق ہو گئی۔ "یہ ایک عمدہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ یہ اچھی فطرت رکھنے والوں کے لئے بہترین راہ نمائے" (ذالک الكتاب لاریب فیہ ہدی للمتقین) اس کتاب میں ایسے قوانین موجود ہیں جن کی روشنی میں چل کر انسان مطمئن زندگی گزار سکتا ہے۔ اور اپنی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ مذہب کو بھی اپنا سکتا ہے۔

دسمبر ۱۹۵۸ء میں میں اور میرے خاوند نے امام صاحب سے یہ پوچھنے کی جرأت نہ کی کہ کیا ہم اسلام قبول کر سکتے ہیں؟ بلکہ ہم نے التجا کی کہ کیا اسلام ہمیں قبول کر لے گا؟ اگر مجھ سے میری زندگی کی آخری خواہش دریافت کی جائے تو میں کہہ سکوں گی کہ کاش میں اپنی زندگی میں ہی تمام دنیا میں امن قائم ہوتا دیکھ سکوں۔ اور میں یہ جانتی ہوں کہ یہ خوش گن دن تب آئے گا۔ جب تمام دنیا کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اسلام فرد اور قوم کے لئے امن، محبت اور خیر سکالی کا مذہب ہے۔ میں نے صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب دیکھا ہے جس میں رنگ و نسل کی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی جبکہ مسیحی گرجوں میں مجھے کئی بار رنگ و نسل کی تفریق کے مواقع دیکھنے پڑے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اپنے ایک دوست کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ وہ ٹینیسیڈا کا سیاہ فام باشندہ تھا۔ اس نے جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کی رائل ایئر فورس کی طرف سے لڑنے کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ان دنوں وہاں جبری بھرتی جاری نہیں تھی۔ بلکہ اس نے اپنے آپ کو رضا کارانہ طور پر پیش کیا تھا اس نے پائلٹ کی ذمہ داری سنبھال لی جو بڑی پرخطر ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اتفاقی طور پر اسے لندن پہنچنے کا موقع ملا۔ ان دنوں چونکہ وہ ایک مخلص مسیحی بن گیا تھا۔ اس لئے اس نے وہاں کے ایک گرجا میں جانے کا ارادہ کیا۔ گرجا کا یہ دستور ہوتا ہے کہ عبادت کے اختتام پر پادری گرجا کے دروازہ پر اکھڑا ہوتا ہے۔ اور تمام باہر نکلنے والوں سے مصافحہ کرتا جاتا ہے۔ جب پائلٹ کے لباس میں ملبوس یہ سیاہ فام نوجوان گرجا سے نکلنے لگا تو پادری نے اس سے یہی مصافحہ کیا اور کہا کہ گرجا میں عبادت کے لئے آپ کی آمد سے بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن چونکہ گرجا میں دوسرے آنے والے (سفید فام) آپ کی یہاں موجودگی

پسند نہیں کرتے اس لئے آپ آئندہ یہاں تشریف نہ لائیں۔ مجھے اس واقعہ پر سخت تعجب ہوا اگر یہ بات دوست مان لی جائے تو بالفرض یسوع مسیح کا رنگ سیاہ قام ہوا اور وہ گر جاساں داخل ہوتا چاہیے تو کیا انہیں سفید رنگ کا نہ پونیکے باعث وہاں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا؟ اگر یسوع کو پستہ چلے کہ اس کی تعلیم کس قدر بگاڑ دی گئی ہے۔ تو اس پر کیا گزرسے گی؟ خدا تعالیٰ کی نظر میں تمام لوگ برابر ہیں۔ اسی نظریہ کو تسلیم کر کے ایک ایسی دنیا تعمیر کی جاسکتی ہے جس میں تمام اقوام اور تمام افراد پہلو پہلو امن اور اخوت سے رہ سکتے ہیں۔

اس کا ذکر کی خوبی جس نے مجھے متاثر کیا ہے بندہ کا خدا تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہے۔ آپ یقین رکھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کا دوست بھی ہے اور آپ کا نگہبان بھی۔ وہ آپ کا معلم بھی ہے اور آپ کا محافظ بھی، مصیبت کے وقت آپ کا غمخوار بھی ہے اور بھٹکتے وقت آپ کا رہبر بھی۔ اگر آپ اس سے تھوڑی سی محبت کرتے ہیں تو وہ آپ سے اس سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔

اسلام میں تشلیت کے تصور کی پچیدگی نہیں ہے بلکہ خدا کے ایک ہونے کا تصور ہے اسلام کا خدا ہند نامہ قدیم کے غضناک خداوند کی مانند نہیں ہے بلکہ وہ نہایت رحم دل اور منصف مزاج ہے۔ اسلام میں میں نے اپنا خدا پایا وہ خدا جس نے آج سے تیرہ سو برس پیشتر اپنا کلام اپنے مقدس رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ آپ کے سوانح حیات کے مطالعہ سے ہمیں بہترین سبق حاصل ہوتا ہے۔ آپ اسلام کا صحیح نمونہ تھے جس قدر ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں گے اسی قدر ہم صحیح اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے۔

اسلام لانے کے ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی میرا اعتقاد مستحکم ہو گیا۔ کیوں کہ آپ کی بعثت کے وقت مسلمان کہلانے والے صحیح راستے سے بھٹک گئے تھے۔ اور کسی ایسے مصلح کی ضرورت تھی جو ان کو دوبارہ صحیح راستہ پر گامزن کر دے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدائی کلام کو پھر سے دنیا میں زندہ کر دیا۔

میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اس زندگی میں مجھے جس قدر مسرت حاصل ہو سکتی تھی، اسلام قبول کر کے میں نے اس سے بھی زیادہ دلی مسرت حاصل کر لی ہے۔ اور اپنی تمام دعاؤں میں خدا تعالیٰ سے یہی التجا کرتی ہوں کہ وہ مجھے حقیقی مسلمان بنا دے۔ آمین



”میں نے تخلیقات بہت ہی حکما اور ادعاٹی ہیں۔ آپ کتنی ہی محرز و مشرف زندگی بسر کریں۔ لیکن اگر آپ کو اطمینان قلب اور رُوح کا چین و قرار میسر نہیں ہے تو یہ زندگی بیکار چھنی ہے۔ اسلام کی سادگی حسن نے ہمیں امن و امان سے ہمکنار کیا ہے اور ہم کامل طور پر خوشی و مسرت کی مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں۔“

_____ مسٹر اور مسز جی۔ پیٹ مین

مشرق کے تین دائرہ نشین

حلقہ تعارف میں بیشتر اجاب مجھ سے سوال کیا کرتے تھے کہ وہ کونسے حقائق ہیں جن کے پیش نظر میں اچھے بھلے عیسوی مذہب کو قبول کرنے کے بجائے اسلام میں داخل ہو گئی ہوں۔ میں انہیں کہتی کہ:۔

”میں اور تو کچھ نہیں جانتی مگر یہی کہ میں ایک تنہی بچی تھی مسجد میں آنے جانے لگی اور جوان ہوتے ہوتے مسلمان ہو گئی“

”اُف! تو گویا آپ اسلامی طوفان کے نذر ہو گئیں!“ وہ کہا کرتے۔

”بس یہی تو آپ غلطی کرتے ہیں“ میں انہیں کہا کرتی۔ ”دراصل بات یہ ہے کہ بچپن میں زندگی

اسکول جایا کرتی تھی۔ ہر اتوار مسیحی تعلیمات کا درس لیا کرتی تھی بعد ازاں ہر شام مسجد شریف میں

بھی حاضری دیا کرتی تھی یہ کہتا آپ کی بے خبری اور واقعات کے سراسر قلات ہے کہ میں اسلامی

طوفانوں کے نذر ہو گئی ہوں بلکہ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے میں نے بڑے ہی غور و فکر اور گہری

تحقیق و تدقیق کے بعد کلہ پڑھا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اسلام کو اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہتی

ہوں اور میری روح کو اس کے یقین و عرفان سے سکون ملتا ہے“

”تو آپ کے ابا جان کس طرح مسلمان ہوئے؟“

ساتھ ستر سال ادھر کی بات ہے کہ ایک لڑکا کسی جگہ گھرا ایک واعظ کی وعظ کو ہمہ تن

گوشن سن رہا تھا۔ واعظ کہتا رہا اور وہ سنتا رہا۔ ۱۵۰ جتنی واعظ اس دیس کے غیر معروف مزہب اسلام پر روشنی ڈال رہا تھا۔ اس اسلام پر جس نے ایک میں تین اور تین میں ایک کی تہیں بلکہ صرف اور صرف ایک خدا کی تعلیم دی ہے۔ پلے ماؤتھ کا شہر تھا اور وہ سولہ سالہ لڑکا میرے ہونے والے آبا جان تھے۔“

”یہ باتیں بڑی ہی اثر انگیز اور نا ترا فرین ہیں۔“ آبا حضور نے دل ہی دل میں کہا۔ کتنا اچھا ہے یہ واعظ کیسی پیاری باتیں کرتا ہے۔“

”مگر مجھے کالج سے دیر ہو جائے گی۔ اب چلنا چاہیے۔ کل پھر آؤں گا اور اس عجیب اور اجنبی اسلام کی باتیں مزید سنوں گا۔“

آبا جان یہ سوچ کر کالج کی طرف چل دیئے۔ کل آگئی اور آبا حضور اس بدیسی واعظ کی وعظ سننے کے لئے تن تنہا چلے گئے۔ آج وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ یہ کہتے والے سننے والا نہ واعظ تھا نہ سماع وہ اکیلے کھڑے ہو کر کچھ سوچنے لگے۔ واعظ کا سراپا ان کے تصور میں گھوم گیا اور کان بچنے لگے ان کے کانوں میں تمام باتیں گونجنے لگیں وہ بہت افسردہ ہو گئے۔ قدم بھاری اور طبیعت گراں ہو گئی۔ شاید واعظ کو تقاریر کے بارہ میں حکم امتناعی مل گیا ہو گا کہ یہاں پر سچیز نہ دئے جائیں۔ یہ حال یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اس دن کیوں نہیں آئے تھے۔ ان کا نہ آنا آبا جان کے لئے رنج و افسوس کا باعث ہوا۔ انہوں نے اس واعظ کو پھر کبھی نہیں دیکھا۔

کچھ سال اور بیت گئے۔ آبا جان کی شادی بھی ہو گئی۔ حالات کے تحت انہوں نے اپنے وطن مالوت۔ پلے ماؤتھ۔ کو خیر باد کہا۔ اس پلے ماؤتھ کو۔ جہاں انہوں نے بچپن اور لڑکپن کے معصوم شب و روز گزارے تھے اور جہاں انہوں نے پہلی دفعہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات کا حال سنا تھا وہاں سے دوسو میل دور و کنگ شہر میں آکر آباد ہو گئے اور اپنے خاندان کی پرداخت شروع کر دی ایک دن انہوں نے ایک مقامی اخبار میں پڑھا ”اسلام کیا ہے“ اس کے نیچے لکھا تھا

کہ دو کنگ مسجد میں ایک لیکچر ہوگا جس میں اسلام پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس اور اباجان دو کنگ مسجد میں تشریف لے گئے۔ واعظ کہ رہا تھا۔

”خدا ایک ہے۔ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ ہماری قدرت معصوم ہے۔ ہماری پیدائش گناہ اور خطا کی پیدائش نہیں۔ ہم سب انبیاء اور رسول علیہم السلام کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ ہم حضرت یسوع مسیح کے منکر نہیں۔ وہ ہمارے رسول ہیں۔ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کے ہی اول رسول ہمارے پتے ہی اور رسول ہیں۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم آپ کے رسول اور نبی کہلاتے ہیں اسی طرح آپ بھی ہمارے پیغمبر کو مان لیں۔ ہمارے ہی آخری نبی ہیں۔ جو خدا تعالیٰ عظیم و خیر کی طرف سے دنیا جہان کی رشد و ہدایت کے لئے آخری پیغام۔ قرآن کریم۔ لے کر آئے ہیں یہ ابدی پیغام ہے۔ اس کے بعد کسی پیغمبر کی ضرورت ہے نہ کسی پیغام کی“

”کیا سیدھا سادہ مذہب ہے؟ اباجان نے دل ہی دل میں کہا۔

پھر تو ان کو اسلام کی جھن لگ گئی۔ ہر اتوار مسجد شریف تشریف لے جاتے اور دو دن میں ہی وہ مشرق کے ان نیک داعیوں کے اچھے خاصے دوست بن گئے۔ ہر اتوار لیکچر ہوتے۔ یہ لوگ مشرق سے آئے تھے اور اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لئے سب کچھ قربان کر کے مغرب کی انجانی بستی میں آ بیٹھے تھے۔ یہاں کے باسی ان کی بدیسی ذات اور ان کے اپنی مذہب کے خلاف تھے۔ بڑی مخالفت ہوتی مگر ان کو واردین کا صبر گویا پتھر کا تھا۔ اباجان ان مشرقی دانشوروں کی باتیں سننے کے لئے جاتے رہتے تھے اب وہ اکیلے نہیں بلکہ ہمیں بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ ہم ان مشرقیوں کو سنتے رہتے۔ وہ تین تھے۔ ان کے سروں پر خوبصورت پگڑیاں ہوتی تھیں۔ اس وقت میں ان کو مشرق کے وہ تین دانشور خیال کرتی تھی جن کی میں نے تصاویر دیکھی ہوئی تھیں۔ کہ وہ ایک ستارے کی رہنمائی میں ایک ایسے جہد کا تلاش میں سرگرم ہیں جس میں ایک معصوم و حسین بچہ محو آدم ہے۔ اس وقت میں چچی تھی۔ اور خیال کیا کرتی تھی کہ یہ تینوں۔۔۔ مولوی نور محمد رح۔ کمال الدین مرحوم و معذور اور حضرت مولانا صدرا الدین وہی دانشور ہیں۔ جو تصویر

میں دکھائے گئے ہیں۔ اور جب میں جوان ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ واقعی مشرق کے تین دانشور تھے۔ جو ایک ستارہ۔ اسلام کی پیروی کرتے ہوئے اس جہد کی تلاش میں یہاں آنکے تھے۔ وہ اسلام کی پورسٹس ہو تو بیت کے لئے اور اس کو پروان چڑھتے دیکھنے کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس اجنبی دنیا میں آئیے تھے۔ وہ جہد جو انہوں نے تلاش کیا۔ کنگ مسجد تھی۔ جہاں انہوں نے اسلام کی پرداخت کی۔ انگلستان کی سر زمین پر یہ پہلی مسجد ہے جہاں سے پہلی دفعہ اسلام کی صدا اٹھی گو تجلیں اور اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اسے اتفاق کہئے یا مقدر کہ اتنے سالوں کے بعد قبلہ آبا جان انگلستان کے دور دراز قصبہ میں جا آباد ہوئے۔ جہاں اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی۔ اور توحید و رسالت کی صدا گونج رہی تھی یوں ان کے دل کی سچی مرادیں بھرا آئیں۔ نہ صرف قبلہ آبا جان ہی، اسلام کے فیضان و عرفان سے متمتع ہوئے بلکہ ہمیں بھی اس رشد و ہدایت کے سرچشمہ سے اپنی پیاس بجھانے کا موقع ملا۔

جب کبھی میری اتنی جان محترمہ سے اسلام کے بارے میں ان کے خیالات اور احساسات کا حال پوچھا گیا ہے تو انہوں نے یہی فرمایا کہ میں شروع سے ہی اسلام کی حقیقتوں اور صداقتوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں ایک ہی خدا پر ایمان رکھتی ہوں۔ جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے میں مسجد کے احاطہ میں کھڑی ہوں اور عید الفطر ۱۹۷۱ء کی نماز کے لئے آنے والی چار ہزار سعید روحوں کا استقبال کر رہی ہوں۔ آج ہم خدا و احد کی حمد و ثنا کے لئے جمع ہوئے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اسلام کی تقریبات کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں۔

میں آج سوچ رہی ہوں کہ وہ تین دانشور جو یہاں ایک جہد کی تلاش میں اپنا گھر بار، دوست احباب چھوڑ کر آئے تھے پوری طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہیں اور انکی قریباتیاں مقبول ہیں۔ ایک وقت تھا کہ عید کے موقعوں پر چند افراد ہی دیکھنے میں آتے تھے۔ مگر آج ہزاروں لوگ یہاں جمع ہیں۔ کاش وہ ہر سہ دانشور اس منظر کو دیکھتے۔ مگر اب ان میں سے صرف ایک ہی حضرت مولانا صدر الدین صاحب دیکھنے والے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بہترین نوازشوں سے متمتع فرمائے جنہوں نے انگلستان کے

دل میں اسلام کا بیج بویا۔

اسے عادل و منصف خدا! تو بتا کہ کیا ہم تیری مخلوق نہیں ہیں اور کیا تائید ایزدی ہمارے شامل

حال نہیں۔ ملنا ہاں ہم ضرور اس کی مخلوق ہیں اور اس کی تائید و نصرت ہمارے شامل حال ہے۔

مجھے امید ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک وقت آئے گا، انگلستان میں اسلام کی آواز شام

سحر شبلی ویژن پر سنی جایا کرے گی اور انگلستان کا ہر شخص دعوتِ اسلام غام کرے گا۔

اس اعترافِ حق کو **السَّلَامُ عَلَیْكُمْ** کی مسنونہ دعا پر ختم کرتی ہوں کہ انسان کی صحت و سلامتی کے

لئے اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔



”دو سال پہلے کی بات ہے مجھے خلیج فارس میں ملازمت مل گئی۔ وہاں قرب و جوار کے مسلمان

لوگوں کے طور و طریق اور رسم و رواج دیکھنے کا موقع ملا۔ جب کبھی میں ان کے ہاں چلا جاتا ان مسلمان

لوگوں سے میں بہت متاثر ہوتا۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے کامل طور پر مطیع و فرمانبردار تھے۔

میں ان کی مادگی اور نیکے اجنبیوں سے بلا امتیاز رنگ و نسل اور ملک ملت تن سلوک اور خاطر داری سے

متاثر ہوا۔ کھیت میں کاشتکار اور باغ میں مالی خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔

یہ سجدہ ریزی اس لئے نہ تھی کہ یہ کاشتکار یا باغبانی کے مفوضہ فرائض میں سے کھتی ادربیا اگر وہ خدا

کے حضور نہ جھکیں تو ان سے باز پرس ہوگی، نہیں بلکہ اس لئے کہ خدا کے حضور خود سپردگی سے

انہیں جو طائیت قلب اور روحانی لذت حاصل ہوتی تھی، وہ دنیا کے مادی حلائق سے کسی طور مبستر

نہیں آسکتی تھی۔“

— آر۔ سی۔ ڈنگنسن - انگلستان

توحید باری تعالیٰ

اسلام وہ مذہب ہے جس کی تلاش مجھے اس زمانہ سے کھنی جبکہ میں سکول پڑتی تھی مسیحی مذہب کی تعلیمات سے مجھے شروع ہی سے نفرت تھی۔ اور میرا دل کبھی ان سے مطمئن نہیں ہوا۔ چنانچہ جب مجھے شعور حاصل ہوا تو میں نے ان کو اپنے دل و دماغ سے یکسر خارج کر دیا۔ تحصیل علم کے بعد کئی سال تک مجھے یہودی اور کیتھولک دوستوں کے ساتھ غیر ممالک میں رہنے کا اتفاق ہوا لیکن انکے مذہبی خیالات میری نظر میں نہ بچ سکے۔ میں اسی سال اپنے وطن مالوٹ واپس آئی ہوں۔ ایک دن اتفاقاً ایک دوست کی محبت میں مسجد واقع ہل گیٹ لنڈن میں جانے کا موقع ملا۔ یہاں پہلی دفعہ میں اسلام سے روشناس ہوئی اور بہت جلد اس کی حسین تعلیمات کی گرفت میں آئی۔

وہ خاص بات جو میرے دل پر اثر انداز ہوئی اس مذہب کی سادگی تھی۔ توحید باری کا عقیدہ کتنا معقول اور سادہ ہے۔ اس قسم کے اور فطرتی اصولوں کی وجہ سے اسلام نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ یہی ہونے کی حیثیت سے میں تثلیث اور کفارہ ایسے عقائد پر ایمان رکھ سکتی ہی نہ تھی، بات جو مسیحی مذہب کی جان ہے اور جسے پادری صاحبان ہم سے منوانا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح اس دنیا میں اس لئے آئے تھے، کہ اپنی جان سے کرہتی آدم کے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آسکتی علاوہ ازیں اس مزخومہ واقعہ صلیب سے دنیا کو معتدبہ قائد پیشین پہنچا۔ الاما شاء اللہ بحران چند نفوس کے چہنوں نے ان کی پیروی کی خاص طور سے کوشش کی ہو۔ موجودہ دنیا اس زمانہ سے بدتر حالت میں ہے

جبکہ مسیح زندہ تھے۔ میرا خیال ہے کہ جو شخص ذرا سی بھی عقل سلیم کے ساتھ اسلام کی تعلیمات پر غور و فکر کرے گا وہ اسلام کی طرف کھنج آئے گا اور اس کو پسند کرے گا میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اسلام کی بدولت مجھے وہ سکون قلب اور روح کا قرار حاصل ہوا ہے جو قبل ازیں مجھے مطلقاً نصیب نہ تھا۔

”اسلامی لٹریچر اور قرآن کریم کے مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مسلمان ہونا دنیا کی بہترین نعمت سے متمتع ہونا ہے۔ دین اسلام عالمگیر و سعت رکھتا ہے۔ ابدی اور ازلی ہے۔ مطہر و موزکی اور الہامی ہے۔ ورنہ ہرگز ہرگز پھل پھول نہیں سکتا تھا۔“

—ارنست جے برملے

”بدی سے اجتناب اور نیکی کی افزائش اور اس کی نشرو اشاعت کا نام اسلام ہے۔ ہم سب اس حقیقت کے شاہد ہیں“

—لیفٹنٹ کرنل عبداللہ - ایف بی - انگلستان

مسٹر رابرٹ کوئٹے (جرمن)

ایک خدا اور ایک مذہب کی تلاش

مسٹر رابرٹ کوئٹے جو حال ہی میں مولانا محمد یحییٰ صاحب امام برلن مسجد کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں، جرمن زبان کے علاوہ انگریزی، فرانسیسی اور دیگر یورپین زبانوں پر عبور رکھتے ہیں اور بدھ مذہب، عیسائیت، یہودیت سے انہیں گہری واقفیت حاصل ہے۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد ذیل کا مضمون انگریزی زبان میں مولانا محمد یحییٰ صاحب کو لکھ کر بھیجا تھا۔

مندرجہ بالا عنوان کے تحت میں ایوننگ اسکول میں تقاریر کرتا رہا۔ اور جب میں نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ اور اس پر غور و فکر کیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کے مختلف مراحل میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور باطنی سکون کا واحد ذریعہ ہے۔ میری پرورش ایک عیسائی ملک میں ہوئی اور نہایت گہرے مطالعہ کے بعد مجھے بدھ مت (بہ خصوص اس کی تہی شکل) کا اچھا خاصہ علم حاصل ہوا اور اس کا میں مزاج ہو گیا تاہم مذاہب کے متداولہ مطالعہ پر اپنے لیکچر تیار کرنے کے لئے مجھے دوسرے مذاہب یعنی یہودیت، اسلام اور عیسائیت اور ان کے مختلف فرقوں اور جماعتوں کا بھی محنت اور مشقت سے مطالعہ کرنا پڑا۔

ایک لمبے عرصہ سے میرے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی تھی کہ مذہبی وجدان تمام انسانیت میں ایک ہی ہونا چاہیے۔ اور جتنا زیادہ میں عیسائیت، بدھ مت (اور ہندومت کا بھی) اس نقطہ نظر سے

مطالعہ کرتا رہا۔ اتنا ہی تمام مذاہب میں تو حیدر الہی کی گہرائیوں اور لہجہ کی عالمگیریت کا یکساں اثر نظر آیا جس کو تصوف کی زبان میں اور دوسرے فلسفی گیتوں کی زبان میں وحدت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے :-

"پہلا حکم یہ ہے اے اسرائیلیو سنو! ہمارا مالک ایک ہی خدا ہے اور تم کو چاہیے کہ اس مالک خدا سے پورے دل سے، پوری جان سے اور پوری طاقت سے محبت کرو۔" (مارک ۱۲: ۲۹)

قرآن کریم اسی مضمون کو ذیل کے الفاظ میں بیان کرتا ہے :-

انا ارسلناک بالحق بشیراً و نذیراً وان من امة خلا فیہا نذیر۔
"تحقیق ہم نے تجھے حق کے ساتھ تو شجری دیتے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی قوم نہیں مگر اس میں ڈرانے والا گذر چکا۔" (سورۃ فاطر ۲۴: ۳۵)

اور پھر فرمایا :-

امن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمومنون کل امن
بالله وصللکتمہ وکتابہ ورسوله لانفرق بین احد من
رسوله وقالوا سمعنا واطعنا عقرانک ربنا والیک المصیبة
"رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب سے اس کی طرف اتارا گیا اور مومن بھی سب
اللہ پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اسکے رسولوں
میں سے کسی میں کچھ تفرقہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری
کی اسے ہمارے رب تیری مفاقت (چاہیے) اور تیری طرف ہی انجام کار
پہنچنا ہے۔" (البقرہ ۲: ۷۸۵)

تمام مذاہب کی یکسانیت کا اور تو حیدر الہی کا نظریہ نہایت گہری اور ٹھوس شکل میں صرف

اسلام ہی میں پایا جاتا ہے۔ تقریباً ہر عیسائی فرقہ صرف اپنے آپ کو ہی خدا اور سچے دین کا علمبردار سمجھتا ہے۔ پڑھے لکھے عیسائی بھی بدھ عمت اور دوسرے ادیان پر عیسائیت کی برتری میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے۔ صرف ایک کو یکر _____ فرقہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ دسوساٹی آف فریڈرز جس کی بنیاد جارج فاکس نے رکھی اور یو پرائمن اصولوں پر مبنی ہے) اس کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا نے واحد نے دوسری اقوام کی طرف مختلف حالتوں اور نظریوں میں اپنے وجود کا ظہور فرمایا۔

بدھوں کے نزدیک بھی اکثر حالات میں ہر ایک فرقہ یا مکتب خیال صرف اپنے آپ کو دوسرے بڑھ فرقوں سے برتر سمجھتا اور انہیں لاجینی قرار دیتا ہے۔ چہ جائیکہ دوسرے مذاہب کا کوئی ذکر ہو جس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ ان پر کبھی الہام الہی نازل ہی نہیں ہوا۔ تبتی بدھ۔ اس سے مستثنیٰ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا اپنا ظہور مختلف شکلوں میں کرتا ہے۔ لیکن تبت کا اعلیٰ درجہ کا روحانی بدھ مذہب بہت پیچیدہ ہے اور اس کا سمجھنا مشکل ہے۔

یہودیت "خدا کی برگزیدہ قوم" کے نظریے کی حامل ہے اگر میں اپنی قوم یا اپنے آپ کو خدا کا برگزیدہ سمجھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم برتر حیثیت رکھتے ہیں اور دوسرے کم تر ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ میرے خلاف نفرت پیدا ہو، اور میں دوسروں سے متنفر ہوں، دوسروں سے علیحدگی جو خود ستائشی کا نتیجہ ہے، امتیاز کی لعنت پیدا کرتی ہے۔ اور یہودیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ امتیاز کے ہولناک گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اسلام ہی ہے، جو تخلی رنگ میں ایک خدا اور تمام مذاہب کی یکسانیت اور انسانی مساوات کا علمبردار ہے۔

مذاہب کا مطالعہ کرتے وقت اسلام میرے لئے زیادہ سے زیادہ جذب و کشش کا موجب ہوا۔ مغرب میں اسلام کے متعلق بہت سے غلط خیالات پھیلے ہوئے ہیں۔ میں نے اسلام کا صحیح نقطہ نظر پایا۔ میں برلن مسجد کی مسٹر آمنہ موسلمہ کا ممنون ہوں، اور برلن مسجد کے نئے امام مسٹر محمد نجفی

بٹ سے ملاقات میرے لئے ایک فیصلہ کن امر ثابت ہوئی ان سے ملاقات میرے لئے بہت ہی ولولہ انگیز تھی۔ ایک ایسا شخص جس سے یہاں سے ہزاروں میل دور پرورش پائی انہی مذہبی خیالات اور تفکرات کا مالک ہے جو میں نے اپنی لمبی عمر اور محنت و کاوش سے حاصل کئے ہیں۔ میرے یہ خیالات کہ تمام مذاہب کی تہہ میں ایک ہی مذہب اور ایک ہی خدا پایا جاتا ہے اسلام کے اندر ایک ٹھوس شکل میں پائے جاتے ہیں اس لئے مجھے اس سلسلہ میں کوئی تامل نہ ہوا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤں اور سعادت دارین حاصل کر دوں۔

مولانا محمد نجفی بٹ صاحب اور میں اپنے اپنے طور پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ موجودہ زمانہ بنی نوع انسان میں قریب ترین تعلقات اور وسائل آمد و رفت کے پختے کا زمانہ ہے اور اس بات کا متقاضی ہے کہ ایک مشترک روحانی بنیاد قائم کی جائے اس بنیاد کو سب سے پہلے روحانی رہنما اور مفکرین تسلیم کریں لیکن دوسرے مذاہب بہ اشتراک اور اتحاد و اعتقاداً جائز نہیں سمجھتے، صرف اسلام ہی ایک مذہب ہے جو اس لائق ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے ہم گیر نظریات کے ذریعہ سے تمام نسل انسانی کے لئے ایک مستقل مذہبی نقطہ نگاہ پیش کرے اور ایک ایسی روحانی بنیاد قائم کرے جس کے مطابق دنیا کی اتحاد و اتفاق کی راہیں مستحکم تو ہو جائیں۔

ایک اور قابل ذکر اہم حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ملت دار سے مشرق سے مغرب تک ایک ایسا رابطہ قائم کر رکھا ہے جس کے ذریعہ روم اور یونان کے مغربی فلسفہ اور ہندوستان وغیرہ کی حکمت اور مذہبی صداقتوں کو ملایا اور اپنایا جاسکتا ہے۔ اسلام مشرق سے مغرب کے لئے ایک بڑا مضبوط اور معقول پل بنا ہوا ہے کیونکہ تمام مختلف خیالات و نظریات نہایت تندگی کے ساتھ اس میں جمع کر دیئے گئے ہیں۔ اور ہم یورپین لوگ نہایت اشتیاق کے ساتھ مشرق و مغرب میں ایک اتحادی رابطہ

اور فہم کی مزدورت محسوس کر رہے ہیں اور ہمیں جانتے ہو کہ یہ رابطہ پیرا پوچھا ہے۔

یہ میری ذاتی رائے ہے جو ان نظریاتی تبدیلیوں پر مبنی ہے جو انسانی خیالات اور عمل میں واقع ہو رہی ہیں۔ براعظم افریقہ کے لوگ بھی انسانیت کے اس روحانی گیت میں ایک آواز ہو کر شامل ہو جائیں گے۔ یورپ میں ہم اہل افریقہ کے روحانی معتقدات سے بالکل بے خبر ہیں۔ یہ جاپانیکہ ہم مشرق کے حکیمانہ خیالات سے آگاہ ہوں۔ اسلام اہل افریقہ کے معاشرتی اور روحانی تقاضوں کو پورا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔

مستر محمد یحییٰ بٹ سے یہ معلوم کر کے کہ میرے خیالات اسلام ہی کا عکس ہیں اور یہ دیکھ کر کہ اسلام ہی تمام انسانیت کے لئے امر مشترک ہے میرے لئے قدرتی طور پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ میں اسلام کی حقیقت دنیا پر واضح کرنے کی کوشش کروں، وہ غلط خیالات جو بہت سے یورپین لوگوں میں اسلام کے متعلق پھیلے ہوئے ہیں۔ میرا یہ فرض ہے کہ پوری وقت کے ساتھ ان کی ترمیم اور اسلام کی تائید و حمایت میں سینہ سپر ہو جاؤں ۛ

”میں اسلامی عقائد کی معقولیت

استحکام، حقیقت اور ان کے

عملی اثباتی نتائج سے متاثر

ہو کر مسلمان ہوا ہوں“

— ار۔ کینیڈی۔ انگلستان

اسلامی عقائد و عقول و سمجھ کے مطابق ہیں

مسلمان ہونے سے پہلے میں یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتی تھی میری پیدائش ایک مسیحی خاندان میں ہوئی، میں بھی وہی عقیدہ رکھتی تھی جو میرے ماں باپ کا تھا کیونکہ میں ان سے محبت کرتی اور ان کی اطاعت ضروری سمجھتی تھی مگر جس مذہب کی انہوں نے مجھے تعلیم دی، وہ بھی ایسا ہی تھا، جیسے دوسری چیزیں — روتی اور کپڑے وغیرہ جو ان سے مجھے ملتے تھے، بچپن کے زمانہ میں میں نے کبھی کوئی وجہ نہ دریافت کی کہ یہ جو کچھ مجھے دیا جاتا ہے عقل و سمجھ کے کہاں تک مطابق ہے جب میں بڑی ہوئی تو میں نے اپنی عقل استعمال کی۔ اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کو سمجھا اور سوچا، اس حالت میں بہت سی باتوں کو میں نے غلط پایا۔ وہ کہتے تھے کہ صرف مسیحی مذہب ہی خدا تک پہنچنے کا صحیح راستہ ہے ایسا سمجھنے کا حق کس نے ان کو دیا ہے، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں کہ تمام دنیا کی منصفی کریں۔ ایسا کرنے میں وہ گویا خدا کی جگہ لے لے رہے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ وہ تثلیث کے قائل ہیں۔ یعنی تین خدا مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے، کہ خدا باپ بیٹا اور روح القدس ایک اقنوم ہیں، لیکن میرے لئے یہ سمجھنا ناممکن ہے کہ کیوں خدا نے اپنے آپ کو دو یا تین شخصیتوں میں تقسیم کر لیا۔ خدا باپ آسمان پر بیٹھا رہا اور اپنی باقی شخصیت کو بحیثیت خدا (بیٹا) زمین پر بھیجا دیا، اور روح القدس ان دونوں کے ساتھ رہا۔ ان کا اپنا مذہب — تین ارکان پر مشتمل ہے۔ یہ کہ خدا ایک

ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یسوع مسیح اور روح القدس بھی خداوندی میں شریک ہیں۔

اسلام ایک عملی مذہب نظر آتا ہے۔ تمام کائنات کے اندر خدا کا قانون کام کر رہا ہے چونکہ یہ ایک ہی قانون ہے اس لئے خدا بھی ایک ہی ہوتا چاہیے جو تمام کائنات کا خالق و مالک اور رب و معبود ہو۔

ہمارا مذہب ہماری عقل عامہ پر مبنی ہے لیکن مسیحی لوگ اپنے عقیدہ کی صداقت کو عقل کی کسوٹی پر ثابت نہیں کر سکتے، ان کے عقائد سمجھ میں آنے والے نہیں، ان کا خیال ہے کہ مذہب اور زندگی دو الگ الگ چیزیں ہیں جو غلط ہے، ان دونوں کو ملانا چاہیے، اگر آپ اپنی روزانہ زندگی میں مذہب سے کام لیں، تو آپ خدا کے پیار سے بیٹے بن جائیں گے۔

امام صاحب مولانا یحییٰ بٹ کے تعلیم کردہ اسباق کے مطابق میں ایسی مسلمان بننا چاہتی ہوں جو اپنے مذہب کو اپنی زندگی میں صحیح طریق پر استعمال کرنا جانتی ہو۔

”خدا نے ہمیں سطح ارض پر اپنے بندوں کی حیثیت سے تمام چیزیں عطا کی ہیں اور امام صاحب نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ

”عطیہ! اب خدا کے تمام عطیات اور انعامات کو لو اور صحیح طریق سے انہیں

استعمال میں لاؤ۔“

میں اس لئے مسلمان ہوئی ہوں کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں رواداری پائی جاتی ہے اس کو مدلل طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔ یہ مذہب خدا اور انسانوں کے تعلق انسانیت اور آزادی پر مبنی ہے۔ میں اپنی آئندہ زندگی اہی مقاصد کے ماتحت بسر کروں گی اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے آگے تسلیم و رضا کا سر جھکاؤں گی۔

ایک مذہب جو الہی لو کی عالمگیریت کی تلقین کرنا ہے

میں ہمیشہ بیرونی ممالک اور ان کے مذاہب بالخصوص عربی ممالک کے حالات میں دلچسپی لیتی رہی ہوں۔ اس لئے گذشتہ موسم سرما میں میں نے پبلک ہائی سکول برلن میں دو کورسز لے لئے پہلا کورس پانچ عالمگیر مذاہب سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا عربی کورس، عربی زبان سیکھنے کے لئے لیا۔

مختلف مذاہب کے متعلق مسٹر رابرٹ کوچ نے لیکچر دیئے۔ لیکچروں کے علاوہ تمام کلاس کو برلن کے گرجوں۔ یہودی معبڈوں اور بڈھ مذاہب کے مندروں میں لے جایا گیا، میں نے ان سب کو دیکھا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ تمام مذاہب ایک ہی خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ اور بھی خداؤں کو شریک بنا رکھا ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت نہیں کرتے بلکہ بہت سے دوسرے خداؤں کی اور اپنے رُوحانی لیڈروں کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ مزید برآں یہ بھی مجھے معلوم ہوا کہ ہر مذہب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی کو صرف اپنے ہی گروڈنک محدود سمجھتا ہے اور اس الہی نور کو ماننے کے لئے تیار نہیں جس پر دوسرے مذاہب ایمان رکھتے ہیں۔

چار ماہ ہوئے انہی مذہبی مراکز کی زیارتوں کے سلسلہ میں میں اور میری ماں لوگوں کے ایک بڑے گروہ کی صحبت میں جس کی قیادت مسٹر کوچ کر رہے تھے، مسجد دیکھنے کیلئے گئے، مسجد

کے امام مسٹر محمد یحییٰ بٹ نے ایک لیکچر دیا اور تعلیماتِ اسلام کے چند پہلوؤں پر واضح کئے، انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس الہی نور کو جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے روحانی قائدین کو دیا گیا، اپنے ہی لئے محدود نہیں سمجھتے، ان کے اس نظریہ نے مجھے اپیل کیا، یہ بھی مجھے معلوم ہوا کہ اسلام حسدِ تعصب سے بالاتر مذہب ہے کیونکہ وہ اپنے ماننے والوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام مذہبی لیڈروں موسیٰ اور مسیح وغیرہ پر ایمان لائیں اور یہ انبیاء میں سے کسی میں بھی تفریق نہ دوائیں رکھتا امام صاحب نے دورانِ گفتگو میں بتایا کہ مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دوسرے پیغمبروں پر بھی ایمان رکھتے اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ یہ لیکچر میرے دل کو بہت زیادہ متاثر کرنے کا موجب ہوا اور اس نے اسلام کے متعلق زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کر دیا۔ اس لئے میں اپنی ماں کے ساتھ جو خود بھی اسلام میں دلچسپی لیتے لگیں جمعہ کی نمازوں اور بحثِ مباحثہ کی ان مجالس میں شامل ہوتی رہی، جن کے انعقاد کا بندوبست امام صاحب نے مہرقتہ کی شام کو کر رکھا ہے۔

ہم اسلام کے متعلق بہت سے غلط خیالات رکھتی تھیں، لیکن جوں جوں ہم مسجد میں آتی رہیں اسلام کی پاکیزگی اور خوبصورتی کی قائل ہوتی چلی گئیں۔

میرے ماں باپ اور دادا پر دادا لاکٹر کے پروفیسر ڈیپ کو ماننے چلے آئے ہیں مجھے کبھی اسی مذہب کا پتہ نہ دیا گیا اور کلیسا کی طرف سے ہر تصدیقِ مثبت کی گئی۔ لیکن جب سے مجھے اسلام کی صحیح تعلیم کا علم ہوا ہے جو میرے دل کو اپیل کرتی ہے اس وقت سے میرا یقین ہو گیا ہے کہ جناب مسیح بنی آدم میں سے ایک رسول تھے، وہ جیسا کہ مسیحی لوگ مانتے ہیں ابن اللہ نہیں تھے۔ اس لئے میں نے اور میری ماں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ مذہب آسانی سے سمجھ میں آسکتا اور دوسرے مذہب سے رواداری کا برتاؤ کرتا ہے۔

سچا خواب

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی طاق میں چراغ ہو۔ (اور) چراغ شیشہ (کی قندیل) میں (اور) شیشہ گویا چمکتا ہوا تارا روشن کیا گیا ہو۔ برکت واسلے زیوتوں کے پیڑ سے۔ پورے شرقی پورے مغربی ہو۔ کہ جس کا تیل خود بخود روشن ہونے کو ہو۔ اور گو اس کو ابھی آگ نہ لگی ہو۔ نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے۔ جسے چاہتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور اللہ ہر شے سے خوب واقف ہے۔

(القرآن - سورۃ نور)

ایک شخص کے لئے اپنا ارادہ اور اپنا کردار بیان کرنا آسان کام نہیں۔ اس لئے اگر میرے الفاظ غیر واضح ہوں تو درگزر فرمائیں۔ البتہ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ اس لئے میری بات اللہ اللہ سب لوگ سمجھ سکیں گے۔

میں نے اولیاء اللہ کی سی پاکیزہ زندگی نہیں گذاری۔ تاہم میں نے خدا کی جانب چلنے کی پیہم کوشش جاری رکھی ہے وہی وجہ ہے کہ باوجود میری کوتاہیوں اور کمزوریوں کے بسا اوقات تھوڑے تھوڑے وقفے کے لئے میرا قلب نوری جھلک سے تاباں و روشن ہوتا رہتا ہے۔ اگرچہ یہ نورانیت میرے قلب میں بہت ہی قلیل وقت کے لئے ہوتی تھی۔ مگر یہ کیفیت بے حد دلکش اور موثر ہوتی تھی۔ اس کیفیت میں مجھے قرب باری تعالیٰ نصیب ہوتا۔ اس کے عذاب کی کیفیت مجھ پر وارد ہوتی۔ پھر وقت کی قیود ختم ہو

جاتیں اور میں "حال" میں گم ہو جاتا۔

میں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں گہری دل چسپی سے مذاہب کا مطالعہ کیا۔ ان مذاہب کا تقابل و موازنہ بھی کرتا رہا۔ اس مطالعہ کے سبب اور حق کی تلاش میں مختلف ممالک کی سیر اور مختلف رنگ و نسل اور عقائد کے لوگوں سے ملنے کی وجہ سے میری ادبی اور عام معلومات میں اضافہ ہوا۔ مگر مجھے جس حقیقت کی تلاش رہی وہ حقیقت حقہ مجھے معلوم نہ ہو سکی۔ اس کا کامیابی کے باوجود میرا عزم پختہ ہی ہوتا گیا۔ میں خدا کی ذات کے بارے میں مشکوک نہ تھا۔ اس لئے اس کے پانے کی جوداہ میں ڈھونڈتا رہا تھا۔ اور وہ ذرا بھر فتنے کی رُوح میں مجھے بلوے مگر نظر آتا تھا۔ میں اس کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ انجام کار مجھے یقین ہو گیا کہ

میرے سوال کا جواب مغرب میں نہیں مگر میرے قلب نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں سکتا کہ اس کا جواب کہیں اور بھی نہ ہو۔ لہذا میرا رخ مشرق کی جانب ہو گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ مشرق میں میرے سوال کا جواب شافی طور پر مجھے مل جائے گا۔ پھر بھی میرے دل پر بے شمار شکوک و شبہات کے طوفان اُٹرتے رہے پس میں نے اپنے دل کو خوب ٹٹولا اور خواہشات نفسانی کو خوب جھنجھوڑا۔ چنانچہ ایک دن ایسا آیا کہ میں نے سرزمین انگلستان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ فطرت بھی عجیب رنگ دکھاتی ہے ادھر میں شکوک و شبہات کے طوفانوں سے دوچار ہوں اور رخت سفر باندھ رہا ہوں۔ ادھر موسم خزاں ہے۔ سخت سردی کا زمانہ ہے۔ اندھیری رات ہے میں اپنے گھر سے باہر چلا ہوں۔ کہاں؟ ایسی منزل کی جانب چل پڑا ہوں جس کے متعلق مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کتنے فاصلہ پر ہے۔ میں رنگارنگ زندگی کی قوس و قزح ختم کرنے اور ایک نئی اختیار کرنے نکلا تھا۔

میں لندن کے ساحل پر آیا۔ اور کنارے سے لگے ہوئے رخصت ہونے والے جہاز کے آہیں بھرتے ہوئے طرفہ پر اکھڑا ہوا میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ساحل پر ایک جانب ٹٹماتے اور جھلملاتے ہوئے ہزار ہا تارے ہیں اور دوسری طرف بحرِ ظلمات اور اس کی اُوچی اُوچی سیاہ موجیں ہیں۔ میرا جہاز اس فضا میں چل پڑا۔ آہستہ آہستہ وہ جھلملاتے ہوئے روشن تارے پہاڑ سے بلند تر سیاہ موجوں کے سایہ میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ اب میرے قلب میں سختگی پیدا ہوئی اگرچہ میں تنہا تھا۔ رات ڈراؤنی تھی اور ہر لحظہ خطرہ سامنے تھا۔ مگر میرا قلب سختگی کے ساتھ مجھ سے پکار کر کہہ رہا تھا۔

”اب تیری زندگی خدا کے لئے وقت ہے۔ تو اس کی تلاش میں نکلا ہے
 لہذا دعا کر کہ اے خدا میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا۔ مجھے یقین
 ہے کہ تو میری دستگیری فرمائے گا۔ اے خدا مجھے آنے والے حالات
 واقعات میں ہدایت اور قوت عطا کر“

مجھے قرب محسوس ہونے لگا اور میں خدا سے قریب ہوتا گیا۔ غیر معلوم منزل کی جانب سفر کے صحیح ہونے کے احساس نے شدت اختیار کی اور میرا دل علمائیت اور خوشی کا مسکن بن گیا۔
 آخر کار میرا جہاز ہندوستان جاتے ہوئے کراچی کے ساحل پر لنگر انداز ہوا، یہاں میں ایک اجنبی تھا۔ مگر مجھے خیال آیا کہ پاکستان اسلامی ملک ہے یہاں کے لوگوں سے بھی ملوں اور اسلام کی صحیح تعلیمات حاصل کر دوں میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ کراچی میں مجھے صحیح معلومات کون سے سکتا ہے چنانچہ مجھے بتایا کہ یہاں ایک بزرگ درویش صفت، روشن ضمیر، عالم دین رہتے ہیں جنہیں مشرق و مغرب کے علوم اور فلسفہ سائنس سے اچھی طرح واقفیت ہے انہوں نے کرہ ارضی کے گرد بار بار تبلیغی دورے کئے ہیں۔ چنانچہ میں پتہ کر کے ان

کے دفتر پہنچا اس مشن کے صدر پروفیسر مولانا شاہ حافظ محمد فضل الرحمن انصاری القادری سے ملاقات ہوئی، آپ کی صورت دیکھتے ہی دل آپ کی جانب الہانہ انداز سے کھنچا اور اس کی گہرائیوں سے آواز اٹھی کہ خدا نے چاہا تو منزل قریب ہے۔ پھر میں نے گفتگو شروع کی۔ مذاہب عالم اور مذاہب سقائے پرکشی ملاقاتوں میں بخشیں رہیں ان طویل اور دلچسپ مباحث کا یہ نتیجہ نکلا کہ میرا ذہن جن افکار کو صحیح سمجھ رہا تھا ان کی تصدیق ہوئی اور مولانا نے بتایا کہ میرا فکر اسلامی ہے۔ مولانا موصوف نے قبولِ اسلام کے لئے جو دلائل پیش کئے ہیں ان کا عقلی و ذہنی طور پر قائل ہو گیا۔ مگر میں روحانی مشاہدہ چاہتا تھا۔ اس لئے فوراً اپنے قبولِ اسلام کا اعلان مناسب نہ سمجھا، اپنے سابقہ پروگرام کے مطابق کراچی سے بادل ناخواستہ روانہ ہو گیا اور جنوبی ہند کے ایک آشرم میں پہنچا۔ مولانا انصاری کی رفاقت میں جو روحانی کیفیت مجھ پر طاری ہوئی وہ مجھ پر برابر قائم رہی۔ آشرم میں قیام کے بعد بھی اس میں فرق نہ آیا۔ اس آشرم کے سربراہ بڑی علمی لیاقت کے مالک میں اور مشرقی و مغربی مذاہب اور روحانیت کے عالم میں مگر ان کی رفاقت میں بھی روحانی مشاہدہ کے لئے بے چینی قلب میں قائم رہی۔ بالآخر مجھ پر رحمت الہی ہوئی۔ اور مجھے ایک خواب دکشت (میسٹر آیا۔ یہاں میں ایک بات بتا دوں۔ کہ مجھے روحانی خوابوں کی تعبیر کے علم سے کچھ واقفیت بھی ہے۔ اس لئے مجھے یقین ہے کہ میرا خواب جو میں ذیل میں بیان کرتا ہوں۔ مادی خوابوں سے مختلف ہے۔ اور حقیقت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔

میرا خواب یقیناً عجیب و غریب ہے۔ اور سرت نخش بھی وہ یوں کہ میں ایک رات اونٹ پر سوار، ایک قافلہ کے ہمراہ صحرا میں سفر پر نکلا ہوں۔ بہت مضطرب ہوں۔ خطرہ کا احساس ہے کہ ہمارے قافلہ کی منزل ہمارے لئے شدید تباہی کا باعث ہوگی رات اپنی آخری منزل میں داخل ہو رہی ہے۔ میں اپنے تین وقادار ساتھیوں کو ہمراہ لے کر اس قافلہ سے الگ نکل آیا۔ فجر کا تڑکا ابھی کچھ قریب ہی ہو گا جس جانب میں نکل آیا۔ وہ ایک لٹو و دق صحرا ہے رات

بہت اندھیری ہے۔ مجھے امداد غیبی کی تلاش ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ جو بھی تیری مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ لہذا میں تیری سے آگے چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے دو عروں کو دیکھا۔ جب میں ان کے قریب ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا قائد کون ہے؟ ان میں سے ایک نے گردن جھکائی اور نہایت ادب کے ساتھ بولا۔ "سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم"۔ ذرا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی باوقار اور پُر شکوہ شخصیت ہماری طرف تشریف لاد رہی ہے جب قرب حاصل ہوا تو میرے دل نے کہا کہ یہی وہ دنیا کی عظیم ترین شخصیت یعنی جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو ہمارے دلوں کی سیاہی کو ختم کر کے نور الہی سے بھرنے والے ہیں اور جسکو ہماری تمام مشکلات کا اچھی طرح ظم ہے۔ بس میرا دل یقین سے بھر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست کرم میں لے کر مجھے اپنے دامنِ شفقت و رحمت میں چھپا لیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ میرا قلب اس نورِ عرفان سے لبریز ہو گیا۔ آپ ہمہ جہت اور الہی اور ہدایت رسانی کے حامل ہیں۔ اور آپ کا دل محبت کا ترازو ہے جس سے عالم انسانیت کو ہر آن دہر لحظہ عشقِ الہی کی دولت تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ پس میں نے اپنے آپ کو حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں مکمل طور پر سپرد کر دیا۔ اور یہ عجیب و غریب کیفیت محسوس کی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا حصہ بن گیا ہوں۔ اس وقت مجھے آپ کی شخصیت کی عظیم القدر حقیقت کی ایک جھلک کا انکشاف ہوا۔ اور اس طرح مجھے زیارت و بشارت حاصل ہوئی سبحان اللہ علی ذالک و صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد۔

میں نے خواب سے بیدار ہوتے ہی فوراً سر بسجود ہو کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اور تب سے میں اس یقین پر قائم ہو گیا۔ کہ میں "مؤمن" ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے میرا سچا خواب۔ جو میں نے جنوبی ہند کے آشرم میں دیکھا۔ یہ صحیح ہے کہ مجھ کو اپنی منزل پانے کے لئے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑا۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ تلاشِ حق

اگر سچی ہو۔ تو کوئی بھی اس میں ناکام نہیں رہتا۔

چونکہ میں اسلام کی بے بہا دولت سے نوازا گیا ہوں اس لئے تبلیغ دین کے قابل ہونے کے لئے ان علوم کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جن کا حاصل کرنا ایک مبلغ اسلام کے لئے ضروری ہے میرے تمام دینی بھائی وہیں میرے لئے دعا کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس بلند مقصد میں کامیابی عطا کرے۔

میرا دل خوشی سے معمور ہے کہ میری زندگی خدا کے لئے وقف ہو گئی۔ اب مجھے مزید اطمینان و سکون قلب اس وقت حاصل ہو گا۔ جب میں اسلام کی خدمت میں اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن گزار دوں گا الحمد للہ کہ میری زندگی میں رنگارنگی کا جو قوس قزح تھا۔ وہ اب اسلام کے نور کے سامنے ختم ہو گیا۔ یہاں سے میری زندگی کے نئے دور کا آغاز ہے۔ اور میری تمنا ہے کہ میری زندگی قرآن کریم کی حسب ذیل آیت کی مصداق بن جائے۔

قل ان صلواتی ونسکی و عیالی و مماقی لله رب العالمین
لا شریک له۔

ترجمہ:- (یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ فرمادیں گے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا۔ سب اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا پانہار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنی برکتیں و رحمتیں مازل فرمائے اور اسلام کے نور کو تمام دنیا میں پھیلا دے۔ آمین۔

اللہم ثبت اقدامنا علی الاسلام واخرد عوانانا
الحمد لله رب العالمین +

اسلام کی بنیاد پر تعلیمات

تقریباً دو سال کا عرصہ ہوا کہ مجھے خلیج فارس کے علاقہ میں ایک ملازمت مل گئی تھی۔ مجھے اس علاقہ میں وہاں کے باشندوں سے ملنے جھٹلنے اور ان کے تمدن، ان کی تہذیب و رسوم کا بہت قریب سے مطالعہ و مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ مسلمانوں سے ملنے جھٹلنے کا جو موقع ملا اس سے میں نے اپنے دل میں یہ تاثرات محسوس کئے کہ اسلام کی تعلیم نے ان لوگوں کے اخلاق کو سوار دیا ہے۔ اور ان کی زندگی اسلام کی تعلیم کے سانچے میں ڈھل کر حقیقی انسانی زندگی کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ان کی زندگی کے مقاصد ذاتی اغراض و مفادات سے بالاتر انسانیت کی بنیادوں پر معبود حقیقی کی عبادت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ اور یہی انسانی زندگی کا وہ انداز اور اسلوب ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔

خلیج فارس کے گرد و نواح کے علاقوں میں مجھے مسلمانوں کے کئی مختلف قبائل سے ملنے کا اتفاق ہوا اور میں نے دیکھا کہ اسلامی تعلیم نے ان تمام قبائل کیوں کے اطوار اور ان کے اخلاق و کردار میں یکسانیت پیدا کر دی تھی۔ خدا شناسی اور خدا کے حضور میں خود سپردگی کے انداز میں عبادت کرنے کے لئے خود کو ایک ہی صفت میں کھڑا کر دیا تھا۔ اور وہ سب کے سب مختلف قبائل سے وابستہ ہونے کے باوجود فرزند ان توحید کی حیثیت میں ایک کھتے۔ اس جذبہ کے تحت میں نے ان لوگوں میں اسلامی اخوت اور مساوات کا جو انداز دیکھا اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔

تملک میں سوشلزم اور مساوات کا یہ عالم تھا کہ کسان ہوں یا کھیتوں میں کام کرنا الے
 مزدور ملوں کے مالک ہوں یا غریب سب ایک ہیں۔ لیکن یہ دنیاوی فرقان کی دیکر حیثیت
 پر قطعی اثر انداز نہیں ہوتا۔ اور جب وہ اپنے مختلف دنیاوی فرائض منصبی انجام دینے
 کے بعد خدا کے حضور ایستادہ ہوتے ہیں تو محمود و ایاز کے فرق کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ خدا
 کے حضور میں سب سے بیٹا، اور چھوٹے سے چھوٹا انسان دونوں حقیر اور ناتوان ہیں اور دونوں
 ایک ہی صفت میں کھڑے ہو کر خدا کی تعریف اور حمد و ثنائیں مشغول ہو جاتے ہیں اور پھر
 ایک ساتھ خدا کی تعظیم کرتے ہوئے سر بسجود ہوتے ہیں۔ میں نے اسلام کا یہ روح پرور
 اور ایمان افروز انداز کسی دوسرے مذہب میں نہیں دیکھا۔ اور اسلام کی اسی صداقت نے مجھے
 اپنی طرف پوری طاقت سے کھینچ لیا ہے

میرے خیال میں کسی مذہب کی طرف کسی انسان کو کھینچنے والی چیز وہ رشتہ ہوتا ہے
 جو اس مذہب کے تحت ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان اور اسی طرح خُشال و
 مخلوق کے درمیان متعین ہوتا ہے اور اسی اصول کی حقیقت اور خوبیوں پر اس مذہب کی فطری
 حیثیت اور خوبی کا احصاء ہوتا ہے۔ یہ فطری حیثیت اور خوبی میں نے اسلام سے زیادہ
 کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی۔ اسی لئے پوری تحقیق کے بعد میں اسلام قبول کر کے
 بہت محفوظ ہوا۔ اور میں نے ایسا محسوس کیا جیسے گم کردہ راہ کو سیدھا راستہ مل گیا ہو۔
 جیسے تھکے ماندے مسافر کو منزل مل گئی ہو۔ جیسے بوجوں سے بڑھتے ہوئے تشار کو ساحل کی
 آغوش مل گئی ہو۔ اور ایک بے بہارا اور ناتوان مخلوق کو اس کے قوی و قادر خالق کی اعانت
 حاصل ہو گئی ہو!

امریکہ کے مسٹر ہیری۔ ائی ہیکل نے بھی اسلام کے متعلق اپنے تاثرات ظاہر کرتے
 ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو آج اسلام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور دنیا آج جس

کشمکش اور بن مشکلات و مصائب میں پھنسی ہوئی ہے اس کا واحد حل اسلامی تعلیمات ہیں۔
 میں خوش ہوں۔ بہت خوش ہوں اور اپنی مسرت کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ تعالیٰ
 نے میرے دل۔ میری آنکھوں اور میرے کانوں کو کھول دیا اور میں رہبر عظیم حضرت محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ سکا۔ میں قرآن شریف کے احکام سے واقف ہوا اور مجھے
 اللہ تعالیٰ کی وحدت اور رسول اکرم کی رسالت کو تسلیم کرنے کا موقع ملا اور میں جہالت کے
 اندھیرے سے اسلام کی روشنی میں آ گیا۔

میرا قومی مذہب مسیحیت تھا لیکن اس مذہب کی تعلیمات میں زندگی کا اطمینان و سکون
 مجھے حاصل نہ ہو سکا۔ اور میں نے دیگر مذاہب کی تحقیق شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے
 میری اعانت فرمائی کہ میں اسلام قبول کر لیا الحمد للہ۔



”مجھے مذہب کے تقابلی مطالعہ کا بڑا شوق تھا۔ اور کچھ عرصہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر
 مجھے معلوم ہوا کہ اسلام بہترین مذہب ہے اور اس کے عقائد دیگر مذاہب کے
 برعکس روزمرہ معمولات میں عملاً مروج ہیں۔ اس نتیجہ پر پہنچ کر میں نے مولانا محمد علی
 کے ترجمہ القرآن اسلامی تعلیمات اور حیات نبوی کی کثیر کتب کے ذریعہ اسلام
 کا مطالعہ شروع کیا۔ اور اب میرا یہ ایمان ہے کہ اسلام انسانیت کے لئے
 حقیقی اور موثر ہے“

آر۔ ڈبلیو۔ جے، آسٹن۔ انگلستان

انسائٹ کا مذہب

میں ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوا اور مسیحی مذہب کے اعتقادات کے مطابق پرورش ہوئی، کیونکہ میرے سرپرستوں اور میرے خاندان کا مذہب مسیحی تھا، ابتدا میں میں نے ایک لٹریٹری پبلک سکول میں تعلیم حاصل کی۔ اور وہاں تعلیم کی تکمیل کرنے کے بعد یونیورسٹی میں داخل ہوا، جس سکول میں میں نے تعلیم حاصل کی تھی اس میں تعلیم کے دوران روزانہ دو بار گرجا گھر میں حاضری بھی لگنی تھی یونیورسٹی میں تعلیم ختم کرنے کے بعد میں بحری فوج میں شامل ہو گیا۔ اور وہاں بھی بحری فوج کے گرجا گھر میں پابندی کے ساتھ عبادت میں شرکت کرتا رہا۔ بحری فوج میں رہتے ہوئے جنگ کے دوران..... میں مجھے اکثر مشکلات و مصائب کا مقابلہ کرنا پڑا۔ آپ کو شاید یہ سن کر حیرت ہو کہ بحری فوج میں رہ کر جنگ کے دوران مجھے مشکلات و مصائب کے ایسے واقعات پیش آئے کہ مجھے خدا کو یاد کرنے کا موقع ملتا رہا۔ سچے مصیبت کے وقت خدا کی یاد آتی ہے۔ اور اچھی طرح آتی ہے!

جنگ کے دوران بہت سے ایسے واقعات مجھ کو پیش آتے رہے کہ میں اپنی غوطہ خوردگی میں کئی کئی روز تک سمندر کی لہروں کے نیچے رہا۔ دنیا اور دنیا کی آب و گل سے دور سمندر کی تہوں میں گھنٹوں ایسا معلوم ہوتا کہ میں اس قریبی زندگی سے بہت دور اور اپنے خالق سے قریب تر ہوں۔

مسلل گھنٹوں اور دنوں سمندر کی لہروں کے نیچے رہتے ہوئے میرے دل میں اپنے

خالق کے متعلق بہت سے خیالات پیدا ہوئے اور ان خیالات نے میرے دل میں بہت سے سوالات ابھارے جن کے جواب مجھے مسیحی اعتقادات کے تحت نہ مل سکے۔ میں نے ہر مسیحی مذہب کی تعلیم کے تحت اپنے ذہن کو تشفی اور تسکین دینے کی کوشش کی مگر اس میں ناکام رہا۔ اور غور و خوض کے بعد میرے ذہن میں ایسے رجحانات پیدا ہوئے جن سے مجھے تسلی ہوئی لیکن میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ جن خیالات نے میرے ذہن کو تسکین بخشی وہ مسیحی مذہب کے اعتقادات سے متعلق نہ تھے لیکن میں یہ یقین بھی نہ کر سکا تھا کہ یہ احساس و جذبات کس مذہب اور کن اعتقادات کے تھے۔

خوش قسمتی سے جنگ کے خاتمہ پر مجھے ملایا میں ملازمت مل گئی۔ وہاں مجھ کو مسلمانوں سے ملنے جلنے کا موقع ملا۔ ان کے عادات و اطوار دیکھ کر اور ان سے تبادلہ خیالات کر کے مجھ کو آخر کار یہ اندازہ ہوا کہ جن احساس و جذبات نے میرے ذہن کو تسکین اور سکون بخشا تھا وہ دراصل اسلام کے عقائد تھے۔ میں محسوس کرنے لگا کہ اسلام میں زندگی کے صحیح راستہ پر چل سکتا ہوں۔ میں نے ملایا میں اپنے قیام کے دوران اپنے دل کے دوستوں سے جو مسلمان تھے اس سلسلہ میں تبادلہ خیالات اور استفادہ شروع کر دیا۔ میں ان مسلمانوں کے تخلص اور صداقت آمیز رنگ سے بھی متاثر ہوا۔ لیکن جس چیز نے مجھ کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ مسلمانوں کا جذبہ اہوستا اور باپمی ہمدردی تھی۔

میں نے ملایا کے مسلمانوں کو عبادات میں مشغول اور ایک دوسرے سے ملے کاروبار میں مصروف دیکھا جب وہ اللہ کی عبادت کرتے تو ان میں خالق کے سامنے خود سپردگی اور بندگی کا جذبہ اثر انگیز ہوتا، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے تو ان کا انداز بے لوث بے دیا اور صداقت پر مبنی ہوتا۔ وہ انسانیت نواز تھے۔ ان کے لئے میں ایک اجنبی تھا لیکن اس کے باوجود انسانیت کے تقاضوں کے تحت وہ میرے ساتھ بھی نیکی، نرمی

اور جہربانی سے پیش آتے تھے۔ ان میں ذات پات، ادنیٰ اعلیٰ اور پیشہ وارانہ تفریق کو کوئی درجہ حاصل نہ تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کو بھائی اور برابر سمجھتے تھے۔ اور اخوت و مساوات کے پابند تھے۔

ملائیہ کے مسلمانوں کے اس انداز اور ان عقائد نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں ان سے اسلامی عقائد کے متعلق کچھ سیکھوں اور میں نے دہلی کے ایسے مسلمانوں سے جو عالم تھے اور مذہب کے متعلق معلومات رکھتے تھے اسلام کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ میں نے ان علماء سے قرآن شریف پڑھا۔ احادیث کی متعدد کتابیں پڑھیں، اسلامی تعلیمات و تاریخ کی کتب پڑھیں اور روز بروز اسلام کے متعلق میری واقفیت اور معلومات میں اضافہ ہوتا گیا میں نے ان علماء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر بھی متعدد کتابیں پڑھیں۔ حیاتِ طیبہ اور رسول اکرم ﷺ کے معمولات زندگی کی پاکیزگی نے مجھے بحد متاثر کیا۔ میں سچے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ اسلام کی تعلیم اور رسول اکرم ﷺ کی زندگی کے متعلق پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ زندگی کی تمام تر روشنیاں اور خوبیاں اسلام میں موجود ہیں اور زندگی کی صداقتیں اپنانے اور زندگی کو صحیح شاہراہ پر گامزن ہونے کے لئے میں نے اسلام کو قبول کیا۔ خدا مجھے اپنے فیصلہ پر مستحکم رکھے۔



”اسلام اور دیگر مذاہب میں یہ فرق ہے۔ کہ دوسرے مذاہب تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ذریعہ عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ عمل کے ذریعہ ایمان ہو۔“

_____ علی احمد ڈنڈا

اسلام اور رنگ و نسل کا امتیاز

رسالہ اسلام ریویو میں انگلستان میں اسلام کی ترقی کا حال پڑھ کر مجھے نہایت خوشی ہوئی اور دلچسپی پیدا ہوئی۔ میں نے عراق عرب میں آج سے اٹھارہ چھینے پہلے اسلام قبول کیا تھا میں نے مسلمان ہونے سے پہلے اس کا خوب مطالعہ کیا۔ میں نے اس بات کو جان لیا کہ تعظیم لامر اللہ و شغفقت علی خلق اللہ کو اسلام سے بہتر اور کوئی مذہب نہیں دکھاتا۔ اور اس بات کو محسوس کیا کہ مذہب عیسائیت کے اصول کسی طرح بھی میرے دل کو تسلی و تسکین نہیں دے سکتے۔ سب سے زیادہ بات جو میرے دل کو اچھی لگی

وہ مسلمانوں میں رنگ اور قوم کے امتیاز کی تعدیم تھی بقول شاعر

پیدا ہے جس سے اسود و احمر میں امتسلاط

کرتی ہے جو غریب کو ہم پہلوئے امیر

یورپ کے رنگ اور قوم کے امتیاز کو میں نہایت فضول اور بے کار سمجھتا ہوں۔

ان قوموں میں جو سفید رنگ ہیں دوسرے رنگوں کی قوموں کے خلاف رنگ و قوم کا امتیاز بہت پایا جاتا ہے وہ ان لوگوں کو "نیو" کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو رنگ دار قوموں کے ممالک میں رہتے ہیں یا وہاں گئے ہیں اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سفید قوموں کے دوسری قوموں سے سلوک میں یہ امتیاز رنگ و قوم بہت نمایاں ہے۔ یہ امتیاز بے انصافی اور قطع تعلق ہر حالت میں دیا ہی رہتا ہے۔ چاہے وہ "نیو" عیسائی ہی کیوں نہ ہو، ان ممالک میں جہاں عیسائی سفید اور سیاہ نام قومیں دونوں آباد ہیں۔ وہاں ان کے گرجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ سفید قوم کا الگ

اور سیاہ یا زرد قوم کا انگ اور اگر ایک ہی گرجا ہو۔ تو سفید قوم کے افراد گرجے کے اگلے حصے میں بیٹھتے ہیں اور دوسری قوموں کے لوگ پچھلے حصے میں۔ حالانکہ یسوع مسیح علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ اس گرجے اور عبادت کے ذریعے سے لوگ جان جائیں گے۔ کہ تم میرے پیلے اور شاگرد ہو اور یہ کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو؟

اگرچہ مسلمانوں میں بھی اپنی اپنی نسل کی جہانی یا دماغی بڑائی کے دعوے اور مقابلے کئے جاتے ہیں وہ فخر شہری اور مویشل زندگی میں اور مسجد کے اندر اس امتیاز کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ ایک عرب اپنے آپ کو عقل و دانش میں ایک حبشی سے خواہ زیادہ سمجھے۔ مگر جب وہ ایک حبشی مسلمان کو مسجد میں یا کسی اور جگہ ملتا ہے تو وہ اسے اپنا بھائی سمجھ کر ضرور **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** کہتا ہے۔ اگر موقع ملے تو اس کے ساتھ بات چیت کرنے اور یا ہم مل کر کھانا کھانے سے کسی طرح دریغ نہیں کرتا۔ ایک امیر آدمی کیسی ہی بڑی حیثیت کا آدمی کیوں نہ ہو۔ جب کبھی کسی غریب آدمی یا فقیر کو راستے میں ملے گا ہمیشہ **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** ہی کہے گا۔ مسجد میں امیر و غریب سیاہ و سفید اور کسی شخص کے لئے بھی سوائے امام کے کوئی جگہ خاص نہیں ہوتی بلکہ سب ہی پہلو پہ پہلو اپنے رتبے کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔

اس مساوات و یگانگت اسلامی نے میرے دل پر خاص طور پر اثر کیا۔ بہت سے اہل نظر نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہے مگر افسوس ہے کہ بہت کم یورپین لوگ اہل نظر ثابت ہوتے ہو۔ پھر بھروسے پی بیٹھنا ڈچتوں نے کئی سال اسلامی ممالک میں گزارے ہیں وہ

اس طرح رقمطراز ہوتے ہیں:-

”اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کو باپ بتانے کا ذریعہ عیسائی کرتے ہیں کسی کو شان و گمان بھی نہیں۔

مگر اسلام میں واقعی حقیقی و سچی مساوات اور یگانگت پائی جاتی ہے۔ اور اس عیسائی مذہب برادری سے جس کا بہت بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہیں بڑھ چڑھ کر ہی۔ اسلام میں رنگ و قوم کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو اسلام ایسی معمولی باتوں سے بالاتر ہے۔ اس میں عیسائیت کی طرح کوئی

کر دیا ہے۔ مگر مشرقی ممالک میں ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مشرقی بادشاہ کو جس کو نجیم مطلق العنان سمجھا جاتا ہے اسے رعایا کا ایک عزیز اور مسکین آدمی بھی بل سکتا۔ اور اظہارِ حال کر سکتا ہے۔ اس مضمون پر ایک مغربی اہل قلم اس طرح عامہ فرمائی کرتا ہے:-

”قانون اسلام حقیقت میں آسمانی اور نہایت عجیب و غریب حقیقت سے پڑ ہے اور وہ سب سے اعلیٰ شاہراہ اور معیار کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ مگر ہمیں اس کے ماننے پر مجبور نہیں کرتا۔ وہ ہر ایک کیفیت اور خاص طور پر انسانی فطرت کو اپنے اندر رکھتا ہے۔“

سے بڑھ کر یہ کہ بادی النظر میں بھی وہ اصل اور حقیقی معلوم ہوتا ہے۔ ان عیسائیوں کو بھی جو کہ تعدد ازواج کے عواذ کے خیال پر دہشت سے اپنا منہ ہاتھوں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ یہ بات ضرور ماننا پڑتی ہے کہ تعدد ازواج بُری نہیں ہے۔ پُرانے زمانے میں صاف طور پر اس کی اجازت

کھی۔ لوگ اس پر عامل تھے۔ اور خدا کی عین مرضی کے مطابق۔ جیسا کہ حضرت ابو اہیم علیہ السلام و حضرت داؤد علیہ السلام و حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحمل سے ظاہر ہے۔ اسلام جس طرح طلاق کو نہیں سراہتا، اسی طرح کثیرالازواجی کی وکالت نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک خاص میں خاص حالات دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ عیسائی گرجے نے کثیرالازواجی کو روکنے کے لیے

سخت سے سخت قانون جاری کئے ہیں۔ مگر چنداں کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ علاوہ انہیں اس کے شادی کے قوانین نے کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھا۔ یہ اس بات کی شہادت کہ ان معاملات کے متعلق اسلامی قوانین نہایت کافی اور شافی ہیں۔

میجر اے بی یونارڈ

جو ایسا انگریز ہے جس نے مسلمانوں اور اسلامی ممالک کے متعلق قریباً تمام

موجودہ یورپیوں سے زیادہ علم رکھتا ہے لکھتا ہے

”مسلم سوسائٹی نہایت کامیابی کے ساتھ یورپین سوسائٹی سے مقابلہ کر سکتی ہے مجموعی طور

پر کثیر اللذو واجی پر عامل مسلمان اخلاقاً ہر طرح اپنے انگریزی - فرانسسی اور جرمن معصروں کے برابر بلکہ بہتر ہوتے ہیں۔ عام طور پر کثیر اللذو واجی کا وجود عملاً نہیں بلکہ اصولاً ہے علاوہ ازیں

مسلمانوں میں بدکاری اور بد اخلاقی کا بہت کم وجود پایا جاتا ہے۔ شراب نوشی اور عام بدکاری قریباً قریباً مفقود ہیں مگر ان شہروں میں جہاں کے یورپیوں کے وجود نے انہیں ضروری قرار دیا ہے وہاں یہ اپنے کمال پر پہنچی ہوئی ہیں۔ پریزگاری اور تہذیب و تقوے کے صرف زبان تک ہی محدود تھیں۔ بلکہ عمل میں لائے جاتے ہیں۔ ان باتوں کو بد نظر کہتے ہوئے ایک نوجوان مسلمان اپنے معصروں پر زور دیتے ہیں۔ آواز جوتی میں ہی شادی کر لینے کی وجہ سے وہ ان قبیح اور شرمناک افعال میں نہیں پڑتا جن میں یورپ کے نوجوان کھلم کھلا مذہب کی آڑ لیکر داخل ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنے بیٹوں اور پوتوں کے لئے وہ مضر صحت اور گندے درخت نہیں لگاتے جن کا تلخ ثمرہ وہ مدتوں اٹھاتے ہیں۔ سوچنا تک فرقہ ذکور کا تعلق ہے۔ اسلام کا سوشل نظام یقیناً عیسائیت کے نظام سے کہیں بہتر اور موثر ہے۔“

مندرجہ بالا عبارت جنگ یورپ سے چند سال پیشتر لکھی گئی تھی۔ یہ بات معنی نہیں ہے کہ اس وقت سے بیکر آج تک یورپ کی اخلاقی حالت دگرگوں ہوتی چلی گئی ہے پادریوں کے اسلامی ممالک کے متعلق ہمیشہ غلط بیانیوں اور بہتانوں کے مقابل ایک برٹش انسٹیٹیوٹ کی صاف اور سچی رائے جو اس نے کئی سالوں کے تجربے سے قائم کی اور جو بغیر کسی مطلب اور غرض کے لکھی گئی بہت زیادہ قابل قدر اور قابل اعتبار ہے۔ میں یہ بھی لکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا تجربہ بھی سسطی اور خام تجربہ نہیں ہے یہ میجر لیونارڈ کی شہادت کی پوری تائید کرتا ہے۔ یہی مہنت اپنی کتاب میں ایک اور جگہ لکھتا ہے :-

”اسلام اور مسلمانوں کے متعلق جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ میری عینی شہادت پر مبنی ہے قرآن کا مطالعہ کرنے کے علاوہ میرا اسلام اور مسلمانوں کے متعلق علم میرے وسیع ذاتی تجربہ پر منحصر

ہے۔ میں ملک ملک پھرا اور مختلف حالات کے ماتحت رہا ہوں ہر ذوق اور خیال کے مسلمانوں سے ملا ہوں۔ ہر جگہ مجھے ایک ہی سپرٹ نظر آتی جو ان کے سینوں میں موجزن تھی۔ کہ قوم اور رنگ اسلام کی سپرٹ میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتا۔ میں نے ان کو ہمیشہ مستقل مزاج۔ صادق الیقین۔ متقی دیانتدار اور اپنے مذہب پر مضبوطی سے قائم دیکھا۔ تمام چیزوں پر وہ اپنے مذہب اسلام کو مقدم سمجھتے ہیں۔ عام طور پر میں نے افغان۔ عرب۔ بلوچی۔ شمالی ترک۔ مصری۔ ہینڈ اینڈ دنا۔ بربر سنگالی۔ فلانی۔ ہنس۔ یارویا۔ مارڈنگو اور ملائی لوگوں کو اسلامی رنگ میں رنگین دیکھا۔ امن یا جنگ۔ کیمپ یا چھوٹی کام کرتے ہوئے یا ان کے پہلو پہ پہلو یا ان کے خلاف لڑتے ہوئے میرا ذاتی تجربہ ان کی اخلاقی حالت اور مذہبی سپرٹ کے متعلق ایک ہی بسیار ہے۔ ان کی مذہبی دوا داری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اللہ تعالیٰ کی قدیمیت کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو خواہ مخواہ ان کی تعریف کرنے اور عزت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ میرے دل میں ان کی اپنے مذہب کی خاطر حیرت ناک جڑت اور لوگوں کے ساتھ گہری دوا داری دیکھ کر جن کا انہوں نے تک کھایا ہو بڑی عزت، تعریف اور عظیم پیدا ہوتی ہے۔ یہ انسان اسلام کے شایان ہیں اسلام بھی ان کے نمایاں ہے۔ اسلام کی حقیقی روح اور اخلاقی اور روحانی جوہری ہے جس نے بنی نوع انسان کے ایک وحشی اور تہذیب سے نا آشنا حصے کو ایسے اعلیٰ اور ارفع معیار پر پہنچا دیا ہے۔

میں نے ان متدرجہ بالا عبارات کے نقل کرنے میں کسی مبالغے سے کام نہیں لیا ہمارے مشرقی بھائیوں کی خوبیاں ہمارے لئے قابلِ فخر نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ ان کے تذکرہ سے میری عرض اسلام کے عملی اثرات اور مسلمانوں کی عملی زندگی کا ایک نسخہ دکھانا مقصود ہے۔ ہمارے بھائیوں کی اعلیٰ خوبیوں کو دیکھ کر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی ترغیب حاصل ہوتی ہے۔

دینِ دلپذیر

میرے لئے یہ کہنا مشکل امر ہے کہ مشرقی دنیا سے میری پہلی دلچسپی کس طرح ہوئی تھی۔ پہلے پہل مطلقاً لسانیاتی تھی۔ عرصہ تیس سال پہلے جب میری عمر آٹیرہ سال کی تھی پرائمری مدرسہ میں میں نے عربی پڑھنا شروع کر دی تھی۔ مگر چونکہ مجھے مدد دینے والا کوئی نہیں تھا اس لئے پہلے پہل کوئی ترقی حاصل نہ ہوئی۔

میں عربی کی تعلیم کے توسط سے ہی میں اسلام سے واقف ہوا تھا۔ میں نے اسلام کے بارے میں بہت سی کتابیں خریدیں جو تمام کی تمام مغربی مصنفین کی لکھی ہوئی تھیں ان میں سے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہو گیا۔ مگر اسلام کے بارے میں میرا نظم قدرے محدود تھا۔ میرا رہنا کوئی نہ تھا۔ جس کتاب سے میں بید متاثر ہوا وہ اسی جی براؤن کی کتاب پرشین لٹریچر ان ماٹن ٹائٹل (عصر جدید کا فارسی ادب) تھی۔ اس تالیف لطیف میں دو نظروں کے بند ہیں ایک تو حافظ صہبانی کا ترجمہ بند اور دوسرا معتقہ کاشانی کا ہفت بند۔ ان کو پڑھ کر میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تھا۔ حافظ کی نظم نے مجھے پہلے پہل بہت زیادہ متاثر کیا۔ اس نظم میں ایک رُوح کی حسین و جمیل خیالی تصویر پیش کی گئی ہے جو زندگی کے اعلیٰ مقصد کے حصول میں ہراسان و پریشان ہے۔ مجھے اس نظم میں حق کی خاطر میری اپنی جدوجہد کی راہ معلوم ہو گئی، اگرچہ اس نظم کے بعض بیتوں سے اتفاق نہیں کر سکا مگر اس نظم نے مجھ پر ایک بڑی حقیقت منکشف کر دی۔

اپنی والدہ کی خواہش اور خود اپنی رغبت کے مطابق میں نے مذہبی امور کے خصوصی

مدرسہ میں داخل لے لیا۔ نہ صرف میں نے اس کے مذہبی اصولوں کو اپنا لیا بلکہ تعلیم عامہ کے پیش نظر عیسائیت کا تھوڑا بہت علم بھی حاصل کرنا ضروری خیال کیا۔ جب میں نے تھاب پورا کر لیا تو پرنسپل صاحب میرے ہاتھ میں قبول اسلام کا تحریری اقرار نامہ دیکھ کر قدرے متعجب ہوئے۔ ان ابتدائی دنوں میں میرا ایمان غیر منطقی تھا۔ یہ ایک یقین کلی تھا جو سچا اور کھرا تو تھا مگر مغرب کی منطقی مادیت کے حملہ کے دفاع کے لئے دلائل و حقائق سے مسلح نہیں تھا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام ہی کیوں قبول کیا جائے۔ وہ مذہب کیوں نہ اپنایا جائے جس میں انسان نے آنکھ کھولی ہو۔ اس کا جواب بذات خود اس سوال کے لفظ اسلام میں موجود ہے۔ امن، امان، سکون و آرام۔ شاعقی و سلامتی اور اطاعت الہی کا نام اسلام ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ العنقر کی آیات ۲۷ تا ۳۰ کا ترجمہ کرتا ہوں مگر ان کا ذاتی حسن اعجاز ترجمہ میں قائم نہیں رہ سکے گا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ:۔

” اے اطمینان پانے والی جان۔ اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔“

اس لئے صرف نام اسلام ہی سچا اور حقیقی مذہب ہے۔

عیسائیت کے اس عقیدہ کا _____ کہ شیر خوار بچہ اپنے آبا و اجداد کے گناہوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے مندرجہ ذیل تسلی بخش کلام سے مقابلہ کیجئے۔ ارشاد ہے:۔

” جو شخص کوئی بُرا کام کرتا ہے اس کا وبال اُس پر ہے۔ اور

کوئی بوجھ اٹھائے تو وہ اس سے بوجھ نہیں اٹھائے گا۔“

(سورۃ انعام آیت ۱۶۵)

پھر فرمایا:۔ ” ہم کسی پر اُس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے“

(سورۃ الاعراف آیات ۱۲)

اسلام میں فطرت کا رنگ

یہ ایک نہایت تعجب انگیز بات ہے۔ اور ہے امر واقعہ کہ عیسائیت کے مختلف شعبوں اور شکلوں کے اصولی مسائل اور معتقدات اکثر پہلوؤں سے انسانی ضمیر و وجدان کے تقاضوں کے خلاف واقعہ ہوئے ہیں ایک معمولی سمجھ اور عقل کا آدمی بھی ان کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ عیسائی مذہب کے عقیدوں پر صاف کرنا اور انہیں بچوں و چرامان بنادرا آتا لیکہ وہ ان عملی باتوں اور یقینوں کے بالکل برخلاف نظر آتیں جن پر انسانی ہستی اور تجربہ کی ہر لگ چکی ہو۔ گویا عقل اور دماغ پر ایک تاجاڑ بوجھ اور دباؤ ڈالتا ہے۔

ممکن ہے کہ سائنس کے بعض جدید قائم کردہ اصولوں کی روشنی میں خدائی ہستی پر ایمان رکھنا عقلاً عقل دکھائی دے۔ لیکن عملی نکتہ سے اس قسم کا ایمان یقیناً فطرت کے عین مطابق ہے۔ مثلاً جب ہم کوئی اعلیٰ درجہ کی ہنرمندی سے تیار کی گئی عمارت دیکھتے ہیں یا تعمیر کے متعلق کسی قسم کا نہایت محنت اور دانائی سے تیار کیا ہوا نقشہ ہماری نظر سے گزرتا ہے یا کوئی نہایت صفائی اور خوبصورتی سے تیار کی گئی تصویر یا مجسمہ ہمیں دکھائی دیتا ہے تو بے ساختہ فطرتاً ہمارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا بنانے والا کوئی نہایت ہی لائق اور عقلمند شخص ہے۔ اور اگر ہم ایسے شخص کی پرستش نہ کریں تو کم از کم اس کی تعریف تو ضرور کرتے ہیں۔ یہی حال انسان کی اپنی جان اور ہستی کا بھی ہے۔ جب تمام مذاہب کے ماخذ کی تلاش کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں سب کا یہی اعتقاد اور ایمان تھا کہ خدا و اہل اہد اور غیر فانی ہے لیکن زمانہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ خیالات ناسدہ داخل ہو گئے اور ابتدائی وحدانیت کے

خیالات کی جگہ ترک فی الوجدت نے تصرف کر لیا۔

یہ خیال فطرت انسانی کے عین برعکس ہے کہ خدا نے لاپرواہی سے انسانی پر اس قدر برا فروختہ ہو گیا۔ کہ اپنے غصہ کو فرو کرنے کی خاطر اپنے لڑکوں میں سے ایک کو قربان کر دینے کے لئے ضروری سمجھاتا انسان جو اسی کے پیدا کر دیا اور اسی کے پیچھے میں عذاب سے بچ جائیں۔ انسانی عقل اور سمجھ کے بھی یہ بات خلاف معلوم ہوتی ہے کہ انسانی جامہ میں خدا براہِ ذراست حلول کر جائے۔ یہ ایک نہایت ہی پر از تکلف نتیجہ ہے۔ اور اگر بقول بعض یہ مان بھی لیں کہ انسان آفرینش خدا ہی میں جذب ہو جاتا ہے تو بھی مذکورہ بالا نتیجہ مشکلہ ارتقاء (.....) کے بالکل خلاف ہے اس قسم کا اعتقاد فطرت کے مطابق نہیں اور انسان کی سمجھ پر ایک ایسا پوچھ ہے جو قابلِ برداشت نہیں۔ اس اعتقاد کا دوسرا رنگ مسئلہ کفارہ کی شکل میں نظر آتا ہے جس پر بہت سے ایسے اشخاص کا جو جذب عیسائیوں کے نام سے پکارے جاتے ہیں ایمان ہے۔ یہ اعتقاد کہ خدا لاپرواہی سے انسانی کتبہ کو یہ جتلاتے کے لئے کہ وہ ان سے کس قدر محبت رکھتا ہے اپنے ایک لڑکے کو دیدہ دانستہ قربان کر دے نہایت ہی بڑا اور فطرت کے برخلاف ہے اور یہ فعل وہ اس لئے نہیں کرتا کہ اس کا نفع فرہ ہو بلکہ وہ اس سے اپنی شفقت پر راہ ظاہر کرتا ہے !

ابتداء کا مادہ انسان کے اندر ایک قیمتی جوہر ہے۔ لیکن اسے اس رنگ میں لینا جس میں عیسائیت نے لیا ہے اس کے مطلب کو نہ سمجھتا ہے بلکہ یہ انسان کے خیالات اور احساسات کو غارت کرنے والا ہے۔ کیونکہ کوئی شخص بھی اس قسم کے فعل کو دماغ میں نہیں لاسکتا۔ وہ مذہب عین فطرت کے خلاف ہے جو نسل انسانی میں سے کسی ایک فرد کی تکلیف یا قربانی کی اجازت دے :

خدا اور انسان کا تعلق براہِ راست یا بذریعہ فرشتوں کے ایک ایسا امر یا اعتقاد ہے جسے انسانی فطرت چاہتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے ساتھ اس قسم کا تعلق اور رشتہ قائم ہوتا ہے آہستہ آہستہ مدارج حاصل کرتا ہے اور ترقی کے معراج پر پہنچتا ہے۔ یہ ترقی روحانی

قواعد پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے، یہ راہ سب کے لئے کھلی ہے، لیکن عام لوگ اس سے ناگاہ نہیں اٹھاتے
 کسی خواہش کے بدل میں پیدا ہونے پر اس کے حاصل ہونے کے لئے قدم اٹھانا اور نکل کر نا ضروری ہے۔ ان طریقوں
 اور عملوں میں سے ایک وہ تھا جو رسول اکرم حضرت محمد مصطعم نے اختیار کیا، آپ کی خدمت میں جبکہ آپ فارحرا
 میں مراقبہ فرماتے تھے خدا کی طرف سے پیغام پہنچا۔ چونکہ صرف آپ کے لئے رہنمائی، نوشی اور امن
 لایا بلکہ نسل انسانی میں لکھو کھپا انسان کے لئے بھی خدا کے وصال کیلئے پیغام لایا عبادت نہ صرف پہلا قدم ہے بلکہ
 یہ بالواسطہ بھی ہے عبادت کرنا تو فطرت کے مطابق ایک فعل ہے۔ لیکن خلافت فطرت طریق عبادت
 فطرت کے مطابق نہیں کہا سکتی۔ عبادت کے لئے فاتحہ لباس اور خاص قومی رنگ قدرت نے لازمی
 اور ضروری نہیں ٹھہرائے۔ انسان میں مذہبی زندگی کی طرف قدم بڑھانے کے لئے روزہ رکھنا ایک ضروری اور طبعی
 امر ہے۔ روزہ کی غرض کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا
 ہے کہ کوئی شخص بھوٹ اور بڑائی نہیں چھوڑتا تو خدا اس کے بھوکا اور پیاسا بننے کی پروا نہیں کرتا۔ روزہ روح
 کی ہفتائی کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی غرض صرف بھوکا رہنا ہی نہیں بلکہ ہر ایک بدی سے پرہیز کرنا اور اس سے بچنا
 ہے۔ بعض عیسائی صاحبان نے بھی روزہ داری اختیار کر رکھی ہے۔ لیکن باوجود جناب مسیح صاف اور صریح
 احکام کے سب لوگ اس کی طرف نہیں آتے۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ یہ چیز اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی
 جب تک کہ عبادت نہ کی جائے اور روزہ نہ رکھا جائے۔ لیکن جنہوں نے اس روزہ کے اصول کو مانا ہے وہ
 بھلی بجز۔ تھانقاہوں میں لہجہ والے فرقوں کے اس پر اعتقاد ہی رکھتے ہیں۔ مثلاً ان میں کچھ بھی نہیں انسان روزہ
 کے متعلق احکام کی تعمیل تو فقط گوشت چھوڑنے ہی سے کر سکتا ہے۔ اور اپنی خوراک کی اس کمی کو مچھلیاں کھا
 کر بھی پورا کر سکتا ہے۔ اور وہ کسی ایسے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا خیال نہیں کیا جاتا۔ خواہ شراب نوشی بھی ہی بھر
 کر کرے اور اس طرح بد تہذیبی اور دیگر گناہوں کا جو اس سے ظہور میں آتے ہیں ترک ہو گیا اسلامی قواعد اور
 احکام اس قسم کی اجازت نہیں دیتے۔ چنانچہ مارکس و اداس صاحب نے یہاں اس بارے میں تحریر کیا ہے۔
 ماہ رمضان کے روزے صرف اعتقادی ہی نہیں اور تم اس لئے لکھے جاتے ہیں کہ گرمی کے دنوں

میں ثقیل غذا چھوڑ کر عمدہ اور ہلکی غذا کے لئے بھوک تیز کی جائے بلکہ صبح معنوں میں تمام ماہ رمضان میں صبح سے شام تک ہر روز کھانے اور تمباکو نوشی سے قطعاً پرہیز کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس ماہ کو روحانی ترقی کا ایک موقع خیال کیا جاتا ہے۔

اس بات کا نام مذہب نہیں کہ فرقہ آرمین یا ایرین کے خلاف جھگڑے اٹھائے جائیں یا پیران سالوں کی مخالفت کی جائے۔ اور انہیں ان کی غلطیاں ظاہر کر کے بھونٹا ثابت کیا جائے۔ اور نہ مذہب آسے کہتے ہیں کہ جناب مسیح کی پیدائش کے متعلق اور کسی کلیسا کے سرگروہ یا پوپ کے بے خطا ہونے یا ان بچوں اور جواتوں کی قسمت تہوں نے بتسمہ نہیں لیا یا گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کی حد بندی کی نسبت اور یا تثلیث کے مسئلہ کو مدلل طور پر ثابت کرنے کے لئے بڑی بڑی کتابیں لکھی جائیں یا اس قسم کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اس قسم کے مسائل پر برٹش عجائب گاہ میں بیسیوں کٹی مشین کتابیں دھری پڑی ہیں۔ کاش ان کتابوں کے لکھنے والے اپنے اس وقت کو بہتر طور پر صرف کرتے اور ان قباحتوں اور خرابیوں کو جو انسان کی زندگی اور تجارب میں دیکھی باقی نہیں دور کرنے یا ان کو کم کرنے میں توجہ کرتے۔ یہ خرابیاں اکثر ان مسائل علم الہیات کا نتیجہ ہیں جو بالکل غلط فطرت انسانی ہیں۔

مذہب کے متعلق اسلام مسائل اور اصول ہی پیش نہیں کرتا بلکہ ان پر عمل کرنے کی راہ بھی بتلاتا ہے جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذہب کے اصول ایک خطرناک مخالفت کا مقابلہ کر کے پھیلانے ہیں اس وقت سے آج تک لکھ کر کہا انسانوں میں یہ تہاوت عزت سے دیکھے جاتے ہیں۔ جہاں ان سے روحانی ترقی و تعلیم کا رواج دیا ہے وہاں ساتھ ہی عورت و مرد کے لئے پرہیزگاری اور گھٹنگو اور خورد و نوش میں اعتدال قائم کرنے کی بھی تاکید کی ہے۔ اور تمنا بازی اور شراب نوشی کو قبیح بتایا گیا ہے۔ اور اسلام بمقابلہ دیگر تمام مذاہب کے ان تمام بدیوں اور خرابیوں کو جو عیسائی تہذیب کے ساتھ مستلزم ہیں جوڑ سے اٹھاڑنے میں زیادہ تر کامیاب ہوا ہے۔ ان ممالک میں جو اسلامی ہیں تمنا خانیوں یا عیش و عشرت گاہوں یا شرابخانوں کا نام و نشان نہیں۔

جہاں قدیم پروردیوں کا یہ نعرہ کہ خداوند خدا ایک ہے سنائی دیتا ہے۔ وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی بڑے خوش کن لہجہ میں اور بڑے وثوق کے ساتھ اور موثر طور پر کان میں پڑتا ہے۔ اس کلمہ طیب کے پڑھنے سے اس اعتقاد اور ایمان پر ہر لگتی ہے جو کہ پڑھنے والا رکھتا ہے اور جو باوجود صدیوں گزرتے کے بھی مدلل اور فہم نامہ کے عین مطابق پایا گیا ہے۔

اسلامی دنیا کا خدا پر ایمان صرف اعتقاد ہی اعتقاد نہیں۔ یہ نہایت ہی پکا اور اس کی بروہ بہت مضبوط ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے مذاہب میں سے اسلام ہی کے عقائد نہایت مختصر ہیں، ممکن ہے کہ یہ بات صحیح ہو لیکن مسلمانوں کا باری تعالیٰ کی ہستی پر اس قدر ایمان ٹچتا اور راسخ ہوتا ہے۔ کہ وہ خدا کی وحدانیت میں شرکت کو نفرت سے دیکھتے ہیں بلکہ اسے کفر خیال کرتے ہیں۔ بھلا اللہ تعالیٰ کو اگر کہ دوسرے لوگوں برابر کیسے کھڑا کیا جاسکتا ہے۔ اور وہ کیسے اپنی صفات میں دوسروں کو شریک کر سکتا ہے۔ وہ علیٰ اور اکبر ہے اور اسی کی عبادت اور پرستش ہوتی چاہیے۔ مسلمانوں کے نزدیک تین یا دو خداؤں کا ہونا جو قادر مطلق کی حیثیت رکھتے ہوں خلافت عقل اور ظاہر الغیبات ہے۔ اور سنت اتھاج سٹیس کا یہ عقیدہ کہ خدا، بنیا اور روح القدس علیحدہ علیحدہ ہیں۔ لیکن یہ سب ایک ہی سرچشمہ خدا ہی ہیں۔ مگر ان کی شان و جلال برابر ہے۔ اور ان کی بزرگی اور شوکت ہمیشہ کہنے والی ہے۔ ان کے نزدیک بالکل بے معنی اور لغو بلکہ کفر ہے۔

اللہ ہمیشہ اور ابد الاباد تک رہنے والا بادشاہ ہے۔ ہر انسانی خواہش کے اوپر اس کی مرضی ہوتی چاہیے۔ ہر مرد و عورت کا اصول اور مدعا خدا کی رضا چاہیے۔ اسلام کے دماغ میں ایک تو رضا بقضاء اور دوسرا امن اور سلامتی میں داخل ہونا ہی مقصد و مدعا ہے۔ اسلام کا خدا کسی خاص قوم یا فرقہ کا خدا نہیں بلکہ یہ تمام مخلوق اللہ کا خدا ہے۔ اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اگر کوئی اور دنیا بھی موجود ہو تو اللہ اس کا بھی مالک ہے اور وہاں کے رہنے والے اس دنیا کے رہنے والوں کے بھائی ہیں۔ اور یہ ایک اصول اسلام کا ہے جس پر ترا اعتقاد ہی نہیں بلکہ عمل بھی ہے۔ عیسائیت نے جو تعلیم خدا اور انسان کے رشتہ کے متعلق دی ہے اس سے خالق اور مخلوق کے درمیان ایک تعلق اور رشتہ فرض کر لیا گیا ہے۔ جو روحانیت کے سخت مخالف

ہے۔ اس سے خدا کی عظمت میں بہت فرق آتا ہے۔ اور پرستش و عبادت کا وجود کم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی بخشش اور اس کا کرم و فضل اس پر وارد ہو رہا ہے اور اسے خدا کی قربت محسوس ہوتی ہے۔ کیا اس بات سے وہ جامہ میں پھولے نہیں سماتا۔ نہیں بلکہ یہ کہتا زیادہ صحیح و موزوں ہو گا کہ جتنا وہ اس فضل و کرم پر غور کرتا ہے۔ اس پر خدا کی مسیت زیادہ ظاہری ہوتی ہے۔

حُکْمَانِ اور سحیلہ کے معنوں میں اس قدر خیال اور عظمت ہے کہ دوسرے الفاظ میں نہیں خدا کے افضال و برکات کی کسی طرح بھی حد بندی نہیں کی جاسکتی۔ اگر کوئی مسلمان خدا کی ان رحمتوں اور برکتوں کا خیال کر کے جن سے تمام جہان گھرا ہوا ہے۔ تمام جہان کے مالک کی عظمت و جلال کو سامنے لا کر اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اس کی عبادت و پرستش کرے تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں۔ اس تمام جہانوں کے بادشاہ کو مسلمان اللہ کی بکری پکارتے ہیں، یہ سب اسماء سے برتر ہے۔ اور سوائے حقیقی معبود کے کسی کلمہ نہیں بولا جاتا۔ اور اس کے اندر وہ تمام خیریاں شامل ہیں جو دنیا کے کسی نام میں پائی جاسکتی ہیں۔

بِسْمِ اللّٰہِ کوئی اعتقادی مذہب نہیں۔ یہ ایک ضابطہ زندگی ہے جس کے مطابق عمر بسر کی جانی چاہئے قرآن شریف میں بعض جگہ روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے متعلق ہدایات پائی جاتی ہیں۔ لیکن وہ باتیں ادنیٰ دکھائی نہ دیں گی۔ اگر یہ سوچا جائے کہ زندگی تو خدا کے لئے بسر کرنی ہے مسلمان کو خدا کے لئے جینا ہے۔ خدا ہی تمام قسم کے اطمینان اور راستوں کا مرکز ہے۔ وہی جائے امید اور اصل زندگی ہے مسلمان کا مقصد خدا سے پیوست ہو جانا اور اس کی معرفت کاظم پھیلانا ہے تو وہ کسی قسم کا کام کرے۔ اور پیدائش سے دم واپس تک خدا اور صرف خدا ہی کے لئے اپنی عمر گزارنا ہے۔ جو نہی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے کان میں خدا کی عظمت کا اعلان یعنی نعوذ باللہ اگبر پینچایا جاتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کا اعتقاد ہے۔ کہ پہلی آواز بکیر ہی، تو مولود کے کان میں پڑتی چاہیے تاکہ نیک اور متقی زندگی کا بنیادی پتھر مضبوطی کے ساتھ رکھا جائے۔ اور جب بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے اور غم و غصہ یا کسی اور وجہ سے اس کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے تو اس کے والدین یا ولی اللہ ہی کے نام کی لوری اس کے کان میں دیتے ہیں۔ اور اس کی تعلیم کا آغاز بھی بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہی سے کرایا جاتا ہے۔ وہ دن میں پانچ دفعہ اذان میں اللہ اکبیر سنتا ہے۔ اور پھر اگر وہ جنگ کے لئے نکلے تو یہی رُوح کو تازہ کرتے والے الفاظ اس کے لئے تعرُّوْجِ جَنگ کا کام دیتے ہیں۔ اس کے تمام اموالِ خانگی میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہی اس کا تکیہ کلام ہے اور یہی پیغام رُوح کی واسطی پر اس کے کان میں پہنچایا جاتا ہے اور یہی الفاظ ہر ایک شخص کے درو زبان ہوتے ہیں۔

مُسْلِمَانوں کا ایمان ہے کہ ایشارہ انکسارہ اور اللہ کے احکام کی متابعت سے انسان قرب الہی حاصل کر سکتا ہے۔ عیسائی معترنین کہتے ہیں کہ اسلام میں خدا سے ملنے کی کوئی راہ ہی نہیں۔ لیکن سُنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ آپ فرماتے ہیں کہ —

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص سے میں پیار کرتا ہوں میں اُس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ میں اُس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اُس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ اور میں اُس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔“

”انسان خدا کے نزدیک اس سے زیادہ تر ہو ہی نہیں سکتا۔ پادری سی ایف انڈریوں عیسائی مشنری کے ذیل کے الفاظ جو اس نے اپنی کتاب نار تھو انڈیا (شمالی ہند) میں لکھے ہیں پڑھ کر متحجب نہیں ہوتا چاہیے۔ وہ لکھتا ہے کہ —

”ایک پتے اور صحیح معنوں میں مسلمان کی شان اور خلق نیز اس کے روزانہ۔ ہفتہ وار۔ ماہوار اور سالانہ کام کی ترتیب جس میں خدا کو بھلایا نہیں جاتا۔ یہ سب کچھ مل ملا کر ایک سچی نعتِ عظمیٰ ہے جسکی ہمیں کلیب کیلئے پھر حاصل کرنے کی ضرورت ہے“

مُسْلِمَان اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر بجالاتے ہیں کہ اس نے آدم علیہ السلام سے حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لمبا سلسلہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ان کی ہدایات اور رہنمائی کے لئے بھیجا۔ قرآن انہیں بتلاتا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ لیکن وہ سب کے سب انسان تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں۔ اس علم سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں۔ کہ ان تمام بزرگ اور مقدس لوگوں کی سوانح پر غور کرنے سے جو آج تک گزرے ہیں۔ خدا کا قرب حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور ان جیسے اخلاق ظاہر کرنے اور ان کی طرح زندگی بسر کرنے کی ان میں بہت پیدا ہوتی ہے۔



” ہر شخص منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے آسان اور سہل سے سہل راستہ اختیار کرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اسلام مقصود و مطلوب کے لئے چھوٹے سے چھوٹا اگر مشکل ترین راہ دکھلاتا ہے۔“

میں مسلمان ہونے سے پہلے رومن کیتھولک تھا۔ لیکن میں ٹیلیٹ الوبیت - کفارہ - بحکم وغیرہ عقائد کا پابند نہ تھا۔ مگر خدا کو ماننا تھا۔ کوئی کیتھولک پادری ان مسائل کو اصولی طور پر حل نہ کر سکا۔ اور وہ یہی جواب دیتے کہ راز ہمیشہ راز ہی رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت مسیح آخری نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم (نورۃ اللہ علیہ) ان کے بعد انسان ہیں۔ میرا ایمان منزل ہو گیا ایک وقت آیا کہ میری بی بی نے مسلمانوں سے راہ رسم پیدا ہو گئی۔ میں ان سے مذہب پر گفت و شنید کیا کرتا تھا۔ اور بعض اوقات رسم میں گرما گرم بحث ہو جاتی۔ اور میں بتدریج قائل ہو گیا کہ اسلام دلیل مذہب ہے اور برحق ہے۔ خدا کے سوا اور کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ مسجد میں بت۔ مجسمے یا مہروری تمیں پائی جاتی یہاں عبادت الہی ہی ہوتی ہے، اور اس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔“ — ابراہیم وولایا

علم و عمل کا دین

اسلام قبول کرنے سے تقریباً ۱۸ ماہ قبل میرا ذہن بہت زیادہ پر اگندہ تھا۔ میں برابر یہ کوشش کرتا رہا کہ اچھی نیک اور معقول زندگی بسر کر سکوں۔ لیکن اس عزم کو عملی جامہ پہنانے میں کوئی بڑی کمی محسوس کرتا رہا اب جب میں اپنے احساس کا تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ میں جس چیز کی کمی محسوس کرتا رہا وہ صحیح اعتقاد کی کمی تھی۔

میں ۱۹۲۵ء میں جب تعلیم مکمل کر کے کالج سے باہر نکلا، اور عملی زندگی میں اپنا مقام تلاش کرتے لگا تو یہ محسوس ہوا کہ اسکول اور کالج میں مجھے مسیحی مذہب کی جو تعلیم دی گئی تھی وہ اسکول اور کالج کے باہر عملی زندگی اور کاروباری دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکافی تھی۔ دراصل میرا روز کا تجربہ تھا کہ جو مذہبی تعلیم مجھے انگلینڈ کے اسکولوں اور کالجوں میں دی گئی تھی۔ وہ اصولی اور فطری حیثیت تو رکھتی تھی لیکن عملی پہلو سے قطعی غاری تھی، عقیدے ماننے تو جاسکتے تھے لیکن زندگی میں سناہرا میں قائم کرنے اور کردار کی تعمیر میں کوئی مدد نہ دے سکتے تھے چنانچہ ان مذہبی عقائد سے الگ ہو کر جو مجھے اسکول و کالج میں پڑھاٹے گئے تھے میں نے خود اپنی ضرورتوں اور کاروباری و تمدنی تقاضوں کی مناسبت سے اپنے ذہن سے انسانیت کے معیار پر عملی اصول اختراع کر لئے۔

اپنے تمدنی معاملات اور کاروباری معمولات کے مطابق میں نے جو اصول اختراع کئے ان سے میں صرف اس وقت تک مطمئن رہ سکا جب تک میں مشرق وسطیٰ کے دورہ پر نہیں گیا تھا۔

جب میں مشرق وسطیٰ میں تھا ایک رخصت پر میں قاہرہ گیا اور وہاں
 کی مسجد محمد علی اور تیلی مسجد دیکھی میں ان مساجد میں جا کر بہت متاثر ہوا، میرے یہ خیالات
 پر بھی کافی اثبات پڑے مجھے یاد ہے کہ جب میں ان مساجد سے واپس ہو رہا تھا اس
 وقت میرا دل بہت مطمئن تھا۔ اور میں اپنے اندر ایک غیر معمولی سکون و مسرت کا جذبہ محسوس
 کر رہا تھا۔

اس واقعہ کے ۵ ماہ بعد لندن میں پیرنگ کے پورا ہے پر میں "فائنس" کے کتاب گھر
 گیا۔ وہاں میں میجر جیرویس کی سیاحت مصر کی کتب خریدنے گیا تھا۔ یہاں مجھے
 مسٹر لوگر وود جلیب اللہ کی ایک کتاب دستیاب ہوئی، اس کتاب کا نام "اسلام کیا ہے"
 تھا۔ میں نے اس کتاب کو خرید لیا اور اچھی طرح پڑھا۔ یہ کتاب مشرق وسطیٰ کے حالات اور
 بعض اسلامی امور پر مشتمل تھی اور اس کی بعض باتوں کو میں نے بہت پسند کیا اور
 بہت متاثر ہوا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھ پر یہ بات منکشف ہوئی کہ میری زندگی میں
 سی خامیاں ہیں لیکن میں یہ نہ سمجھ سکا کہ میری زندگی میں کس بات کی کمی ہے اور
 اس کو کس طرح پورا کر سکتا ہوں، میرے تھامنے میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جس سے میں اس سلسلہ
 میں کوئی استفادہ کر سکوں۔

بہر صورت میں جستجو میں رہا اور آخر کار مجھے کچھ ایسے مسلم علماء سے ملنے کا موقع مل
 گیا جن سے میں اپنے اعتقادی شکوک و شبہات پر تبادلہ خیالات کیں انہوں
 نے اصول اسلام اور دلائل سے میری دلی تشفی کر دی۔ ساتھ ہی میں نے اسلامی کتب کا مطالعہ
 بھی جاری رکھا۔ اور رفتہ رفتہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ میں زندگی کے زیادہ صحیح اور حقیقی
 راستہ پر گامزن ہو رہا ہوں۔

اسلام کے متعلق میں نے جس قدر بھی معلومات حاصل کیں ان سے زیادہ مطمئن

ہو گیا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ حیات انسانی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں اسلام صحیح حل نہ پیش کرتا ہو۔

اسلام کے متعلق جو میں نے کتابیں پڑھیں انہوں نے اسلام کے اصول پر میری صحیح رہنمائی کی۔ میں خدا۔ خدا کی مخلوق اور خود کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے لگا، اور تسلیم کرنا پڑا کہ اسلام خدا شناسی کا بہترین ذریعہ ہے اور حیات انسانی کیلئے مکمل ضابطہ ہے۔ میرا مذہب عیسائی اس لئے تھا کہ میری ماں اور میرے حامدان کا بھی یہی مذہب تھا۔ جب میں اس مذہب سے مطمئن نہ ہو سکا تو میں نے پوری طرح تحقیق کئے بغیر کوئی دوسرا مذہب قبول کرنے سے استرازا کیا۔ پورے ڈیڑھ دو سال تک اسلام کے متعلق تحقیقات کرتا رہا۔ جب میرے ذہن نے پوری طرح اطمینان کر لیا تو میں نے حق و صداقت کی آواز بلند کرتے ہوئے قبول اسلام کا اعلان کر دیا۔



اسلام ایک دلربا مذہب ہے۔

امینہ اگینس ڈیونیر

”اس مذہب حقہ کے پاک اور سیدھے سادے اصول اور قطری
قانون عجیب و غریب عقول ہیں“

مس حمیدہ بی۔ بونڈ لندن

انسانیت کی معراج

اسلام واحد مذہب ہے جو انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ دین اسلام انسان کی اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، سیاسی اور تمام دیگر ضروریات زندگی میں رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو اس مرحلہ پر پہنچاتا ہے جہاں وہ اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ انسانیت کے لئے مذہب کی ضرورت خصوصاً اس لئے ہوتی ہے کہ انسان انسانیت کے صحیح تقاضوں کو سمجھ کر ان کو پورا کرنے کا طریقہ سیکھے اور سمجھے خدا کی معرفت انسانوں کے باہمی تعلقات اور مخلوق خدا سے سچی ہم سُدوی فطری بندھن کا خاصہ ہے یہ انسان کی زندگی کے مقاصد میں ان مقاصد کی روشنی میں اسلام بہترین مذہب ثابت ہوا ہے۔ انسانی زندگی کا ایک مکمل فضا پر قرآن حکیم موجود ہے۔ میں نے قرآن حکیم کا مطالعہ کر کے اور اس کے احکام و تعلیمات کو پوری طرح سمجھ کر محسوس کیا کہ مذہب کی حقیقی عرض ہے اور وہ صرف اسلام ہی پوری ہوتی ہے۔

اسلام میں کوئی عقیدہ کی بات ایسی نہیں کہی گئی جس کے لئے عقلی دلیل موجود نہ ہو۔ لیکن اس کے برعکس بائبل میں بہت سی ایسی باتیں کہی گئی ہیں جن کو عقل انسانی نہ تو تسلیم کرتی ہے اور نہ اس کے لئے کوئی دلیل موجود ہے۔ بمثال کے طور پر انجیل میں حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے مگر اس کی کوئی دلیل نہیں دی گئی۔

قرآن شریف نے اللہ کی ذات کی یہ تعریف کی ہے کہ نہ اس نے کسی کو بنا اور نہ کسی نے اس

کو جتنا یہ قادر مطلق کی حقیقی تعریف ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان اسلام اور صرف اسلام عطا کرتا ہے اس کے بغیر انسان صحیح راہ پر چل ہی نہیں سکتا۔

میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک سیحی تھا اس وقت میں مذہب کے ان تقاضوں کی روشنی میں جو انسانوں کی رہنمائی کے لئے ہیں عیسائی مذہب سے مطمئن نہ تھا مجھے معلوم ہے کہ میری ہی طرح اور بہت سے عیسائی اپنے مذہب سے مطمئن نہیں ہیں ان میں بہت سے تو ایسے ہیں جو صرف ایسٹیم ایسٹیم میں کہانے باپ دادا عیسائی ہیں اور مسیحیت ان کا آبیائی مذہب کے چوتھے وہ خود مسیحیت کے معلق بھی کچھ زیادہ نہیں جانتے اس لئے ان کے لئے عیسائیت سے مطمئن نہ یا غیر مطمئن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جن مسیحیوں نے مذہب کی کوتاہی پر عیسائیت کو پرکھا اور اپنے مذہب کا گہرا مطالعہ کیا تو سچی عقائد سے غیر مطمئن ہوئے بغیر رہ سکے۔ ان کے ذہن میں شکوک پیدا ہوئے ان میں سے کچھ تو ان شکوک کے نتیجہ میں مذہب کی اہمیت نظر انداز کر کے مطمئن ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور جو لوگ دیگر مذاہب کی تحقیقات میں مصروف ہوئے ان کو انجام کار اسلام کی روشنی نظر آئی ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ مشرف بہ اسلام ہو گئے۔

میں اعتراف کرتا ہوں کہ کسی اتفاقی تبدیلی یا کسی ہنگامہ زحمان کے تحت میں نے مسیحی مذہب ترک کر کے اسلام قبول نہیں کیا۔ بلکہ بتدریج جوں جوں میں قرآن پڑھتا گیا میرے رجحانات تبدیل ہوتے گئے۔ مجھے معلوم ہوا کہ قرآن شریف پڑھ کر میں تاریکی سے روشنی میں آ گیا ہوں۔ اسلام کی پوری تعلیمات میں مجھے کہیں بھی کوئی ایسی بات نظر نہ آ سکی جو عقل کے خلاف یا ناقابل اعتماد ہی بات اسلام کے حقیقی اور فطری مذہب ہونے کی دلیل ہے۔ میں ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں عیسائی تھا اس وقت بھی میں پوری طرح عیسائی نہ تھا کیونکہ میں نے مسیحی مذہب کی مشران باقاعدہ کو قبول کر رکھا تھا جو عقل کے معیار پر صحیح اور معقول نہیں اور

جو باتیں عقل کی کوٹی پر پوری نہ اُترتی تھیں ان کو میں نے قبول اور اختیار نہ کیا تھا۔ اب جب میں نے اسلام کا مطالبہ کیا تو مجھ پر یہ بات روشن ہو گئی کہ جن باتوں کو میں کسی مذہب میں اپنے لئے قابل عمل نہ سمجھتا تھا۔ وہ اسلام میں معقول اور قابل عمل ہیں۔

حضرت عیسیٰ کی بزرگی اور برگزیدہ حیثیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن کسی مذہب میں حضرت عیسیٰ کے تقدس کو جس انداز میں پیش کیا گیا ہے اس سے مجھے ہمیشہ ایک الجھن ہی محسوس ہوتی رہی۔ ایسی الجھن جس سے اللہ

تعالیٰ کی بزرگی و برتری اس کی ذاتِ عالی اور اس کی معرفت میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی تھیں، اسلام میں سجدگی اور ستائش بھی اس حد تک ہے کہ انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

میں اپنے قبول اسلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بڑا انعام سمجھتا ہوں اور انکسرت کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اسلام کی خوبیاں سمجھا کر مجھ پر احسانِ عظیم فرمایا ہے اور میرے متجسس قلب کو سکون بخشا ہے۔



”اسلام کے خصوصی خط وخال جنہوں نے میرے دل میں گھو کر لیا۔ وہ توحیدِ باری تعالیٰ، قرۃ بندگی کے جھیلوں سے آزادی اور خالق و مخلوق کے درمیان کسی وساطت کا نہ ہونا ہے۔“

(جیمس ایسٹوکی)

ایک کشف

میں ایک سابق برطانوی افسر کی حیثیت میں ۱۹۳۲ء میں عیسائی مذہب کی طرف متوجہ ہوا اور نہایت جوش و خروش کے ساتھ اس کی تبلیغ کرتا رہا۔ بلکہ اس مذہب کا اس قدر جنون مجھے تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ انسان کی اس فانی زندگی میں خدا کی طرف سے یہی ایک سچائی اور ہدایت نازل ہوئی ہے۔

بیس سال کے عرصہ میں بائبل کے مضامین مجھے پورے طور پر اذہم ہو گئے کیونکہ میں نے اس عرصہ میں عہد نامہ قدیم کو مکمل طور پر بیسیوں مرتبہ پڑھا اور عہد نامہ جدید کا پچاسوں مرتبہ مطالعہ کیا اس لئے میں ان کے مضامین سے پوری واقفیت رکھنے کا دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہوں۔ عہد نامہ جدید سے اس قدر واقفیت حاصل کر لینے کے بعد مجھے اس چیز کے متعلق جس کی صداقت کی میں تبلیغ کر رہا تھا ایسے شہادت پیدا ہو گئے جنہوں نے میرے دل کو مضطرب کر دیا کیونکہ سچی مذہب کی ابتدائی بنیادیں رکھی گئی ہیں کہ یسوع مسیح کی موت صلیب پر واقع ہوئی اس کا مردوں میں سے سبھی اٹھنا اور آسمان پر چڑھ جانا تاوی حثیت رکھتا ہے۔ میں نے اس بات کی تحقیق شروع کی کہ آیا خود یسوع مسیح کی زبان سے کوئی ایسی یقینی اور ناقابل تردید شہادت مل سکتی ہے، جس میں اس نے اقمہ صلیب سے پہلے یہ کہا ہو کہ وہ صلیبی موت مرے گا یا اس واقعہ کے بعد جب وہ اپنے شاگردوں سے ملا تو اس نے یہ اقرار ان کے سامنے کیا ہو کہ وہ صلیب پر فی الواقع مر گیا تھا۔

پورے دو سال کی تلاش و جستجو کے بعد مجھے افسوس کے ساتھ اپنے آپ سے یہ اعتراف کرنا پڑا کہ کوئی ایسا یقینی اور ناقابل تردید ثبوت ابہم نہیں پہنچا سکا، افسوس کہ سچیت پر ایمان رکھتے

ہوئے جو کچھ میں نے معلوم کیا اس کی بناء پر خود یسوع مسیح کی زبان سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہونے کی حالت میں داخل ہو گا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تین دن اور تین راتوں کا بڑا حصہ گزارنے کے بعد ایک زندہ انسان کی حیثیت سے ہی قبر سے نکل آئے گا۔ علاوہ ازیں جب یہودیوں سے اس آئے والے واقعہ کا ذکر کیا تو اس سے ایک اور صداقت ظاہر ہو گئی اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح سے کبھی کوئی خارق عادت معجزات صادر نہیں ہوئے سوائے بیماروں کو اچھا کرنے کے جو تاریخی حقیقت رکھتے ہیں اگر کوئی ایسے معجزات صادر ہوئے ہوتے تو یہودی اس کی الوہیت کے بارے میں اپنے شکوک زائل کرنے کے لئے کبھی کوئی نشان طلب نہ کرتے ملاحظہ ہو متی باب ۱۲- آیات ۳۹: ۴۰ :-

”اس نے انہیں جواب دیا اور کہا کہ اس زمانہ کے بد اور حرام کار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں پھر یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جائے گا کیونکہ جیسا کہ یونس تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسا ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا“

یہ میرے لئے ایک بہت بڑا الہامی انکشاف تھا پہلی تو بات قابل توجہ ہے کہ خدائی امور سے تعلق رکھنے والا ایک ہی نشان جو یسوع مسیح نے دیا ہے، وہ ایک بڑی مچھلی کا نشان ہے اور یہ پختہ حقیقت ہے کہ یسوع مسیح کو صلیبی نشان سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا جیسا کہ آجکل سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح میرا پہلا مسیحی بیت (صلیب) اگر گر پاسش پاسش ہو گیا۔

پھر اس مچھلی کے نشان سے اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے وابستگی اختیار کر لی اور خیال کیا کہ یہی ایک ظاہری نشان ہے جو اسرائیل کے آخری پستیمیر کی زندگی کے کام کو نمایاں کرتا ہے اور یہ کس قدر صفائی کے ساتھ نمایاں ہوا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ مسیح کے قریباً تین سو سال بعد رومن بادشاہ قسطنطین کے عہد تک عیسائیوں کا مذہبی نشان مچھلی ہی تھا کہ صلیب

ایک قدیم مسیحی نادر ڈوٹو لین نے اسکندریہ کے مسیحیوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ لکھا ہے۔
 ”کیا ہم مسیح کی بڑی مچھلی کے اندر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نہیں ہیں“

یہ بات اپنے زمانہ کے ایک بڑے مسیحی رہنما کے قلم سے نکلی ہے۔
 اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جس طرح یونس ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں زندہ داخل ہوئے
 اور وہاں زندہ ہی رہے اسی طرح یسوع مسیح بھی قبر میں زندہ ہی داخل ہوئے اور وہاں سے اسی
 گوشت پوست میں زندہ انسان کی صورت نکل آئے آپس کی موت صلیب پر گزری واقع
 تھیں ہوئی۔

اپنے شاگردوں کے سامنے یہ اقرار کرتے ہوئے کہ وہ خود یسوع مسیح ہی ہے اور ان
 کی رُوح تھیں انہوں نے کہا :-

”مگر اُس نے اُن سے کہا کہ تم کیوں گھبراہٹ میں ہو اور کاہے کہ تمہارے
 دلوں میں اندیشہ پیدا ہوا ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں اور مجھے چھوؤ
 اور دیکھو کیونکہ رُوح کوئی جسم اور ہڈی نہیں جیسا مجھ میں دیکھتے ہو“

(لوقا باب ۲۴-آیات ۳۸-۳۹)

پس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی متشکل رُوح یا خیالی صورت نہ تھی، اگر وہ کوئی خیالی صورت ہوتی تو
 سپر بلو پلسٹوں کے لئے دوبارہ جی اٹھنے کی ایک توجیہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے بتایا ہوتا کہ وہ صلیب
 پر مر گیا تھا، اناجیل میں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں سے یہ معلوم ہو سکے کہ اس نے شاگردوں سے کہا
 تھا کہ وہ صلیب پر مر کر پھر جی اٹھا ہے، یقیناً وہ صلیب پر چڑھایا گیا، لیکن اس سے بڑھ کر
 یقین کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ صلیب پر مرے تھے، پھر کیا اللہ تعالیٰ نے مسیح کو صلیبی
 موت سے بچانے میں اپنے رحم، محبت اور فضل و کرم کا ستا نذرانہ مظاہرہ نہیں کیا؟ اس طرح
 اس ہولناک مسیحی عقیدے نجات دلانے کا سامان کر دیا کہ کسی پیغمبر کی موت اور اس کا خون اللہ کی پیدائش

نسل انسانی کی نجات کا موجب نہیں ہو سکتا۔ اگر مسیح صلیب پر مر گیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مداخلت نہ کی ہوتی تو اس کا یہ فعل اس کو ایک ایسے خدا کی شکل میں ظاہر کرتا جس کی حیثیت ہمارے قدیم جنگلی آباد اجداد کے خون آشام دیوتاؤں سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتی۔

اسی طرح میرے پہلے بت ڈوٹے چلے گئے اور خدا نے میری آنکھوں کے سامنے انہیں توڑ کر رکھ دیا پھر میں نے خیال کیا کہ وہ مسیحی عقیدہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے جس میں ایک طرف خدا کو ایسی محبت اور اتنے گہرے پیار کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے کہ انسان اس کی گہرائی کو پورے طور پر معلوم نہیں کر سکتا اور دوسری طرف ایک عیسائی یہ کہتا ہوا سناٹی دیتا ہے کہ خدا کی یہ محبت تمام نسل انسانی کو اس وقت تک اپنے اندر لیتے کی وسعت نہیں رکھتی جب تک ایک پیغمبر یا خدا کا اکلوتا بیٹا صلیب پر مر کر اپنا خون نہ بہائے گو یا وہ باری تعالیٰ اپنے غصہ کو انسانی خون سے کھٹڈا کر سکتا ہے۔

ان حالات میں نجات کا مسئلہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اس کی تک کا موجب ہو گیا اور ایک ہفتہ کی سوچ بچار کے بعد میں نے اس مذہب سے بالکل قطع تعلق کر لیا جس کی بیس سال میں نے خدمت کی تھی اب میرے سامنے یہی ایک سوال باقی تھا کہ دلی اطمینان حاصل کرنے کے لئے کس طرف توجہ کرنا چاہیے۔ میں تنہا رنج و غم میں ڈوب گیا ان لوگوں میں سے ہو گیا جو قریباً دہریہ یا لادری واقع ہوئے ہیں یا مذہب سے باغی ہیں۔

۱۹۵۵ء میں میری پیاری بیوی فوت ہو گئی وہ چالیس سال سے میری رفیقہ حیات تھی مگر یہ حصہ میری عام توشی و مسرت میں کسی اہمیت کا موجب نہ تھا۔

میں نے محسوس کیا کہ میں ایک لاوارث ہوں یا اس زمین پر اکیلا ہی انسان ہوں جس کے اندر رشتہ و رفاقت کی کوئی روح نہیں جو روحانی تسکین سے محروم ہے وہ دنیاؤں کی مافیہات سے وہ بارہ تعلق لگانے کی اہلیت نہیں رکھتا کیونکہ موجودہ نسل انسانی اپنے

سب سے بڑے خدا (سائنس) کے ہوتے ہوئے مذہب کو ایک مضحکہ خیز چیز سمجھتی ہے۔
 پس میں نہایت لہجہ و غم میں غیر آباد مضافاتی علاقوں میں تہا چکر لگاتا رہا وہاں میں اکیلا ہی اپنے آپ
 سے باتیں کرتا دلی اطمینان کی تلاش کرتا رہا۔ ان تہا ٹی کے ایام میں ایک دن سہ پہر
 کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایک نیم کشتی حالت مجھ پر طاری ہو گئی یعنی نہ تو پوری خواب
 کی حالت تھی اور نہ پوری بیداری، اس حالت میں ایک عجیب اور خوبصورت نظارہ میری آنکھوں کے
 سامنے آیا ایک گہرنا سفید نورانی گرداب میں ایک لمبے قد کے عالی مرتبہ اور پوجہ جلال مشرقی آدمی کی
 شکل نمودار ہوئی جس کے چہرے سے نیک دلی اور شفقت کے آثار ٹپکتے تھے۔ لمبی ڈاڑھی سر پر
 پگھی میرا خیال ہے وہ بہت بے ترتیب سی سندھی ہوئی تھی) عجم پر ایک خوبصورت اور نہایت سادہ
 شاہی اور خوانی رنگ کا جبہ تھا، جس پر خوشنماہیل بونے بنے ہوئے تھے وہ پاؤں تک لمبا تھا،
 میں سانس کو روکے ہوئے حیرت و تعجب کے ساتھ منتظر تھا کہ آئندہ کیا وقوع میں آتا ہے۔
 پھر ایک چھوٹا سا ستہری رنگ کا ستون یا سینڈ جو ایک چھوٹے سے ALTER کی طرح
 تھا دیکھنے میں آیا اس ALTER پر اس شاہی شکل و صورت کے آدمی نے ایک لمبی چھڑی رکھی اور ایک
 ستہری دستے والے شجر کے ساتھ بڑے پُر وقار طریق سے آہستہ آہستہ اس کے چھوٹے چھوٹے
 ٹکڑے کلٹے شروع کئے میں حیران ہوئے دیکھتا رہا ایک نہایت خوبصورت سریلی آواز میں
 جو گہری محبت میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ ایک ایسی زبان میں گویا ہوا جو میرے لئے اجنبی تھی، جو نہیں اسکے
 منہ سے لفظ نکلے ایک خوبصورت تو جوان مشرقی عورت نمودار ہوئی، اور انگریزی زبان میں لفظ بلفظ
 ان کلمات کو اس نے دہرایا۔

”اوقرنگی! پیغمبر خدا (صی اللہ علیہ وسلم) تجھے سلام دیتے ہیں اور تیرے لئے

امن و راحت کا پیغام لاتے ہیں،“

ابھی تک وہ ہاوقار انسان اس چھڑی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹتا جا رہا تھا کہ اس خاتون نے کہا۔

”مجھے انہوں نے تمہیں یہ پیغام دینے کا حکم دیا ہے کہ چھڑی کے یہ چھوٹے
چھوٹے ٹکڑے تیری زندگی کے سال ہیں اور تو دیکھ رہا ہے کہ
وہ ایک ایک کر کے گرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ
کی یہی رضا ہے۔“

بیک ایک کاٹنے کا عمل ختم ہو گیا اور اس عالی مرتبہ انسان نے چھڑی کے باقی ماندہ حصہ سے اپنے
بائیں طرف اشارہ کیا فوراً ایک تختہ یا ایک گز مربع دروازہ کھل گیا جس سے ایک نہایت خوبصورت
عمارت کا نقشہ نظر آ رہا تھا جو میں نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، یہ ایک نہایت خوبصورت شاندار
مسجد تھی جس کے سہری مینار اس قدر بلندی پر پہنچے ہوئے معلوم ہوتے تھے جس کا اندازہ ہمیں کیا جاسکتا
وہ مینار مشرق کے تیلے آسمانوں میں منڈلانے والے بادلوں میں جا کر گم ہو جاتے تھے، پھر
ایک ناقابل فراموش تصویر میرے سامنے لائی گئی جس پر ایک نہایت شاندار لاجوردی رنگ کا
علائف چڑھا ہوا تھا اس کی زمین سہری نقش و نگار سے مرصع تھی۔ اس تصویر میں مسجد کے نہایت
شاندار مرکزی گنبد کا سونا چمک رہا تھا ایک یاد دلانے والی کیفیت طاری رہی اور پھر جب وہ نظارہ ختم ہوا
تو میرے حواس بجا ہوئے۔

اس وقت ستام ہو چکی تھی مغرب کی طرف جہاں سورج غروب ہو رہا تھا اُفتخ
میں ایک دیکتی ہوئی بھٹی کی طرح سُرخ نمایاں تھی ایک غیر ارغنی خاموشی طاری تھی اربے بڑے بڑے پرندوں
کے گیت اور چھوٹے پرندوں کی پہچا ہٹ ختم ہو چکی تھی اور موت کی سی خاموشی طاری تھی مجھے ایسا
محسوس ہوتا تھا کہ میں ارض مقدس پر اکیلا خدا کے ساتھ ہوں، کانپتے ہوئے بیٹھ لوٹا اور اپنی
خواب کی سر زمین مشرق کی طرف سُرخ کیا پاکیزہ امن و سکون کی کیفیت میں اپنا سر جھکا کر خاموشی
کے ساتھ دعا کی میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود
کی اس شاندار زیارت کے ذریعے سے اپنی ذات عالی کا سایہ مجھ پر ڈالا ہے۔

اس عاجزی اور انکسار کے اندر جو اندرونی تسکین اور ناقابل بیان
 مسرت حاصل ہوتی ہیں نے یہ محسوس کیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ
 کے فضل و کرم سے نوازا گیا ہے، مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میں خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں
 سے دیکھ رہا ہوں

میرے اس خواب کی تعبیر میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ اس چھٹری کی جو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھی اور جس کے ذریعہ خود آنحضرت صلعم نے مقدس مسجد کربلا
 اشارہ کیا تھا بقیہ لمبائی میری بقایا عمر کو ظاہر کرتی تھی، یہ تعبیر میں نے حیرت و استعجاب اور ملی جلی مسرت
 کے ساتھ تھی۔

میرے دل پر ان خیالات نے ہجوم کر لیا جو میں اسلام کے متعلق رکھتا تھا، میں نے سمجھ
 لیا کہ خدا تعالیٰ کے متعلق اسلامی عقیدہ کی حقیقی روح یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی مرضی
 کے بالکل تابع کر دے اور اپنے طبعی اور حیوانی رجحانات کو جو صرف انسانیت، قلب اور ذہن
 سے تعلق رکھتے ہیں ترک کر دے تاکہ اسلام کی الہیاتی اور روحانی زندگی ابتدائی اور حیوانی
 ادراک کے اندر داخل ہو اور خدائی ادراک اس پر غالب آنا شروع ہو جائے

اس وقت میری زندگی کا اہم ترین مسئلہ میرے سامنے آ گیا کہ آیا خدا کی مرضی اختیار کی جائے
 یا اپنی مرضی؟ پس میں مشرق کی طرف یعنی اس قبلہ کی طرف جو ابڑھیم اور اسمعیل کا قبلہ تھا، اور جو
 رسول اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد تمام مومنین کا قبلہ بنا ہوا ہے رخ کیا، ان کی آن میں
 اسلامی مملکت کی تاریخی شان و شوکت میرے دل میں مستولی ہو گئی مجھے اپنے لڑکپن کی باتیں یاد
 آنے لگیں جن کا پہلے کبھی خیال بھی نہ آیا تھا لڑکپن میں افسانوں، گیتوں اور قصہ کہانیوں میں عرب
 کیریگٹر اور عربی قصا میرے لئے کشش کا موجب ہوتی تھی۔ کیا یہ سب کسی انجام کی طرف لے
 جانے والی چیزیں نہیں تھیں؟ اور کیا وہ انجام یہی تھا جو اب پیش آیا، ہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی

اور اس کے منفسد کے دنگلی تابع ہو جانے کی ہی مجھے دعوت دی گئی ہے۔ اس وقت میں نے
عاجزانہ دعا کی کہ میری زندگی کے بقایا ایام اس دعوت کی تعمیل تکمیل اور تبلیغ میں گزریں۔
اور میری زندگی عملی قبولیت کا موجب اور اس کے شایان شان ہو۔ وہ دعوت جو ان مقدس ارشادات
کے ذریعہ سے براہ راست مجھے ملی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شکل و صورت، آپ کا چھری
کی لمبائی کو کاٹنے کا تیشلی عمل شاندار مسجد کا نظارہ یہ سب مل جل کر میرے دل کے اندر ایمان اور
ایقان پیدا کرنے کا موجب ہوئے۔

جب میرے اہامی مکالمات ختم ہو گئے تو گھر کی طرف واپس آیا اس وقت شام کی تاریکی
کی پرچھائیں گہری ہوتی جا رہی تھیں ایک نیادن مجھ پر چڑھا، ایک امن و اطمینان کا دن، ایک روحانی
اقدار کے حصول کا دن۔

میرے لئے یہ واقعہ ایک نئی روحانی زندگی کا باعث ہونے والا تھا چنانچہ
میں نے پھر آپے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا تاکہ قرآن کے غیر تبدیل اور ناقابل
تبدیل الفاظ میں اس کا اللہ اور رحمن و رحیم ہوتا میرے علم و یقین میں داخل ہو جائے وہ قرآن
جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اور انسان کے لئے ایک روحانی ہدایت نامہ ہے اور علم و عقل
کا چشمہ ہے جو خود سرچشمہ علم و عقل کی طرف سے پھینکا گیا وہ کبھی انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا
اس طرح میں نے اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کا شرف حاصل کیا اور عالم محویت میں کھو گیا۔ اس رات میرا
بستر خواب ایک ناقابل بیان اشتیاق سے بھر گیا۔ آخر کار ایک اطمینان بخش نیند مجھ پر طاری
ہو گئی، ایسی نیند جو کئی ہفتوں سے روکھی ہوئی تھی۔

دوسری صبح میں لندن کے روحانی مرکز کے مشہور و معروف مردوں اور عورتوں کو خط
میں مصروف ہو گیا، سب کو علیحدہ علیحدہ مخاطب کیا اور ان سے اپنے اس خاص روحانی نظارہ کی تعبیر
پوچھی، اور یہ دریافت کیا کہ کیا اس کے اندر وہ خصائص موجود ہیں جو ایک سچے روحانی خواب کے لئے

ضروری ہیں وغیرہ وغیرہ؟ کیا یہ کوئی ایسا فرضی اور خیالی خواب تو نہیں، جو طویل تاریخی مطالعہ میں دے ہوئے تحت الادراک خیالات کا نتیجہ ہو؟

مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ان سب مردوں اور عورتوں نے جن سے الگ الگ دریافت کیا گیا تھا متفقہ طور پر میرے کشف کی صداقت کا فتوے دیا اور یہ بتایا کہ یہ کوئی حدیث النفس نہیں بلکہ ایک خارجی اور روحانی خواب ہے جو غیب پر مشتمل ہے اور اسلامی خیالات و خصائص کی تجسیم یا غیر تجسیم کے ذریعہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اثرات کو اس میں واضح کیا گیا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگست ۱۹۵۲ء میں شاہجہان مسجد کی ایک خاتون اور ایک مرد کے ذریعہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا:



”میں نے تقریباً ہر مذہب کی کتابیں پڑھی ہیں۔ اسلام کے متعلق بھی کثیر مطالعہ کیا ہے۔ جوں جوں میں اسلام کا مطالعہ کرتا جاتا تھا۔ مجھے یقین ہوتا جاتا تھا کہ یہ بجا نوع انسان کا حقیقی مذہب ہے۔ اس پر چل کر ہی انسان اپنی ذات میں مکمل ہو سکتا اور اپنے مقاصد سے عہد برا ہو سکتا ہے“

سینئر اناسٹن۔ انگلستان

Mr. R. D. Watson, 9, First Avenue, Hendon, London N.W. 4, England.	1-1-1960
Mr. Woodham.	1-1-1960
Miss Ila Kumari.	1-1-1960
Mr. Ken Roberts, 38, Haroldslea Drive, Horley, Surrey, England.	1-1-1960
Mr. Anthony Goddard, Block 13, M.O.A. Bos- combe Down, Amesbury, Salisbury, Wilts., Gt. Britain.	28-3-1960
Mr. Ramon Luis Pagan, Fagot 29-4 Calles, Ponce, P.R.	25-4-1960
Mr. Balogh Pal Attilq, Makors Ujvoros viii a p. Hungary.	12-2-1960
Miss Maria Gabrielle Hahn, 36, Kemerton Road, London S.E. 5. England.	5-5-1960
Mr. K. Saifullah Bruin,	5-5-1960
Mrs. Akbar Ali Khan, 27, London Place, St. Clements, Oxford, Gt. Britain.	5-5-1960
Mr. S. Kumar Bhattacharya, 4, Bradmore Road, Oxford, Gt. Britain.	7-8-1960
Miss Gertrude Fiala, 24, Denmark Street, Bristol, Gt. Britain.	27-11-1960
Mr. Michael Anthony Medlycott, 68, Tilbury Mead, Harlow, Gt. Britain.	27-11-1960
Miss Jean Coward, 32, Laburnum Walk, Elm Park, Hornchurch, Gt. Britain.	29-3-1961

Miss Marjorie Gladys Pygott, 51, Frenchwood Street, Preston, Lancs., Gt. Britain.	1-5-1959
Miss Terry-Ann Butcher, 103, St. Augustine Road, Southsea, Hants, Gt. Britain.	1-5-1959
Mr. Oswald De Hurtel, 6, Hamilton Park, Highbury Grove, N. 5, Gt. Britain.	1-5-1959
Miss Stokes Roche, 52, Jones Lane, Southampton, Gt. Britain.	17-6-1959
Mr. A. A. Arthur Marshall, Church Army Hostel, Bournemouth, Hants., Gt. Britain.	22-6-1959
Mr. Robert Holmes, Drawer Trenton, New Jersey, U.S.A.	13-7-1959
Miss Maria Luise Steinmann, Hausbergel Porta, Kilkenbrink, 21, W. Germany.	23-7-1959
Mr. Richard McLaren, 25, Laburnum Road, Sunderland, Durham, Gt. Britain.	6-8-1959
Mr. Alfonso Civale, 55, Aberdeen Park, London N. 5, Gt. Britain.	13-9-1959
Miss Anke Knibbe, 91, Elgin Crescent, London, W. 11, Gt. Britain.	10-10-1959
Mr. Horace Frederick Fellows, 12, Park Road, Hatherleigh, Okehampton, Devon, Gt. Britain.	8-11-1959
Mr. J. H. Giles Tapscott, c/o Straits S.S. Co., Ocean Building, Collyer Quarry, Singapore, Malaya.	15-11-1959
Mrs. Louisa Muller, c/o Swiss Benevolent Society, 31, Conway Street, London W. 1, England.	15-11-1959
Miss Ingrid Bahlmann, 124, Arthur Court, Queensway, London W. 2, England.	1-1-1960
Miss Jessie Gyseman.	1-1-1960
Miss June Hassal, 135, Millison Road, Meir, Stoke-on-Trent, England.	1-1-1960
Miss Carol Beakeley.	1-1-1960

Mr. Alvin Joseph Boyd, Maylers Avenue,
Jamaica, F.W.I. 16-12-1958

Mr. Jesse Smitherman, Bon 349, Caldwell, New
Jersey, U.S.A. 16-12-1958

Mr. Robert Jan Hartgers, 35, Pernestraat
Castricum, Holland. 22-12-1958

Mr. Albert John Jones, 114, Carnforth Gardens,
Elm Park, Hornchurch, Essex. Gt. Britain. 3-1-1959

Miss Jeannie Esther Dalliboch, c/o A. Beg
Airpost, Karachi, Pakistan. 3-1-1959

Mr. Robin Carey Tomkins, 519, Sqdn. Serem-
ban, Malaya. 9-1-1959

Miss Janet Lilian Simmons, Box D.U.L.D.
Awali Bahrain, Persian Gulf. 10-1-1959

Mr. James Smith, 17, Fleming Avenue, Newark,
New Jersey, U.S.A. 1-9-1959

Mrs. Margaret F. Gench, 22, St. John's Church
Road, London E.9, England. 2-2-1959

Mr. Bronson Henry, New Jersey State Prison,
New Jersey, U.S.A. 2-2-1959

Mrs. H. Soyer, 54, Kingsgrove, Peckham, Lon-
don S.E. 5, England. 2-2-1959

Mr. Geoffrey Hodgson Abdullah, Lloyds Bank,
6, Pall Mall, London S.W. 1, England. 3-3-1959

Mr. Leroy Sugden, 290, West Market Street,
Newark, N.J., U.S.A. 1-3-1959

Miss Mae Smith, Moseley Hall Hosp. Allestor
Road, Moseley, Gt. Britain. 20-3-1959

Miss Wilma Schweinesbein, Germenheim am
Rhein, A.D.I., W. Germany. 29-3-1959

Mr. Roy Wood, 63, Leyton Avenue, Mansfield,
Notts., England. 30-3-1959

Miss Enid Fossey, West Dene, Church Road,
Westbourne, Emsworth, England. 26-4-1959

Mr. George Patrick Kenyon, 4, Fieldway,
Mughull, Liverpol, Gt. Britain. 23-4-1959

Mr. John Henry Bull, 23, Canning Street, Brighton, England.	25-7-1958
Mr. R. M. J. Robert Aspland, 108, Thundersley Park Road, S. Benfleet, Essex, England.	9-8-1958
Mrs. Sook Kan Hussein, 85, Cambridge Gardenf, London W.10, England.	17-8-1958
Mrs. A. Abdullah, 103, Ifield Road, Earl's Court, London S.W. 10, England.	17-8-1958
Miss Antoinetta Mutz, 229a, Westend Lane, London N.W. 6, England.	29-6-1958
Lt. B. E. I. Hyde Smith, Royal Malayan Navy Barracks, Singapore 27, Malaya.	27-8-1958
Mr. William Walker, Lock Bag. Road, Rahway, New Jersey, U.S.A.	2-8-1958
Mr. William Leverston, Bor. 349, Caidwell, New Jersey, U.S.A.	16-9-1958
Mr. John Ferrier Ruxton, 29, York Street, London W. 1., England.	28-9-1958
Miss Ingrid F. K. Hayen, Muhlenstrasse, 77, Jever/Oldenbug, W. Germany.	29-9-1958
Miss Barbara Mary Barker, Hay Green Lane, Birdwell, Barnsby, Yorks., Gt. Britain.	6-10-1958
Miss Lotte Banholzer, Innertkitchen/Be, Switzerland.	27-10-1958
Miss Ruby McCullars, 366, Washington Street, Newark, New Jersey, U.S.A.	30-10-1958
Mr. Clifford James Crow, H.M.S. Dryad, Southwick, England.	15-11-1958
Mr. Peter S. Paraskeva, 7, Elton Place, London N.W. 3, England.	17-11-1958
Mr. John Hope Vaux, 30, Prince Square, Baywater, London W. 2, England.	18-11-1958
Miss Pauline Prag, St. Andra Blaike Lavantal.	20-11-1958
Miss Imma Lucie Lemcke, 50, Sugden Road, London S. W.11, England.	4-12-1958

Mrs. Phyllis Ahmad, 37, Mayfield Road, London E. 8, England.	7-4-1958
Miss Jamieson Mary Jane, 5, Methley Street, London, England.	17-4-1958
Mr. Barnard Harrison, 60, Castlenau, Barnes, London S.W. 13, England.	21-4-1958
Mr. Fitzroy Anthony Leslie, 74, Stockport Road, Longsight, Manchester, England.	25-4-1958
Mrs. F. I. C. Margaret Eggers, Schoeppenstrdt., Lower Saxony, W. Germany.	5-5-1958
Mr. C. E. Charles Cavadino, 117, Hosp. Circular Road, R.A.F., Halton, England.	9-5-1958
Mr. Sandy Smith, N.J. State Prison Farm, Rahway, New Jersey, U.S.A.	9-5-1958
Miss Barbara Annette Manwers, 34, Marton Grove, Hull, Yorkshire, England.	19-5-1958
Miss Wendy Elizabeth Norris, 85, Emsworth Road, North End, London, England.	27-5-1958
Miss Marie Ward, 130, Clifden Road, Clapton, London, England.	27-5-1958
Mr. William Lee Johnson, Lock Bay Road, Rahway, New Jersey, U.S.A.	27-5-1958
Miss June Freda White, 32, Dale Valley Road, Southampton, England.	28-5-1958
Mr. Faris Glubb, Exeter College, Oxford University, England.	28-5-1958
Miss Enid Jackson, 100, Lady Barn Lane, Fal-low Field, Manchester, England.	28-6-1958
Mr. Leslie Price, 2, Brownlow Road, New Ferry, Cheshire, England.	6-7-1958
Mr. Federick Henry Webb, 103, Ifield Road, London S.W.10, England.	13-7-1958
Mrs. F. S. Sikander Khan, 23, Perryn Road, Acton, London W. 3, England.	18-7-1958

Mr. James Edwin Hagley, 9, Heaton Way, Romford, Essex, England.	26-7-1957
Miss Therese Blab, 47, Canfield Gardens, Lon- don N.W.6, England.	28-7-1957
Miss Sylvia Ann Spencer, 79, Winter Road, Southsea.	2-8-1957
Miss Elizabeth Tibinger, 9, Rotten Park Road, Edgbaston, Birmingham 16, England.	4-8-1957
Miss Bobby Bancroft, 9, Centure Rd. Mile End, Portsmouth, England.	11-8-1957
Mr. John Edwin Clarke, 65, Brockley Rise Lane, London S.E. 23, England.	2-9-1957
Miss Doris May Whiteley, c/o General Hos- pital, Bury, Lancs, England.	26-9-1957
Mrs. Olive Mercy Brown, Lynden, Rogers Lane, Stoke Poges, Bucks., England.	3-10-1957
Miss Jean Margaret Hodges, 54, Kingfisher Court, East Molesey, England.	6-10-1957
Miss Helga Halene Anita, 2a, 99, Belvedere Road, London S.E. 19, England.	15-12-1957
Miss Katie Ann Macdonald, 23, Coverdale Road, Shepherd's Bush, London W. 12, England.	28-12-1957
Miss Helga Jaensch, 170, Walm Lane, London N.W. 2, England.	18-1-1958
Mr. John Vincent Sears, 14, Pembroke Road, Kirkdale, England.	6-2-1958
Mr. Jan Maris van Stein, 2, Gordon Road, Clifton, Bristol 8, England.	8-2-1958
Miss Barbara Doris Miller, 28, Milton Road, Walthamstow, London E. 17, England.	12-3-1958
Miss Sonya Lorimer Miller, 19, Buckingham Street, London W.C, 2, England.	16-3-1958
Mr. K. C. Garnett Oliver, 24, Pound Avenue, Stevenage, Herts, England.	6-4-1958

Mr. Charles Matthew Pace, 58, Connington Road, Lewisham S.E. 13, England.	8-9-1956
Mrs. Sinhini, 6a, Hill Road, London N.W.8, England.	8-9-1956
Mr. Sher Singh Ayed, 52, Parliament Hill, London N.W.3. England.	30-9-1956
Dr. B. P. Bhattacharya, Fairfield General Hospital, Bury, Lancs., England.	24-11-1956
Miss Lily Elise Churcher, 10, Ringroft Street, London N. 7, England.	15-11-1956
Mrs. Nina Constance Capps, Wingfield Cot., Edgcombe, Crowthorne, Berks, England.	
Mr. John Barnston Lamb, Flat 2, 177, Upper Tooting Road, London S.W. 17, England.	14-1-1957
Miss Sakina M. Vivienne Mould, Eye Hospital, Southampton, England.	26-1-1957
Miss Cynthia Chadwick, 36, Renshaw Drive, Bury, England.	20-2-1957
Mr. Joseph Perry Faulton, New Jersey State Prison, Frenton, New Jersey, U.S.A.	23-3-1957
Mr. John Warman, 29, Mess H.M.S. Superb, England.	11-5-1957
Miss Joyce Eileen Boyt, 3, Wain's Ford Close, Pennington, Lymington, England.	17-5-1957
Mr. Bruce Edward Phillips, Lymington Infirmary, Lymington, Hants, England.	17-5-1957
Mr. A. R. James Wardrop, Captain's Office, H.M.S. Adamant, London, England.	20-5-1957
Miss Sylvia Langley, 78, St. Georges Paric Avenue, England.	29-5-1957
Mr. Fred Lorenza Spurlock, Rahwaz Prison Farm, Rahwaz, New Jersey, U.S.A.	7-7-1957
Mr. Robert Bell, Rahwaz Prison Farm, Rahwaz, New Jersey U.S.A.	10-6-1957

Miss Christne Spencer, 26, Denning Road, London N.W., 4, England.	23-10-1955
Miss Hala Margaret Spridgeon, 81, Yorke Way, Hamble, Hants, England.	12-11-1955
Mr. George Edward Cannon, 97, Kearney Avenue, Jersey City 5, New Jersey U.S.A.	14-11-1955
Miss Haniett Patucia Millar, 1156, Dean Street, Brooklyn, New York, U.S.A.	16-11-1955
Mrs. Forest Ernest Barber, Lundbreck, Alberta, Canada.	31-12-1955
Mr. Raphael S. Medina, 64, Cottessmore Court W.8, England.	27-1-1956
Miss Margaret Eellan Oakey, 3, Stewart Ave- nue, Narborough, Leicestershire, England.	6-3-1956
Mr. Svend Aage Madsen, Set. Laurentugade 13, Ribe, Denmark.	21-3-1956
Mrs. Wagida Yousef, 86, Shirland Road, Padd- ington, London.	10-4-1956
Mrs. Daphne Stone, 35, Callingham Place, Earl's Court, England.	12-5-1956
Mr. Ray Hall, Eden-a-Grena, Roundel Pk., Bel- fast, N. Ireland.	11-6-1956
Capt. Peter Gordon Berkshire, 90, Grosvenor Road, Aldershot, England.	8-8-1956
Mr. Harvey Allen, 25b, High Street, Epsom, England.	18-6-1956
Mr. Janu McLaurin, 329, Market Street, Patern- son, New Jersey, U.S.A.	18-6-1956
Miss Jeanette Maureen Jones, 161, Cromwell Road, Kensington, England.	20-5-1956
Mrs. Barbara Fawzia Khalid, 69, Evering Road, London, 16. N. England.	8-9-1956
Miss Danielle Corso, 6, Rue E. Negum, Nice (AM) France.	7-9-1956

Mr. D. C. Dutt, 1, Derwent Grove, London,
S.E. 22, England. 18-12-1954

Mr. Taher Kamal, 118, Rickmansworth Road,
Pinner, Middlesex, England. 30-12-1954

Mr. Alfred C. Hunt, Y.M.C.A., 43, Station
Road, Henley, Oxon, England. 12-1-1955

Mrs. Mary Chard, 118, Rickmansworth Road,
Pinner, Middlesex, England. -181-1955

Mr. Keith George Armstrong, 14-A, Hony-
wood Road, Lenham, Kent, England. 21-1-1955

Mr. Gerald Hugh Armstrong, 14,-A, Hony-
wood Road, Lenham, Kent, England. 21-1-1955

Miss Marie Margaret Long, 115, Accan Moss
Road, Loughborough, England. 25-1-1955

Mrs. M. D. Ahmed, Burleigh Fields, Radmoot
Road, Loughborough, Lincenor, England. 28-1-1955

Mr. Charles George Leonard Jones, 1-A Old
Dean, Bovingdon, Hertfordshire, England. 13-2-1955

Mrs. Sheila Khan, 211, Wightman Road,
Hornsey, London S.N., England. 20-2-1955

Mr. Mehar Ali C. Khuller, 4, Dickens Close
Street, Albans (Herts), England. 23-2-1955

Miss Maria Berner, Bristol General Hospital,
Bristol, England. 16-5-1955

Mr. Joseph Ward, 2, The Bridge Bedale,
Yorkshire, England. 24-6-1955

Mr. Alan John Vigar, 2, Durtnalls Cottages,
Brasted, Westerham, Kent, England. 29-6-1955

Miss Hildegard Holscher, Flat 3, 65, Ramdolph
Ave., London W. 9, England. 10-7-1955

Miss Doris Gooderson, 4, Weyside Road,
Guildford, England. 24-7-1955

Mr. Ernest Brawn Jr. 115, Wilkinson Avenue,
Jersey City, U.S.A. 11-8-1955

Mr. Lt. Comdr. Percy Robinson Berwyn, Gt. Barton, Bury St., Edmunds, England. 15-8-1953

Mr. Henry S. Lewin, 108, Arden Street, Gillingham, Kent, England. 7-9-1953

Miss C. F. Floyed, 2, Fleming Road, Walthamston E. 17, England. 13-9-1953

Mr. N. B. Divecha, 36, Earl's Court Square, London S.W. 5, England. 1-10-1953

Miss Pamela June Nurman, 58, Craighill Road, Leicester, Gt. Britain. 9-1-1954

Mr. Raymond John Lewis Myrick, Officers' Mess, Trg. Bn., Reme Barton, Stacey N. Winchester, Hampshire, Gr. Britan. 7-4-1954

Mr. William Edward Hartzog, 356, Forrest St., Jersey City, New Jersey, U.S.A. 30-4-1954

Mr. Harry Kenneth Walton, c/o 16/17, Lai Chikok Village, Castle Peak Road, Kowloon, Hongkong. 25-3-1954

Mr. Sernon Morris, Rahway Prison Farm, Rahway, New Jersey, U.S.A. 14-6-1954

Miss Marjorie Ethel Harper, c/o National Bank A/Asia, Lothbury, London, England. 29-6-1954

Mr. Charles Beecham, Drawer N. Trenton 6, New Jersey, U.S.A. 11-9-1954

Mr. Wilson Frederick Duke, 333, Claremont Avenue, Jersey City, New Jersey, U.S.A. 16-10-1954

Miss Yvonne Lefko, 9, Hertford Street, London W. 1, England. 2-12-1954

Mr. Fred Allis Goodwin, Hale Common, Newport, England. 4-12-1954

Mr. B. R. Batley, c/o H. Q. Cydef Benghazi, Libya. 12-12-1954

Mr. Henery Grard, 418, Lordship Lane East, Dulwich, London, England. 18-12-1954

- Mr. Werner Merker, 164, Wilford Road,
Nottingham, England. 9-8-1951
- Mrs. Fatimah Beryl Trene Daureauro,
17-Tivoli Road, West Norwood, London
S.E. 27, England. 26-9-1951
- Mr. John Seymour Hancock, 10, Cadogan
Gardens, London S.W. 3, England. 20-10-1951
- Mr. Dennis Malcolm Batchelor, 11, Guild-
count Lane, Sandwich, Kent, England. 23-10-1951
- Mrs. Vicki Ramdhame, 30, Elgen Road,
Ballsendge, Dublin, England 27-10-1951
- Mr. Frederick Owen Curry, c/o Pier Master,
The Pier Bognor Regis, Sussex, Gt. Britain. 2-11-1951
- Miss Musarat Tasneem Kishwar, Hilary Dugg
Gray, 11, Lowndes Square, London, S.W.
1, England. 28-8-1953
- Mrs. F. Qureshi, Lodge Farm House, Station
Road, Netley Abbey, Southampton,
England. 25-1-1953
- Miss Marie Dolores Packer, Military Hospital,
York, England. 28-2-1953
- Mr. Robert Vivian Lowe, 932, Tiverton Ave.
Los Angeles 24, Calif., U.S.A. 18-3-1953
- Mrs. Lilla Marsh, Kuala Lumpur, Malaya. 26-4-1953
- Mrs. Nargis Diane Maria Magda Lena Stella.
Arain De Neclud off, 9, Friern Barneth
Road, New South Gate, London N. 11,
England. 17-5-1953
- Miss Dora Kaczmarek, Pynackenhact 44,
Amsterdam, Holland. 8-6-1953
- Mrs. Lilian Ali, 20, Eckersley Street, London
E. 1, England. 4-7-1953
- Miss Jeannette Salma Dolores Hill, St. John's
Hospital, Lewisham, London S.E. 13,
England. 20-7-1953

Miss Esthen M. Gill, 234, Gt. Portland Street, London W. 1, England.	27-1-1951
Mr. Denison Emil Warrington, 33, The Park, Parramatta, London, N.S.W., England.	8-2-1951
Mrs. Sughra Tine Ahmed, 59, Phitbeach Gardens, London, S.W. 5, England.	17-2-1951
Mr. J. Arnold, 33, A/B (LT) Regd. R.H. Barton Stacey, Winchester, Hants, England.	15-3-1951
Mrs. Ann Mary Philomena Jones, 54-Lon-Y- glyder Bagor Carns.	21-3-1951
Mrs. Matilda Mohammed, 1/87, Scholefield Street, B. Hans-7, England,	26-3-1951
Miss Aileen Glane, 12, Yeunt Street, London W. 11, England.	2-4-1951
Capt. William Harold Burrows, Horsley Hall, Gresford, N. Wales, Scotland.	28-4-1951
Mr. Aprolis, Tsahzes Zeehandelaar, 6, Thurloe Square, S.W. 7. London, England.	27-5-1951
Mrs. Doris Walker, 4, Cornwall Street, West- minster, London S.W. 1, England.	10-6-1951
Mrs. Joyce Mohamed, 45, Lower Eldon Street, Nottingham, Gt. Britain.	13 6-1951
Miss Kathleen Leek, 45, Lower Eldon Street, Nottingham, Gt. Britain.	19-6-1951
Mr. James Leach, 78, Lots Road, Chelsea, London S.W. 10, England.	29-6-1951
Mr. Gerhard Alfred Selle, Noldner Street 3 1, Berlin, Rummelsburg, W. Germany.	7-7-1951
Mr. Ernest Edward Cook, 72, Supply Depot, Sacoas, Mauritius.	16-7-1951
Miss Lilian Jones, 7, Sloane Court, West, London S.W. 1, England.	21-7-1951
Mrs. Arija Bernoues Tyabjee, Boeton, England.	29-7-1951

- Mr. Thomas Henry Roones Bowling, 26, Wrockham Gardens, Potters Bar, Middlesex, England. 7-10-1950
- Mrs. Dora Jvy Bowling, 26, Wrockham Gardens, Potters Bar, Middlesex, England. 7-10-1950
- Mr. Walter Henry Keyes, Army College, Welbeck Abbey, Notts, England. 17-10-1950
- Mr. Howard W. Thomas, 916, Pine Street, Camden, New Jersey, U.S.A. 12-11-1950
- Mr. Ernest Luscombe, 9, Pinewood Avenue, New Haw, Weybridge, Surrey, England. 22-10-1950
- Mr. Moses L. Lawyer, 1313 W, Flora Street, Philadelphia 22, Pa. U.S.A. 12-11-1950
- Mrs. Blanche Lawyer, 1313 W, Flora Street, Philadelphia, Pa. U.S.A. 12-11-1950
- Mr. Nathan Jones Jr., 1927, N. Rinogold Street, Philadelphia, U.S.A. 11-12-1950
- Mrs. Daisy Hollis, 1005, Locust Street, Camden, New Jersey, U.S.A. 12-11-1950
- Mrs. Myra Stacey, 3, Jessamine Road, Shirley, Southampton, England. 14-11-1950
- Mr. Nicholas M. Vasilatos 716, Parondolet Street, Los Angels, California (U.S.A.). 20-11-1950
- Mrs. Joyce Evelain Mia, 52, Stanhope Street, Liverpool 8, England. 23-11-1950
- Miss Ann Elizabeth Gracie Wilding, 58, New Cavendish Street, London W. 1, England. 24-11-1950
- Mr. Alfred Sherman Phelps Jr., 708, Chestnut Street, Camden (3), New Jersey U.S.A. 11-12-1950
- Mrs. Carrie Annie Thomas, 916, Pine Street, Camden, New Jersey, U.S.A. 11-12-1950
- Charles Howard, 213, Benson Street, Camden, New Jersey, U.S.A. 11-12-1950
- Blarence Smith Hollie, 1005, Tocust Street, Camden, New Jersey, U.S.A. 12-12-1950

Iris Margaret Pembery, 89, Oatlands Drive, Wegbridge, Surrey, England.	10-3-1950
Asha Norsidin, 27, Pine Street, Liverpool-7, England.	26-2-1950
Mr. Edward M'cartney, 27, Pine Street, Liver- pool-7, England.	26-2-1950
Mr. Edward Alcock, P. O. Box 1045, Kuala Lumpur, Malaya.	26-1-1950
Mr. Reginald Lawrence Priesithed, 34, Wenning- ton Road, Hampton Hill, Middlesex, England.	20-5-1950
Mrs. Margaret L. Cook, 35, Surrey Road, Reading Berks, England.	22-6-1950
Mrs. Janet M'Allester, 28, Camp Road, Crombia, Scotland.	8-7-1950
Mr. Gerald Kenney, 54, Hunter Street, London W.C.1. England.	8-7-1950
Mr. John Alfred, 77, Embletom Road, London S.E.13 England.	10-7-1950
Mrs. Margaret Ahmed, 5, Godfrey House, Thrawl Street, London, England.	13-7-1950
Miss Jean Helen Rikki, 39, Loop Road, Woking, Surrey, England.	30-7-1950
Mrs. Violet Dorothy Brailsford, 74, Ringston Hill, Thames, England.	6-8-1950
Miss Brenda E'Hull, Woodfield, Stanley Hell Avenue, Amersham, Bucks, England.	22-8-1950
Mr. A. C. Williams, 2, Westbourne Grove, Withington, Manchester 20, England.	22-8-1950
Mr. Franke Kaye, 61, Cross Lane, Primrose Hill, Huddersfield, Yorkshire, England.	12-9-1950
Mrs. Pessy P. Woods, 33, Dewsbury Road, Dollis Hill, London N.W. 10, England.	2-9-1950
Miss Nicola Keith Thomas, c/o The Rectory Stock, Essex, England.	23-9-1950

TOWARDS ISLAM.....

The following are names and addresses of our new brethers and sisters who entered the fold of Islam through Woking Muslim Mision and Literary Trust, Woking, Surrey, England since June 1950 upto March 1961. Due to late arrival of record from England we could not insert the list of 1952.

- Mr. Brian Pric Paul Lavender, Era's Mess,
H.M.S. Caledonia, Rosyth, Scotland. 13-6-1950
- Mr. James Gawers Macdonald, 151, High Street,
Albertshot, England. 13-6-1950
- Mrs. Myra Matthews, 20, Vandyke Street, Liver-
pool 8, England. 12-6-1950
- Mr. Derek Howard Smith, 92, Oldham Road,
Grosscroft, Ne. Oldhaw Lanes (England). 27-5-1950
- Miss Darly Hecly Buerki, 26, Downage, Hendon,
London N.W.4, England 24-5-1950
- Mr. Harold Kaulry Davidson, (C) Camp, Barton
Stacey, Hants, England. 24-5-1950
- Miss N. Selimina Karim, 52, Gun Street, Lon-
don E.1, England. 23-5-1950
- Mr. Abdullah Hussain Karim, 52, Gun Street,
London E.1. England. 23-5-1950
- Mr. Ernest Edward Cook, 3, S.R.D. ; R.A.S.C.,
Taunton, England. 22-5-1950
- Mr. James Ritchie M' Allister, 28, Camp Road,
Brombie, Police Admiralty, Dunfermline,
Scotland. 21-5-1950
- Mrs. Barbara Gammon, 49, Christchurch
Street, Chelsea, London, England. 21-4-1950
- Mr. Leonard Cook, 35, Surrey Road, Reading,
Berkshire, England. 21-3-1950
- Edith Mary Baroky, 8, Woodfield Road,
Ealing, London W.5, England. 18-3-1950
- Miss Barbara Parnell, 7, Elmbanis Mansions,
Barnes, London S.W. 13, England 18-3-1950
- Miss Monica Hazel Anne, 19, Campbell Road,
Southsea. 19-3-1950
- Yusuf Savine, 3, Markham Square, London
S.W.3. England. 11-3-1950

بلاشبہ اللہ کا اصل دین اسلام ہی ہے۔ القرآن

میرا قبولِ اسلام

انگریز نو مسلمین کے قبولِ اسلام کی داستان
اُن کے اپنے قلم سے

ترجمہ
بشیر سوز

مُسْلِمِ مِکِّ سَوَسَاہِیْ عِطِیْ
عزیز منزل، برانڈر تھروڈ، لاہور
ووکنگ مسلمیشن اینڈ ٹیریٹری ٹرسٹ،